

میرزا شریعت کتب میازرخانہ

احکام شریعت



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوانح حیات امام مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

اعلیٰ حضرت عظیم البرکتہ مجدد ماتحت حاضرہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تیرھویں صدی کی واحد شخصیت تھی جو ختم صدی سے پہلے علم و فضل کا آفتاب فضل و مکال ہو کر اسلام کی تبلیغ میں عرب و ہجوم پر چھا گئی اور چوہودیں صدی کے شروع ہی میں پورے عالم اسلام میں ان کو حق و صداقت کا منارہ نور سمجھا جانے لگا۔ ملت اسلامیہ کو اس اعتراف ہے کہ اس فضل و مکال کی گہرائی اور اس علم رائخ کے کوہ بلند کو آج تک کوئی نہ پاس کا۔

پیدائش

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ۱۰ ارشوال المکرہ ۱۳۷۲ھ، مطابق ۱۸۵۶ء جون ہفتہ کے روز ہندوستان کے مشہور شہر بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ اور آپ کا پیدائشی اسم مبارک محمد رکھا گیا۔

علمی بصیرت

مولانا سید سلمان اشرف صاحب بہاری مرحوم مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کو لے کر جب اس نے حاضر خدمت ہوئے کہ ایشیا بھر میں ڈاکٹر صاحب ریاضی و فلسفہ میں فرست کلاس کی ڈگری رکھتے ہوئے ایک مسئلہ حل کرنے میں زندگی کے قبیلی سال لگا کر بھی حل نہ کر پائے تھے، اور فیما غوری فلسفہ کشش ان پر چھایا ہوا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے عصر و مغرب کی درمیانی مختصر مدت میں مسئلہ کا حل بھی قلم بند کر دیا فلسفہ کشش کی کھینچ تان کو بھی قلمبند فرمادیا جو رسالہ کی شکل میں چھپ چکا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب حیران تھے کہ ان کو یورپ کا کوئی تھیوریوں والا درس دے رہا ہے یا اس ملک کا کوئی حقیقت آشنا ان کو سبق پڑھا رہا ہے۔ انہوں نے اس صحبت کے تاثرات کو اجمالاً ان الفاظ میں ظاہر کیا تھا کہ ”اپنے ملک میں جب معقولات کا ایسا ایک پرث موجود ہے تو ہم نے یورپ جا کر جو کچھ سیکھا اپنا وقت ضائع کیا۔“

اس ایک مثال سے آپ کے تبحر علم اور علمی بصیرت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

یہ روز کا معمول تھا کہ فلکیات و ارضیات کے ماہرین اپنی علمی مشکلات کو لے کر آتے اور دم بھر میں حل فرما کر ان کو شاد شاد رخصت فرمادیتے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ ماہرین فن نجوم آئے اور فنِ دشواریوں کو پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے ہستے ہوئے اس طرح جواب دے کر خوش کر دیا کہ گویا یہ دشواری اور اس کا حل پہلے سے فرمائے ہوئے تھے۔

محدث کچھو چھوٹی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ”ایک بار صدر اکہ مایہ ناز (مقامات) شکل حماری اور شکل عروی کے بارے میں مجھ سے سوال فرمائے جب کتاب کی (وہی کیفیت؟) دیکھی تو اپنی تحقیق بیان فرمائی تو میں نے محسوس کیا کہ حماری کی حماریت بے پرده ہو گئی اور عروی کا عرس ختم ہو گیا۔ مسئلہ بخت و اتفاق شمس بازغہ کا سرماہی تخلف ہے۔ مگر اس بارے میں اعلیٰ حضرت کے ارشادات جب مجھ کو ملے تو اقرار کرنا پڑا کہ ملک محمد اگر آج ہوتے تو اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرنے کی حاجت محسوس کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے کسی ایسے نظریے کو بھی صحیح سلامت نہ رہنے دیا جو اسلامی تعلیمات سے متفاہم رہ سکے اگر آپ وجود فلک کو جاننا چاہتے ہوں اور زمین و آسمان دونوں کا سکون سمجھنا چاہتے ہوں اور سیاروں کے بارے میں کل فی فلک یہ سبھوں کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہوں تو ان رسائل کا مطالعہ کریں جو اعلیٰ حضرت کے رشحات قلم ہیں اور یہ راز آپ پر ہر جگہ کھلتا جائے گا کہ منطق و فلسفہ و ریاضی والے اپنی راہ کے کسی موڑ پر کچھ رفتار ہو جاتے ہیں۔

افتا، کی خداداد عظیم صلاحیت

عادت کریمہ تھی کہ استفتاء ایک ایک مفتی کو قسم فرمادیتے اور یہ صاحبان دن بھر محنت کر کے جوابات مرتب کرتے۔ پھر عصر و مغرب کی درمیانی مختصر ساعت میں ہر ایک سے پہلے استفتاء پھر نتویٰ ساعت فرماتے اور بیک وقت سب کی سنتے۔ اسی وقت مصنفین بھی اپنی تصنیف دکھاتے اور زبانی سوال کرنے والوں کو بھی اجازت تھی کہ جو کہنا چاہیں کہیں اور جو سنانا ہو سائیں۔ اتنی آوازوں میں اس قدر جدا گانہ باتیں اور صرف ایک ذات کو سب کی طرف توجہ فرمانا جوابات کی تصحیح و تصدیق اور اصلاح، مصنفین کی تائید و تصحیح اغلاط، زبانی سوالات کے تشفی بخش جوابات عطا ہو رہے ہیں اور فلسفیوں کی اس خبط لا یصدر عن الواحد الا الواحد (ایک ہستی سے ایک وقت میں ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے) کی وجہیاں اڑ رہی ہیں۔ جس ہنگامہ سوالات و جوابات میں بڑے بڑے اکابر علم و فن سر تھام کر چپ ہو جاتے ہیں کہ کس کس کی نہیں اور کس کس کی نہیں، وہاں سب کی شنوائی ہوتی تھی اور سب کی اصلاح فرمادی جاتی تھی، یہاں تک کہ ادبی خطاب پر بھی نظر پڑ جاتی تھی اور اس کو درست فرمادیا کرتے تھے۔

یہ چیز روز پیش آتی تھی کہ تمکیل جواب کے لئے جزئیات فقہ کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے تو عرض کرتے۔ اسی وقت فرمادیتے کہ ردِ اختار جلد فلاں کے صفحے فلاں کی سطر فلاں میں ان لفظوں کے ساتھ جزئیہ موجود ہے۔ ردِ اختار کے فلاں صفحے فلاں سطر پر یہ عبارت ہے۔ عالمگیری میں بقید جلد و صفحہ و سطر میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ہندیہ میں خیریہ میں، بسوٹ میں، ایک ایک کتاب فقہ کی اصل عبارت بقید صفحہ و سطر یہ الفاظ موجود ہیں۔ ارشاد فرمادیتے۔ اب جو کتابوں میں جا کر دیکھتے ہیں تو صفحہ و سطر و عبارت وہی پاتے ہیں جو زبان اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا۔ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خداداد قوت حافظہ سے ساری چودہ سورس کی کتابیں حفظ تھی۔ یہ چیز بھی اپنی جگہ پر حیرت ناک ہے۔

حافظ قرآن کریم نے سالہا سال قرآن عظیم کو پڑھ کر حفظ کیا، روزانہ دو ہر ایسا ایک ایک دن میں سو سو بار دیکھا، حافظ ہوا محرب سنانے کی تیاری میں سارا دن کاٹ دیا اور صرف ایک کتاب سے واسطہ رکھا۔ حفظ کے بعد سالہا سال مشغله رہا ہو سکتا ہے کہ حافظ کو تراویع میں لقے کی حاجت نہ پڑی ہو۔ گویا سادیکھا نہیں گیا اور ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب کسی آیت قرآنیہ کوں کر اتنا یاد رکھیں کہ ان کے پاس جو قرآن کریم ہے اس میں یہ آیہ کریمہ داہنی جانب ہے یا باہمیں جانب ہے۔ گویہ بھی بہت نادر چیز ہے مگر یہ تو عادتاً محال اور بالکل محال ہے کہ آیت قرآنیہ کے صفحہ و سطر کو بتایا جاسکے۔ تو کوئی بتائے کہ تمام کتب متداولہ و غیر متداولہ کے جملہ کو بقید صفحہ و سطر بتانے والا اور پورے اسلامی کتب خانے کا صرف حافظہ ہی ہے یا وہ اعلیٰ کرامت کا نمونہ ربانیہ ہے جس کے بلند مقام کو بیان کرنے کے لئے اب تک ارباب لغت و اصطلاح الفاظ پانے سے عاجز رہے۔

علم قرآن

علم قرآن کا اندازہ صرف اعلیٰ حضرت کے اس اردو ترجمے سے کجھے جو اکثر گھروں میں موجود ہے اور جس کی کوئی مثال سابق نہ عربی زبان میں ہے نہ فارسی میں اور نہ اردو میں اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسرا لفظ اس جگہ لا یانہیں جاسکتا۔ جو بظاہر ترجمہ ہے مگر درحقیقت وہ قرآن کی صحیح تفسیر اور اردو زبان میں روح قرآن ہے۔ اس ترجمہ کی شرح حضرت صدر الافاضل استاذ العلماء مولانا نعیم الدین علیہ الرحمۃ نے حاشیہ پر لکھی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ دوران شرح میں ایسا کئی بار ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے استعمال کردہ لفظ کے مقام استنباط کی تلاش میں دن پر دن گذرے اور رات پر رات کثتی رہی اور بالآخر ملاؤ ترجمہ کا لفظ اٹل ہی نکلا۔ اعلیٰ حضرت خود شیخ سعدی کے فارسی ترجمہ کو سراہا کرتے تھے۔ لیکن اگر حضرت سعدی اردو زبان کے اس ترجمہ کو دیکھ پاتے تو فرماتا ہی دیتے کہ:

ترجمہ قرآن شے دیگرست و علم القرآن شے دیگر علم الحدیث و علم الرجال
 علم الحدیث کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جتنی حدیثیں فقہ حنفی کی مأخذ ہیں ہر وقت پیش نظر اور جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر بظاہر زد پڑتی ہے اس کی روایت و درایت کی خامیاں ہر وقت ازبر۔

علم الحدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اسماء الرجال کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح و تعدیل کے جو الفاظ فرمادیتے تھے اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب و تہذیب میں وہی لفظ مل جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں علم راسخ اور علم سے شغف کامل اور علمی مطالعہ کی وسعت۔

اعلیٰ حضرت نے اس حقیقت کو واضح فرمادیا کہ بعض لوگوں کا ایمان بالرسل بایس معنی نہیں ہے کہ رسول پاک سید المرسلین ہیں، خاتم النبین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اکرم الاولین والا آخرین ہیں، اعلم الخلق اجمعین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں۔ بلکہ صرف بایس معنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی ہیں جو مرکر مٹی میں مل چکے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے بے اختیار اور عند اللہ بے وجہت رہے۔ اگر ان کو بشر سے کم قرار دو تو تمہاری توحید زیادہ چک دار ہو جائے گی۔ ان حقائق کو واضح کر دینے کا یہ مقدس نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی جمہوریت اسلامیہ کی بڑی اکثریت دامن رسول سے پیش ہوتی ہے اور دشمنان اسلام کے فریب سے بچ کر مجرموں کے منہ پر تھوک رہے ہیں۔

فجزاہ اللہ تعالیٰ عنا و عن سائر اہل السنۃ و الجماعة خیر الجزاء

علم فقه میں اعلیٰ حضرت کا مقام

آپ کے علم و فضل اور خاص کر علم فقه میں تحرک اعتراف تو ان اہل علم نے بھی کیا ہے جنہیں مسلک و مشرب میں آپ سے اختلاف ہے۔ مثلاً: ملک غلام علی صاحب جو سید ابوالا علی مودودی صاحب کے معاون ہیں اپنے ایک بیان میں جسے ہفت روزہ "شہاب" لاہور نے ۲۵ نومبر ۱۹۶۲ء کی اشاعت میں درج کیا ہے لکھتے ہیں: "حقیقت یہ کہ مولانا احمد رضا خاں صاحب کے بارے میں اب تک ہم لوگ سخت غلط فہمی میں بتلا رہے ہیں۔ ان کی بعض تصانیف اور فتاویٰ کے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جو علمی گہرائی میں نے ان کے یہاں پائی وہ بہت کم علماء میں پائی جاتی ہے۔ اور عشق خدا رسول تو ان کی سطسترے پھوٹ پڑتا ہے۔"

اسی طرح اعظم گڑھ یوپی سے شائع ہونے والا ماہنامہ مجلہ "معارف" رقمطراز ہے: "مولانا احمد رضا خاں صاحب مرحوم اپنے وقت کے زبردست عالم، مصنف اور فقیہ تھے۔ انہوں نے چھوٹے بڑے سینکڑوں فقہی مسائل سے متعلق رسائل لکھے ہیں۔ قرآن عزیز کا سلیس ترجمہ بھی کیا ہے ان علمی کارناموں کے ساتھ ساتھ ہزار ہافتلوں کے جوابات بھی انہوں نے دیے ہیں۔"

یہ آراء ان لوگوں کی ہیں جن سے مسلکی اختلافات ہیں۔ اور جو مسلک میں تحد ہیں ان کی آراء کا شمار نہیں کیا جائے۔ تاہم چند کلمات علمائے ربانیتین و عظامائے حریم طبیین کے اس موقع پر عرض کردینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ اب تک تذکروں میں جن جن علماء کے نام پیش کئے گئے ہیں غالباً یہ نام ان سے جدا گانہ ہیں:

(۱) شوافع کے مفتی اور امام، نقيب الأشراف اور شیخ السادة فی المدینۃ المنورہ سیدی السید علوی بن السید احمد بافقیہ ارشاد فرماتے ہیں:

”فضل الفضلاء انبیل النباء فخر السلف قدوة الخلف الشیخ احمد رضا۔“

(۲) احتاف کے مفتی و امام السید اسماعیل بن خلیل مدینی فرماتے ہیں۔

”شيخنا العلامۃ المجرد شیخ الاساتذۃ علی الاطلاق الشیخ احمد رضا۔“

(۳) حنبلیوں کے امام و مفتی اور مسجد نبوی میں مدرس امام عبداللہ النابی الحنبلي ارشاد فرماتے ہیں۔

”العالم العامل الهمام الفاضل محرر المسائل و عویصات الا حکام و محکم بروج الادلة بمزيد اتقان و زيادة اجکام سید الشیوخ و الفضلاء الكرام قاضی القاضاة الشیخ احمد رضا خان۔“

(۴) ماکلی حضرات کے امام و مفتی، مدینہ میں دارالاکفاء کے اعلیٰ نگران و حاکم سیدی احمد الجزایری ابن السید احمد المدنی ارشاد فرماتے ہیں۔

”علامة الزمان و فرید الاولان و منبع العرفان و ملحوظ النظرار سید عدنان حضرت مولانا الشیخ احمد رضا خان۔“
یہ چار شہادتیں مفتیان مذاہب اربعہ، احتاف، شوافع، حنابلہ اور ماکتبین مدینہ منورہ کی ہیں۔ چارہی مذاہب اربعہ کے مفتیان کرام، علمائے عظام و مدرسین بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ کی پیش خدمت ہیں۔

(۱) حنفیوں کے امام و مفتی، علامۃ الزمان مولانا سید عبد اللہ بن مولانا السید عبد الرحمن السراج مفتی حنفیہ مکہ مکرمہ تحریر فرماتے ہیں۔

”العامۃ الفہاماۃ الهمام والعمدة الدراکۃ الامام ملک العلماء الاعلام الشیخ احمد رضا خان۔“

(۲) ماکتبین کے امام و قاضی و مفتی و مدرس مسجد حرام کے خاص الخاص مفتی حضرت سیدی امام محمد بن حسین الماکی مفتی و مدرس دیار حرمیہ ارقام فرماتے ہیں۔

”نشرت اعلام الانتصار علی منبر الهدایہ فی جامع الافتخار و قامت تشیت فضائل منشیها وتنص علی مناهل مصطفیها وكیف لا وهو احمد المہتدین رضا لازالت شموس تحقیقاته المرضیۃ طالعة فی سماء

الشرعیۃ السمحۃ المحمدیۃ۔“

(۳) مفتی امام محمد حوث علامہ بیت الحرام مکہ مکرمہ و امام شافعیہ سیدی محمد صالح مدرس مسجد حرام و امام شافعیہ ارقام فرمائے ہیں۔
”فقول ابقاء سامیاذری مجدد مخدوم العزو السبعدر افلأ علل الحبور واردا موارد السرور ماترنم بمدحه
مادح صدح بشکره صاده۔“

(۴) مکہ مکرمہ کے حنابلہ کے مفتی و امام اور مدرس حضرت علامہ مولانا عبداللہ بن حمید مفتی حنابلہ بیکتہ امشر فرماتے ہیں۔
”العالم المتحقق المدقق لا زالت شجرة علمه نامية على ممر الزمان و ثمر علمه مقبولة لدى الملك
الديان الشيخ احمد رضا خان۔“

حرمین شریفین کے صرف چار چار علمائے کرام کی آراء یہاں پر درج کی گئی ہیں اور اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔
ورسہ ان کے علاوہ مصر و شام، عراق و یمن، الجزاير و تونس، طرابلس واردوں وغیرہ اماماں ک عربیہ اسلامیہ کے فضلاء و علماء کے ایسے
ہی خیالات متعدد مرتبہ شائع ہو چکے ہیں۔ جب ہم آپ کی تحریرات و فتاویٰ کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کام اس تعقیب اور اس
تیز رفتاری کے ساتھ کسی شخص واحد سے ممکن ہے؟

مثال کے طور پر ۱۳۲۳ھ کا واقعہ ہے مکہ مکرمہ برائے حج تشریف لے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ حج پر جانے والا اپنے ساتھ کتب فقه و
حدیث کا ذخیرہ تو نہیں لے جاتا فراغت حج کے ساتھ ہی ایک استفتاء جو پانچ سوالوں پر مشتمل تھا دیا جاتا ہے اور تقاضا یہ ہے کہ دو
دن میں جواب مل جائے۔ جس کی مختصر کیفیت یہ تھی جو خود مصنف علیہ الرحمۃ نے بیان فرمائی۔

”میرے پاس بعض ہندیوں کی طرف سے پیر کے دن عصر کے وقت ۲۵ ربیعی الحجہ کو ایک سوال آیا ۔۔۔ میرے پاس کتابیں نہ تھیں
اور مفتی حنفیہ سیدی صالح بن کمال کا کہنا یہ تھا کہ دو دن منگل و بدھ میں جواب مکمل ہو جائے۔ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کی امداد و
اعانت پر جواب صرف دو مجلسوں میں مکمل کیا جس میں سے مجلس اول تقریباً اساتھ گھنٹے کی تھی اور دوسرا مجلس ایک گھنٹے کی۔“

(ترجمہ الدولۃ المکیتہ)

اس استفتاء جو پانچ سوالوں پر مشتمل تھا اور جس کا جواب دونوں نشتوں میں جو تقریباً آٹھ گھنٹے پر حاوی تھیں تحریر کیا گیا یہ عربی زبان میں
چار صفحات کی کتاب تھی جسے بیان تاریخی ”الدولۃ المکیۃ بالمادة الغیبیۃ“ ۱۳-۲۳ سے موسم فرمایا۔
اس مبارک کتاب میں جب کہ آپ کے پاس کوئی کتاب موجود نہ تھی متعدد کتب و فتاویٰ کے حوالہ جات صفحہ وار بتائے ہیں اور محض
اپنی یاداشت پر بتائے ہیں۔ یہ محض رب کریم کی وہ عنایت تھی جو وہ اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے۔

امام الہلسنت قدس سرہ نے اپنی عمر کے آٹھویں سال میں بزبان عربی ”ہدایت النحو“ کی شرح تحریر فرمائی اور چودہ سال کی عمر سے مسلسل فقہ پر کام کیا جواڑہ سال کی عمر تک جاری رہا۔ ایک ہزار کے قریب صفحیں کتابیں اور رسائل یادگار چھوڑے، جو موضوع کے اعتبار سے پچاس مختلف علوم و فنون پر محیط ہیں۔ یہ پچھن سال کا دور پوری تصانیف پر منقسم کیا جائے تو روزانہ کی اوسمی تحریر ساڑھے تین جزو ہوتے ہیں جن کے چھپن صفحات بنتے ہیں۔ فتاویٰ رضویہ ۱۲ جلدیں میں ہے جن میں سے چار جلدیں (کتاب الطہارۃ سے کتاب الحج تک) طبع ہو چکی ہیں۔ آٹھ ابھی شائع نہیں ہو سکیں۔ پانچویں چھپ رہی ہے۔ فتاویٰ دیکھئے تو آپ کو ایک فقیہ کی فقاہت اور ایک مفتی کی شان افتاء کا اندازہ ہو گا۔

امام برویلوی کی شعر گوئی

کتنی عجیب بات ہے کہ ایسے امام الوقت مند اعصر کے پاس جس کورات دن کے کم سے کم بیس گھنٹے میں صرف علم دین سے واسطہ ہو جس کے ایوان علم میں اپنے قلم دوات اور دینی کتابوں کے سوا کچھ نہ ہو، جو عرب و عجم کا رہنمہ ہو، اس کو شعر کہنے کو کیا کہا جائے کسی سے شعر سننے کی فرصت کہاں سے ملتی ہے۔ مگر شان جامعیت میں کمی کیسے ہو اور مملکت شاعری میں برکت کہاں سے آئے اگر اعلیٰ حضرت کے قدم اس کو نہ نوازیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رشک جناب سے سرفراز تھے اس کی طلب تو ہر عاشق کے لئے سرمایہ حیات ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کے حمد و نعمت کا ایک مجموعہ کئی حصوں میں شائع ہو چکا ہے جس کا ایک ایک لفظ پڑھنے والوں اور سننے والوں کو مستی عطا کرتا رہتا ہے۔

اعلیٰ حضرت کا کالغزشوں سے محفوظ رہنا

علمائے دین کے اعلیٰ کارنامے چودہ صدیوں سے چلے آرہے ہیں مگر لغزش علم و فلت لسان سے بھی محفوظ رہنا یا اپنے بس کی بات نہیں۔ زور قلم میں بکثرت تفروضی میں آگئے بعض تجدید پسندی پر اتر آئے۔ تصانیف میں خود آرائیاں بھی ملتی ہیں۔ لفظوں کے استعمال میں بھی بے اختیاطیاں ہو جاتی ہیں۔ قول حق کے لہجہ میں بھی بولے حق نہیں ہے۔ حالہ جات میں اصل کے بغیر نقل پر ہی قناعت کر لی گئی ہے لیکن ہم کو اور ہمارے ساتھ سارے علمائے عرب و عجم کو اعتراف ہے کہ یا حضرت شیخ محقق مولانا محمد عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مولانا بحر العلوم فرنگی محلی، یا پھر اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرمادیا۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ اس عنوان پر غور کرنا ہو تو فتاویٰ رضویہ کا گہر امطالعہ کر ڈالنے۔

فقیر اعظم کا ایک عظیم و جلیل حاشیہ جن چار مجلدات پر مشتمل ہے وہ حاشیہ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ ”رجال المحتار“ پر ہے۔ جسے آپ نے بنام ”جمال المتأر“ موسوم فرمایا ہے۔ لیکن یہ بیش قیمت حاشیہ اسی ذخیرے میں پڑا ہے جو بھی محروم اشاعت ہے۔

مولیٰ تعالیٰ کسی ایسے مرد جلیل کو پیدا فرمادے جو جملہ تصانیف مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ”مرکز اشاعت علوم امام احمد رضا“ قائم کرے اور آپ کے جواہر علمی کو جلوہ طباعت دے۔ آمین!

وصال مبارک

آپ ۲۵ صفر المظفر ۱۳۷۰ھ مطابق ۱۹۵۱ء جمعۃ المبارک کے دن عین اذان جمعہ کے وقت اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا محمد واله واصحابه اجمعين

مسئلہ ۱ ۲ ربیع الآخر شریف ۱۴۲۰ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ کھانا جھینگا کا درست ہے یا نہیں؟ مکروہ ہے یا حرام؟ مع دستخط و مہر کے جواب تحریر فرمائیے۔

الجواب ہمارے مذہب میں مچھلی کے سواتمام دریائی جانور مطلقاً حرام ہیں۔ تو جن بعض کے خیال میں جھینگا مچھلی کی قسم سے نہیں ان کے نزدیک حرام ہونا ہی چاہئے۔ مگر فقیر نے کتب لغت و کتب علم حیوان میں بالاتفاق اسی کی تصریح دیکھی ہے قاموس میں ہے۔

الاربيان بالكسر سمك كالدود

اربيان همزہ مکسورہ کے ساتھ ایک مچھلی ہے مکوڑے کی طرح۔

صحاب و تاج العروس میں ہے۔

الاربيان بعض من السمك كالدود ويكون بالبصرة

اربيان مکوڑے کی طرح سفید مچھلی ہوتی ہے اور بصرہ میں پائی جاتی ہے۔

صراح میں ہے۔

اربيان نوعے از ماہی ست ”اربيان مچھلی کی ایک قسم ہے۔“ منتی الارب میں ہے۔ اربيان نوعے از ماہی ست کہ آزرابہندی جھینگا می گویند ”اربيان مچھلی کی ایک قسم ہے جس کو ہندی میں جھینگا کہتے ہیں۔“ مخزن میں ہے۔ وبيان واربيان نیز آمدہ بفارسی ماہی روبيان و ماہی میک و ہندی جھینگا مچھلی نامند ”روبيان اور اربيان بھی کہتے ہیں فارسی میں روبيان مچھلی اور میک مچھلی اور ہندی میں جھینگا مچھلی کہتے ہیں۔“ تحفۃ المؤمنین میں ہے۔ بفارسی ماہی روبيان نامند تذكرة داؤ دوانطا کی میں ہے۔

روبيان اسم نصر بمن السمك يکثر ببحر العراق و القام احمر كثير الارجل نحو السرطان لكنه اکثر لحماء ”روبيان مچھلی کی ایک قسم کا نام ہے جو عراق اور قام کے سمندر میں بہت ہوتی ہے۔ سرخی مائل کیکڑے کی طرح بہت پاؤں والی لیکن اس میں گوشہ زیادہ ہوتا ہے۔“ حیاة الحیوان الکبری میں ہے۔ الروبيان هو سمك صغیر جداً احمر ”روبيان و سرخی مائل بہت چھوٹی سی مچھلی ہے۔“

تو اس تقدیر پر حسب اطلاق متون و تصریح معراج الدرایۃ مطلقاً حلال ہونا چاہیے کہ متون میں جمع انواع سماں حلال ہوئے کی تصریح ہے۔ والطافی لیس نوعاً برا سہ بل و صفی یعتری کل نوع "اور طافی کوئی مستقل نوع نہیں بلکہ ایک وصف ہے جس کی طرف ہر نوع کی نسبت ہوتی ہے۔" اور معراج میں صاف فرمایا کہ ایسی چھوٹی مچھلیاں جن کا پیٹ چاک نہیں کیا جاتا اور بے آلاش نکالے بھون لیتے ہیں امام شافعی کے سواب ائمہ کے نزدیک حلال ہیں۔ ردا المختار میں ہے وہی معراج الدرایۃ ولو وجدت سمکة في حوصلة طائر تو كل و عند الشافعی لا تو كل لانه كالرجيع ورجع الطائر عنده نجس و قلنا انما يعبر رجيعاً اذا تغير و في السمك الصغار التي تقلی من غير ان يشق جوفه فقال اصحابه لا يحل اكله لان رجيعه نجس و عند سائر الانمه يحل "اگر پرندہ کی پوٹ میں مچھلی پائی جائے تو کھائی جائے گی اور امام شافعی کے نزدیک نہ کھائی جائے گی کیونکہ وہ بیٹھ کی طرح ہے اور ان کے نزدیک پرندہ کی بیٹھ بپاک ہے اور ہم کہتے ہیں بیٹھ اس وقت ہو گی جب کہ متغیر ہو گئی ہو اور وہ چھوٹی مچھلیاں جن کا پیٹ چاک کیے بغیر انہیں بھونا جاتا ہے، شوافع کہتے ہیں ان کا کھانا حلال نہیں کیونکہ پرندہ کی بیٹھ نجس ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک حلال ہے۔" مغرفیق نے جواہر اخلاقی میں تصریح دیکھی کہ ایسی چھوٹی مچھلیاں سب مکروہ تحریکی ہیں اور یہ کہ یہی صحیح تر ہے۔ حیث قال السمک الصغار کلها مکروہہ کراہۃ التحریم هو الاصح "جب کہ کہا ہے چھوٹی مچھلیاں تمام کی تمام مکروہ تحریکی ہیں۔ یہی بات زیادہ صحیح ہے۔" جھینگے کی صورت عام مچھلیوں سے بالکل جدا اور گنگے وغیرہ کیڑوں سے بہت مشابہ ہے اور لفظ ماہی غیر جنس سماں پر بولا جاتا ہے۔ جیسے ماہی سقنوور۔ حالانکہ وہ ناکے کا بچہ ہے کہ سواحل نیل پر خشکی میں پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ائمہ سے حلت رو بیان میں کوئی نص معلوم نہیں۔ اور مچھلی بھی ہے تو یہاں کے جھینگے ایسے ہی چھوٹے ہیں جن پر جواہر اخلاقی کی وہ تصحیح وارد ہو گی۔ بحر حال ایسے شبہ و اختلاف سے بے ضرورت بچنا ہی اولیٰ ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

كتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کیا فرماتے ہیں علمائے فحول و مفتیان ذوی العقول اس مسئلہ میں کہ کہنا ”یار رسول اللہ“ ”یا ولی اللہ“ کا جائز ہے یا نہیں؟ اور مدد چاہتا پنجمبر ان اور ولی اللہ سے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو ”یامشکل کشا علی“ وقت مصیبت کے کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مع دستخط کے مرحمت فرمائیے تاکہ میں صاف صاف لوگوں کو سمجھا دوں۔ اور عربی آیت و حدیث جہاں آئے اس کا ترجمہ بزبان اردو تحریر فرمایا جائے۔ بینوا تو جو روا

الجواب جائز ہے جب کہ نہیں بندہ خدا اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ جانے اور نہیں باذن الہی والمدبرات امراء مانے اور اعتقاد کرے کہ بے حکم خدا ذرہ نہیں بہل سکتا۔ اور اللہ عزوجل کے دینے بغیر کوئی ایک حب نہیں دے سکتا۔ ایک حرف نہیں سن سکتا۔ پلک نہیں ہلا سکتا۔ اور پیشک سب مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے۔ اس کے خلاف کا ان پر گمان محض بدگمانی و حرام ہے اور ایسے پچ اعتقاد کے ساتھ نہ کرنا بلاشبہ جائز ہے۔ جامع ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث میں ہے خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناپینا کو یہ دعا تلقین فرمائی کہ نماز کے بعد یوں کہیں۔

یا محمد انی اتو جه بک الی ربی فی حاجتی هذہ لیقضی لی

”یار رسول اللہ! میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں منہ کرتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو۔“ اور بعض روایات میں ہے۔

”تاکہ حضور میری یہ حاجت پوری فرمائیں۔“ **لیقضی لی یار رسول اللہ**

ان ناپینا نے بعد نماز یہ دعا کی فوراً آنکھیں کھل گئیں۔

طبرانی وغیرہ کی حدیث میں ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت عثمان بن حنیف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا ایک صحابی یا تابعی کو بتائی۔ انہوں نے بعد نماز یوں ہی ندا کی کہ یار رسول اللہ! میں حضور کے وسیلے اس حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ ان کی حاجت بھی پوری ہوئی۔ پھر علماء ہمیشہ اسے قضاۓ حاجات کے لئے لکھتے آئے۔ نیز حدیث میں ہے۔

اذ ارادعونا فلينا داعينونی یا عباد اللہ

جب استعانت کرنا اور مدد لینا چاہے تو یوں پکارے میری مدد کروائے اللہ کے بندو۔

فتاویٰ خیریہ میں ہے۔

قولهم يا شيخ عبد القادر نداء فلما الموجب لرحمته

یا شیخ عبد القادر کہنا ندا ہے۔ اس کی حرمت کا سبب کیا ہے۔

فقیر نے اس بارے میں ایک مختصر رسالہ ”انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ“ لکھا۔ وہاں دیکھئے کہ زمانہ رسالت سے ہر قرن وزمانہ کے ائمہ و علماء صلحاء میں وقت مصیبت محبوبان خدا کو پکارنا کیسا شائع ذائقہ رہا ہے۔ وہابیہ کے طور پر معاذ اللہ صحابہ سے آج تک وہ سب بزرگان دین مشرک ٹھہرتے ہیں۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اعلیٰ العظیم۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۳ مریض الآخر شریف ۱۳۲۰ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے احتجاف، رحم کرے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر اور برکت دے علم میں کہ فیض پہنچاتے ہیں علم سے اپنے خلاق کو اس قول میں کہ وردی جو کہ سپاہی پولیس کے پہنچتے ہیں اور دھوٹی جو کہ کفار پہنچتے ہیں اس کو پہن کر نماز مکروہ ہے یا کہ مکروہ تحریکی؟ بینوا تو جروا۔

الجواب وہ وردی پہن کر نماز مکروہ ہے۔ خصوصاً جب کہ سجدہ بوجہ مسنون سے منع ہو۔ فتاویٰ امام قاضی خاں میں ہے۔

الاسکاف او الخیاط اذا استو جر علی خیاط شئی من زی الفساق ويعطی له فی ذلك کثیرا جرلا

یستحب له ان یعمل لانه اعانة علی المعصیة

”موچی اور درزی جب کسی ایسی چیز کے سینے کا اجارہ کرے جو فساق کا پہناؤ ہے۔ اور اس کے لئے اسے بہت اجرت بھی ملے اسے وہ کام نہ کرنا مستحب ہے کیونکہ اس کام کا کرنا گناہ پر مدد کرنا ہے۔“

اور دھوٹی باندھ کر بھی مکروہ ہے کہ اگر لباس ہنود وغیرہ نہ ہو تو کپڑے کا چیچھے گھرنا ہی نماز کو مکروہ کرنے کے لئے بس ہے۔

نهیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن کف ثوب او شعر

بوجہ منع کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اور بال سمیٹنے سے۔

ہاں یچھے نہ گھر سیں تو وہ دھوٹی نہیں تہہ بند ہے۔ اور اس میں کچھ کراہت نہیں بلکہ سنت ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ جل مجده اتم واحکم

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کیا فرماتے ہیں علمائے اہلسنت کہ جھوٹا کافر کا پاک ہے یا ناپاک؟ اگر کوئی کافر سہوایا قصد احتقہ یا پانی پی لے کیا حکم ہے؟ ترجمہ بزبان اردو ضرور بالضرور ہر مسئلہ میں تحریر فرماتے جائیے تاکہ عام لوگ بخوبی سمجھ لیا کریں۔ بینوا توجروں کثیر ا۔

الجواب کافر ناپاک ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ

انما المشركون نجس ”کافر نے ناپاک ہیں۔“

یہ ناپاکی ان کے باطن کی ہے۔ پھر اگر شراب وغیرہ نجاستوں کا اثر ان کے منہ میں باقی ہو تو ناپاکی ظاہری بھی موجود ہے اور اس وقت ان کا جھوٹا ضرور ناپاک ہے اور حقدہ وغیرہ جس چیز کو ان کا لعاب لگ جائے گا ناپاک ہو جائے گی۔ تنوری الابصار میں ہے۔

سور شارب خمر فور شربها و هرہ فوراً كل فارة تجس

”شراب پینے کے بعد کا شرابی کا جھوٹا اور چوہا کھانے کے بعد بلی کا جھوٹا نجس ہے۔“

یونہی اگر کافر شراب خور کی مونچھیں بڑی بڑی ہوں کہ شراب مونچھ کو لگ گئی۔ توجب تک مونچھ دھل نہ جائے گی پانی وغیرہ جس چیز کو لگدی ہے ناپاک کر دے گی۔ درختار میں ہے۔

لو شاربه طويلا لا يستوعبه اللسان فتجس ولو بعد زمان

”اگر اس کی مونچھیں اتنی لمبی ہوں کہ انہیں زبان نہ گھیر سکے تو نجس ہے۔“

اگر چہ کچھ دیر کے بعد ہی پئے۔

اور اگر ظاہری نجاستوں سے بالکل جدا ہو تو اس کے جھوٹے کو اگرچہ کتے کے جھوٹے کی طرح ناپاک نہ کہا جائے گا۔

في التوير الدر سور ادمي مطلقا ولو جنبأ او كافرا طاهر الفم طاهر اه

”تنوری اور درر میں ہے آدمی کا جھوٹا مطلقاً پاک ہے اگرچہ جنپی ہو یا کافر بشرطیکہ اس کا منہ پاک ہو۔“

محضراً اگرچہ ہر چیز کہ ناپاک نہ ہو طیب و بے دغدغہ ہونا ضروری نہیں۔ رینٹھ بھی تو ناپاک نہیں، پھر کون عاقل اسے اپنے لب و زبان سے لگانے کو گوارا کرے گا؟ کافر کے جھوٹے سے بھی بحمد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی ہی نفرت ہے۔ اور یہ نفرت ان کے ایمان سے ناشی ہے۔

www.alahazrat.net
وفي دفعه عن قلوبهم سقاط شناعة الكفرة عن اعينهم او تخفيفها و ذلك غش بال المسلمين وقد صر
العلماء كما في العقود الدرية وغيرها ان المفتى انما يفتى بما يقع عنده من المصلحة ومصلحة
ال المسلمين في ابقاء النقرة عن الكفرة لا في القائمها

”اور ان کے دلوں سے اس کے اٹھانے میں ان کی آنکھوں سے کفار کی برائی دور کرنا ہے یا کم کرنا اور یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکا ہے
اور تحقیق علماء نے تصریح کی ہے جیسا کہ عقود دریہ وغیرہ میں سے بے شک مفتی وہ فتویٰ دے جس میں اس کے نزدیک مسلمانوں کا
بھلا ہو۔ اور مسلمانوں کا بھلا کافروں سے نفرت باقی رکھنے میں ہے نہ اس کے ختم کرنے میں۔“

والہذا جو شخص دانستہ اس کا جھوٹا کھائے پے مسلمان اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ مطعون ہوتا ہے۔ اس پر محبت کفار کا گمان ہو
جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے:

من كان يوم بالله واليوم الآخر فلا يقف موافق التهم

”جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو تہمت کی جگہ کھڑا ہو۔“

متعدد حدیثوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”اس بات سے نجیج جو کان کو بری لگے۔“

ایاک و مايسوء الاذن

رواہ الامام احمد عن ابی الغادیہ والطبرانی فی الکبیر وابن سعد فی طبقات والعسکری فی الامثال وابن
مندة فی المعرفة والخطیب فی المؤتلف کلہم عن ام الغادیہ عمة العاص بن عمرو الطفاوی وعبدالله بن
احمد الامام فی زوائد المسند وابو نعیم وابن مندة کلاہما فی العرفۃ عن العاص المذکور مرسل
وابو نعیم فیها عن حبیب بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم

نیز بہت حدیثوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”ہر اس بات سے نجیج جس میں عذر کرنا پڑے۔“

ایاک و كل امریعتذر منه

رواہ الضیاء فی المختار و الدیلمی کلاہما بسنہ حسن عن انس والطبرانی فی الاوسط عن جابر وابن
بنیع و من طریقة العسکری فی امثاله و القضاۓ فی مسنده معا والبغوى و من طریقة الطبرانی فی اوسطه
والمخلص فی السادس من فوائدہ وابو محمد الابراهیمی فی کتاب الصلة و ابن النجار فی تاریخہ
کلہم عن ابن عمرو الحاکم فی صحیحه والبیهقی فی الزهد و العسکری فی الامثال و ابونعیم فی
المعرفة عن سعد ابی وقار و احمد و ابن ماجہ بسنہ احسن و ابن عساکر عن ابی ایوب الانصاری

کلهم رافعیہ الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و البخاری فی تاریخہ و الطبرانی فی الکبیر و ابن منذہ

عن سعد بن عمارہ من قوله رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بشروا ولا تنفروا رواه الائمه احمد والبخاري و مسلم والنسائي عن انس رضي الله تعالى عنه

”بشارت دو اور وہ کام نہ کرو جس سے لوگوں کو نفرت پیدا ہو۔“

پھر اس میں بلا وجہ شرعی فتح باب غیبت ہے اور غیبت حرام (فما ادی الیہ فلا اقل ان یکون مکرها) تو دلائل شرعیہ و احادیث صحیحہ سے ثابت ہوا کہ کافر کے جھوٹ سے احتراز ضرور ہے۔

وَكُمْ مِنْ حُكْمٍ يَخْتَلِفُ بِالْخِتَالِفِ الزَّمَانُ بِلُ وَالْمَكَانُ كَمَا شَهَدَ بِهِ فَرْوَعُ جَمِيعَهُ فِي كِتَابِ الْأَئْمَةِ هَذَا
مَا عَنِّي وَ بِهِ افْتَيْتُ مَرَارًا وَاللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ مَعْتَمِدٌ وَالَّهُ مُسْتَنْدٌ وَاللَّهُ سَبَّحَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

”اور بہت سے احکام اختلاف زمانہ کے ساتھ بلکہ اختلاف مکان کے ساتھ مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس کی شہادت وہ فروع ہیں جو کتب ائمہ میں جمع ہیں۔ یہ ہے جو میرے پاس ہے اور میں نے اس کے ساتھ کئی بار فتویٰ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میری سند ہے۔ اور اللہ پاک و بلند خوب جانتا ہے۔“

کتب کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۵ ۷ ربیع الآخر شریف ۱۳۲۰ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین متین کہ ایک شخص نماز ظہر کی پڑھنے کھڑا ہوا اور اس نے بعد چار سنت پڑھنے کے سہوا پھر چار سنت کی نیت باندھ لی اور اس کو چار فرض پڑھنا چاہیے تھے۔ جس وقت کہ وہ دور کعت نماز ادا کر چکا اس کو خیال ہوا کہ اب مجھ کو فرض پڑھنا تھے۔ پس اس نے اپنے دل میں فرضوں کی نیت باندھ لی کہ میں فرض پڑھتا ہوں اور اس نے دور کعت پیشتر کی بہ نیت سہواست ادا کی اور دور کعت آخر کی بہ نیت فرض کے خالی الحمد کے ساتھ پڑھی۔ در ایں صورت کہ اب اس کی نماز فرض ہوئی یا سنت بینوا توجرو؟

الجواب یہ نماز فرض ہوئی نہ سنت۔ فرض تو یوں نہ ہوئے کہ پہلی دور کعتوں میں نیت فرض کی نہ کی تھی اور فعل کے بعد نیت کا اعتبار نہیں۔ فی الدر المختار لاعبرة بنية متأخرة عنها على المذهب او رد دور کعت اخیر میں اگر فرض کی نیت اس نے تیری رکعت کی پہلی تکبیر کے وقت بحال قیام نہ کی، جب تو یہ نیت ہی لغو ہے۔ اور اس وقت کی تواب وہ پہلی نیت سے نماز فرض کی

طرف منتقل ہو گیا۔ اگر چار پوری پڑھ لیتا فرض ہو جاتے۔ مگر اس نے دو پر قطع کردی الہاذی بھی فرض نہ ہوئے۔

فِي الدِّرِ المُختارِ يفسدُهَا انتقالُهُ مِنْ صَلْوةِ إِلَى مُغَايِرَتِهِ فِي رِدَالِ الْحَتَّارِ رِبَانٍ يَنْوِي بِقَلْبِهِ مَعَ التَّكْبِيرَاتِ
الْأَنْتِقالُ الْمَذْكُورُ قَالَ فِي النَّهْرِ بَانَ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الظَّهِيرَةِ مُثَلَّثًا فَتَطَوَّعَ بِتَكْبِيرَةٍ فَإِنْ كَانَ
صَاحِبُ تَرْتِيبٍ كَانَ شَارِعًا فِي التَّطَوَّعِ عِنْدَهُمَا خَلَافًا لِمُحَمَّدٍ أَوْ لِمَنْ يَكُنْ بَانَ سَقْطًا لِلضِيقِ أَوْ لِكُثْرَتِ صَحَّةِ
شَرْوِعِهِ فِي الْعَصْرِ لَأَنَّهُ نَوِيَ تَحْصِيلَ مَالِيْسِ بِحَاصِلِ فَخْرَجَ عَنِ الْأُولَى فَمِنَاطُ الْخُرُوجِ عَنِ الْأُولَى صَحَّةِ

لشروع في المغاير ولو من وجه الخ

”در مختار میں ہے فاسد کرتا ہے نماز کو انتقال اس کا ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف جو پہلی نماز کے مغار ہو۔ شامی میں ہے جیسے
آدمی اپنے دل کے ساتھ نیت کرے تکبیرات کے ساتھ انتقال مذکور کی مصنف نہر نے کہا ہے جیسے نمازی نے ظہر کی مثلاً ایک رکعت
پڑھی پھر عصر شروع کر دی یا نفل تکبیر کے ساتھ شروع کر دیئے پس اگر وہ صاحب ترتیب ہے شیخین کے نزدیک وہ نفل شروع کرنے
والا ہے۔ امام محمد کا اختلاف ہے یا نہیں ہوا ساقط ہوئی بوجہ تسلی وقت کے یا واسطے کثرت کے درست ہے شروع ہونا اس کا عصر میں
کیونکہ اس نے ایسی چیز کے حاصل کرنے کی نیت کی ہے جو اسے حاصل نہیں پس پہلی نماز سے نکل گیا پس پہلی نماز سے نکلنے کا
دار و مدار صحبت شروع ہے پہلی نماز سے مغار نماز میں اگرچہ تغایر میں وجہ ہو۔“

اور سنت نہ ہونا ظاہر ہے کہ سنتیں تو پڑھ چکا ہے بلکہ اگر سنتیں نہ پڑھی ہوتیں اور تیسری یا کسی رکعت کی تکبیر اول کے وقت نیت فرض
کی کر لیتا جب بھی سنتیں نہ ہوتیں کہ وہ اس نیت کے سبب فرض کی طرف منتقل ہو گیا۔ بہر حال یہ رکعتیں نفل ہوئیں۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عَفْنِ عَنْهُ بِمُحَمَّدِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسئلہ ۶ ۸ ربیع الآخر شریف ۱۴۲۰ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نماز فرض پڑھتا ہے اور اس نے سہوا پچھلی دور رکعت میں
بھی بعد الحمد کے ایک ایک سورت پڑھی۔ بعدہ، سلام پھیرا۔ اب اس کی نماز فرض ہوئی یا نہ است؟ جیسا ہو ویسا ہی معہ دستخط مہر کے
ارقام فرمائیے۔ اور اگر وہ بجدہ سہو کر لیتا تو اس کی نماز فرض ہو جاتی یا نہیں؟

الجواب فرض ہوئے اور نماز میں کچھ خلل نہ آیا۔ اس پر سجدہ سہو تھا۔ بلکہ اگر قصداً بھی فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورۃ ملا

لے تو کچھ مضاائقہ نہیں صرف خلاف اولی ہے بلکہ بعض ائمہ نے اس کے متحب ہونے کی تصریح فرمائی۔ فقیر کے نزدیک ظاہر یہ استجواب تہاڑھنے والے کے حق میں ہے۔ امام کے لئے ضرور مکروہ ہے۔ بلکہ مقتدیوں پر گراں گزرے تو حرام۔ درجتار میں ہے:

ضم سورة في الاولين من الفرض وهل يكره في الاخرين المختار لا

”فرضوں کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ کاملاً فرض ہے۔ اور کیا بچھلی دور کعتوں میں مکروہ ہے؟ مختار یہ ہے کہ مکروہ نہیں۔“
روالمحترمین ہے:

ای لا یکره تحريمًا بل تنزيها لانه خلاف السنة قال في الملة وشرحها فان ضم السورة الى الفاتحة ساهي
تجب عليه سجدة السهو في قول ابى يوسف لتأخير الركوع عن محله وفى اظهر الروايات لا تجب لان
القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير والانتصار على الفاتحة مسنون لا واجب اه فى البحر عن فخر
الاسلام ان السورة مشروعة في الاخرين نفلا وفى الذخيرة انه المختار وفى المحيط هو الاصح اه
والظاهر ان المراد بقوله نفلا بجواز المشروعة بمعنى عدم الحرمة فلاينا فى كونه خلاف الاولى كما
افاده فى الحليلة اه ما فى رد المختار. اقول لفظ الحيلة ثم الظاهر ابا احتها كيف لا وقد تقدم من حديث ابى
سعيد الخدرى فى صحيح المسلم وغيره انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ فى صلوة الظهر فى
الركعتين الاولى قدر ثلاثين آية وفي الاخرين قدر خمسة عشر آية او قال نصف ذلك. فلا جرم ان قال
فخر الاسلام فى شرح جامع الصغير واما السورة فانها مشروعة نفلا في الاخرين حتى قلنا فيمن قراء فى
الاخرين لم يلزمته سجدة السهو انتهى. ثم يمكن ان يقال الاولى عدم الزيادة ويحمل على الخروج
مخراج البيان لذلك الحديث ابى قتادة رضى الله تعالى عنه (يريد ما تقدم برواية الصحيحين) ان النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ فى الظهر فى الاولى بام القرآن و سورتين، وفي الركعتين
الاخرين بام الكتب الحديث قول المصنف المذكور (اي ولا يزيد عليهم ما شئنا) و قول غير واحد من
المشائخ كما فى الكافى وغيره ويقرأ فيما بعد الاولى الفاتحة فقط ويحمل على بيان مجرد الجواز
حديث ابى سعيد رضى الله تعالى عليه قول فخر الاسلام فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل
الجائز فقط فى بعض الاحيان تعليما للجواز وغيره من غير كراهة فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم
كما يفعل الجائز الاولى فى غالب الاحوال والنفل لا ينافي عدم الاولوية فيندفع بهذا ما عساه يخالف من
المخالفه بين الحديدين المذكورين وبين اقوال المشائخ والله سبحانه اعلم اه و لعلك لا يخفى عليك

ان حمل المشروع نفلا على المكروره تنزيها مستبعد جدا و قراءة السورة في الاخرين ليست فعلا
مستحبا مستقلا يعتبر به عدم الاولوية لعارض كصلوة نافلة مع بعض المكرورهات وانما المستفاد من
النفعية هنا فيما يظهر هو استحباب فعلها فكيف يجامع عدم الاولوية ولذى يظهر للعبد الضعيف ان سنه
الاقتصاد على الفاتحة انما ثبت عن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في الامامة فانه لم يعهد منه
صلى الله تعالى عليه وسلم صلوة مكتوبة الا اما ما اال نادرا في غاية الندرة فيكره للامام الزيادة عليها لا
طاله على المقتدين فوق السنة. بل لو اطالت الى حد الاستقال كره تحريمها اما المنفرد فقال فيه النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم فليطول ماشاء. وزيادة القراء زياده خير ولم يعرضه مايعارض خيريته فلا
يعداه يكون نفلا في حقه. فان حملنا كلام اكثر المشائخ على الامة وكلام الامام فخر الاسلام و
تصحیح الذخیرۃ المحیط على المنفرد حصل التوفیق. وبالله التوفیق. هذا ما عندی. والله سبحانه،

وتعالی اعلم

”يعنى مكروره تحريمي نہیں بلکہ تنزیہی ہے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے۔ یہ مدینہ اور اس کی شرح میں کہا ہے۔ پس اگر ملایا اس نے سورة کو
ساتھ فاتحہ کے بھول کر، واجب ہو گا اس پر سجدہ سہوای بی يوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول میں رکوع میں تاخیر کی بنا پر، اور اظہر روایات میں
سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ قراءت تو ان دونوں رکعتوں میں مشروع ہے بغیر کسی خاص اندازہ کے۔ رہافتہ پر اقتضار، تو
یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ بحر میں فخر الاسلام سے روایت ہے کہ فاتحہ کے ساتھ سورة کاملاً پچھلی دور رکعتوں میں نفلا جائز ہے۔
اور ذخیرہ میں ہے وہی مختار ہے۔ اور محیط میں سے وہی زیادہ صحیح ہے۔ اور ظاہریہ ہے کہ فخر الاسلام کے قول میں نفلا قراءت کے
جاائز ہونے سے مراد عدم حرمت ہے۔ پس یہ قول قرات فی الاخرين کے خلاف اولی ہونے کے مخالف نہیں جیسا کہ حلیہ میں یہ بیان
کیا ہے۔ رد المحتار کی عبادات تمام ہوئی۔ میں کہتا ہوں لفظ حلیہ کا پھر ظاہر قراءت کا جواز کیسے نہ ہو جب کہ پہلے گزر چکا ہے
ابی سعید خدریؓ کی حدیث سے صحیح مسلم وغیرہ میں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے صلوة ظہر کی پہلی دور رکعتوں میں آئیوں کا
اندازہ، اور پچھلی دور رکعتوں میں پنڈہ آئیوں کا قدر یا کہا نصف اس کا پس اس لئے فخر الاسلام نے جامع صغیر کی شرح میں کہا ہے کہ
سورۃ توبہ نفلا پچھلی دور رکعتوں میں میں نفلا جائز ہے۔ اور ذخیرہ میں ہے وہی مختار ہے۔ اور محیط میں سے وہی زیادہ صحیح ہے۔ اور
ظاہریہ ہے کہ فخر الاسلام کے قول میں نفلا قراءت کے جائز ہونے سے مراد عدم حرمت ہے۔ پس یہ قول قرات فی الاخرين کے
خلاف اولی ہونے کے مخالف نہیں جیسا کہ حلیہ میں یہ بیان کیا ہے۔ رد المحتار کی عبارت تمام ہوئی۔ میں کہتا ہوں لفظ حلیہ کا پھر ظاہر
قراءت کا جواز ہے جواز کیسے نہ ہو جب کہ پہلے گزر چکا ہے ابی سعید خدریؓ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے صحیح مسلم وغیرہ میں بے شک نبی

صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے صلوٰۃ ظہر کی پہلی دور کعتوں میں تین آیتوں کا اندازہ، اور پچھلی دور کعتوں میں پندرہ آیتوں کا فدر یا الہا
نصف اس کا پس اس لئے فخر الاسلام نے جامع صغیر کی شرع میں کہا ہے کہ سورۃ تو وہ نفل اپنے بھلی دور کعتوں میں جائز ہے۔ یہاں تک
کہ ہم نے اس آدمی کے بارہ میں کہا ہے جو بھلی دور کعتوں میں سورۃ پڑھے کہ اس پر بحده سہولازم نہیں انتہی۔ پھر ممکن ہے کہ یہ کہا
جائے اولیٰ عدم زیادت ہے اور حمل کیا جائے مخرج بیان پر واسطے حدیث قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ (اس سے مراد وہ حدیث ہے
جو پہلے گزر چکی ہے صحیحین کی روایت کے ساتھ) کہ تحقیق بنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ظہر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ فاتحہ اور دو
سورتیں اور ظہر کی پچھلی دور کعتوں میں فاتحہ الحدیث۔ قول مصنف مذکور کا (یعنی نہ زیادہ کرے اور ان دونوں کے کوئی شے) اور قول
بہت سے مشائخ کا جیسا کہ کافی وغیرہ میں ہے اور پڑھنے ان دونوں میں پیچھے پہلی دور کعتوں کے سورۃ فاتحہ صرف اور حمل کی جائے
اوپر بیان صرف جواز کے حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور قول فخر الاسلام کا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صرف
جائز کام کرتے ہیں تعلیم جواز وغیرہ کے لئے بغیر کراہت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جیسا کہ غالب احوال میں جائز اولیٰ کو
کرتے اور نفل عدم اولویت کے منافی نہیں۔ پس اس توجیہ سے وہ اعتراض مندفع ہو جاتا ہے جو خیال کیا جا سکتا تھا یعنی مخالفت
درمیان حدیثوں کے اوراقوال مشائخ کے واللہ سبحانہ، اعلم اھ۔ شاید تجوہ پر یہ بات پوشیدہ نہ ہو کہ مشرع نفل کو مکروہ تنزیہ پر حمل
کرنا بہت بعید ہے اور پچھلی دور کعتوں میں سورۃ کا پڑھنا ایسا فعل مستحب مستقل نہیں جس کے ساتھ کسی عارض کی وجہ سے عدم
اولویت کا اعتبار کیا جائے جیسا کہ نفل نماز بعض مکروہات کے ساتھ ظاہر فہم میں یہاں نفلیٰ کا معنی ہے کہ اس کا کرنا مستحب ہے پس
اس معنی کے اعتبار سے نفلیٰ خلاف اولیٰ کے ساتھ کس طرح جمع ہو سکتی ہے اور اس ضعیف بندہ کے لئے جوبات ظاہر ہوئی ہے یہ
کہ پچھلی دور کعتوں میں سورۃ فاتحہ پر اقتدار یہ سنت ہے جو کہ حالت امامت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیونکہ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرض نماز حالت امامت کے بغیر معلوم نہیں ہوئی مگر بہت ہی کم۔ پس امام کے لئے اخربین میں فاتحہ پر زیادت
مکروہ ہے بوجہ لمبا کرنے نماز کے مقتدیوں پر قدر سنت سے زیادہ۔ بلکہ اگر اتنی لمبی کی کہ مقتدیوں کو بھاری معلوم ہو تو مکروہ تحریکی
ہے۔ رہا اکیلے نماز پڑھنے والا، پس اس کے بارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پس وہ قراءت لمبی کرے جتنی چاہے۔ اور زیادہ
قراءۃ زیادہ خیر ہے۔ اور یہاں کوئی عاض نہیں جو اس کی خیریت کو عارض ہو پس بعد نہیں کہ اس کے حق میں نفل ہو۔ پس اگر ہم حمل
کریں کلام اکثر مشائخ کو امامت پر اور کلام فخر الاسلام اور صحیح ذخیرہ و محيط کو منفرد پر، تو دونوں قولوں میں تطبیق ہو جاتی ہے اور توفیق
اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہے جو میرے پاس ہے اور اللہ سبحانہ، و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عَنْهُ مُحَمَّدُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں اس صورت میں کہ ایک شخص نے بسم اللہ کہہ کر ایک شکار کے اوپر بندوق چلانی پس جس وقت اس کو جا کر دیکھا تو کوئی آثار اس میں زندگی کے نہ تھے اور نہ جنبش تھی۔ جس وقت کہ اس کو ذبح کیا تو خون نکلا اچھی طرح سے پس وہ شکار حلال ہے یا حرام؟ اور اگر اس کو ذبح نہ کرتے تو حلال ہوتا یا حرام؟ اور درصورت نہ نکلنے خون کے بھی جواب تحریر فرمائیے۔ بینوا و توجروا

الجواب اگر ذبح کر لیا اور ثابت ہوا کہ ذبح کرتے وقت اس میں حیات تھی۔ مثلاً پھر رہا تھا یا ذبح کرتے وقت تڑپا، اگرچہ خون نہ نکلا یا خون ایسا نکلا جیسا نہ بوج سے نکلا کرتا ہے اگرچہ جنبش نہ کی، یا اور کسی علامت سے حیات ظاہر ہوئی تو حلال ہے۔ اور اگر بندوق سے مار کر چھوڑ دیا۔ ذبح نہ کیا۔ یا کیا مگر اس میں وقت ذبح حیات کا ہونا ثابت نہ ہوا۔ تو حرام ہے۔ غرض مدار کار اس پر ہے کہ ذبح کر لیا جائے اور وقت ذبح اس میں رقم باقی ہو اگرچہ نہ جنبش کرے نہ خون دے حلال ہو جائے گا اور نہ حرام۔ درحقیقت میں ہے۔

ذبْح شَائِه مَرِيضَة فَتَحَرَّكَتْ أَوْ خُرُجَ الدَّمْ حَلَّتْ وَالَا لَا إِنْ لَمْ تَدْرِ حَيَاتَهُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَإِنْ عَلِمْ حَيَاتَهُ حَلَّتْ مَطْلَقاً وَإِنْ لَمْ تَحْرُكْ وَلَمْ يَخْرُجْ الدَّمْ وَهَذَا يَتَاتِي فِي مَنْخَنَةٍ وَمُتَرْدِيَةٍ وَنَطِيقَةٍ وَالَّتِي فَقَرَ الذَّبْحَ بِطَنَهَا فَرَزَ كَاهَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَحْلُلُ وَإِنْ كَانَتْ حَيَاتَهَا خَفِيفَةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا مَذَكُورٌ مِنْ غَيْرِهِ فَصْلٌ أَهْ وَفِي رَدِ الْمُحْتَارِ عَنِ الْبَزَازِيِّ عَنِ الْأَسِيْحَابِيِّ عَنِ الْأَمَامِ الْأَعْظَمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَرُوجُ الدَّمِ لَا يَدْلِ عَلَى الْحَيَاةِ إِلَّا إِذَا كَانَ يَخْرُجُ كَمًا يَخْرُجُ مِنَ الْحَيِّ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَّوْيَةِ

”ذبح کیا اس نے یہاں بکری کو پس اس نے حرکت کی یا اس سے خون نکلا تو حلال ہے ورنہ حلال نہیں اگر وقت ذبح اس کی زندگی معلوم نہ ہو۔ وقت ذبح زندگی معلوم ہوئی تو مطلقاً حلال ہے اگرچہ حرکت بھی نہ کرے اور خون بھی نہ نکلے۔ اور یہی حکم ہے گلا گھوٹی اور بلندی سے گرنے والی اور سینگ سے زخمی ہونے والی اور جس کا پیٹ بھیڑیے نے پھاڑ دیا ہو۔ پس بحالت مذکورہ ان کا ذبح کرنا انہیں حلال کر دے گا اگرچہ ان میں خفیف سی زندگی ہو اور اسی پر فتویٰ ہے بوجہ فرمان اللہ تعالیٰ کے مگر جسے ذبح کر لیا تم نے بغیر فصل کے اھ۔ اور رد المحتار میں روایت ہے برازی سے انہوں نے اسیجاہی سے انہوں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مخف خون نکلنا زندگی پر دلالت نہیں کرتا ہاں جس وقت کہ اس طرح سے نکلے جس طرح زندہ سے نکلتا ہے کہا کہ یہ ظاہر روایت ہے۔“

اسی کتاب الصید میں ہے:

الْمُعْتَبَرُ فِي الْمُتَرْدِيَةِ وَالْخَوَاتِهَا كَنْطِيقَةٌ وَمَوْقُوذَةٌ وَمَا كَلَ السَّبْعُ وَالْمَرِيْضَةُ مَطْلَقُ الْحَيَاةِ وَإِنْ قَلَتْ

”بلندی سے گر کر قریب المرگ اور اس کے ساتھ مذکور فی القرآن باقی اشیاء نظریہ، موقوذہ وغیرہ میں مطلق زندگی معتبر ہے اگرچہ کم ہی ہو جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے۔“
مدارک التنزیل میں ہے:

”موقوذہ وہ ہے جسے وہ لاثمی یا پھر سے زخمی کرتے تھے۔“

الموقذة التي استخونها ضربا بالعصا او حجر

معالم میں ہے:

قال قتادہ کانوایضر بونها بالعصا فاذاما مات اکلوها اه قلت فظہر ان المضروب بكل مثلث کالبندقة ولو
بندقة الرصاص کله من الموقوذة فيحل بالذکاة وان قلت الحياة

”قتادہ نے کہا کفار جانور کو یہاں تک مارتے تھے کہ وہ مر جاتا تھا اسے کھاتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس سے ظاہر ہوا کہ ہر بھاری چیز
کا مضروب جانور جیسے بندوق اگرچہ سکہ کی گولی والی ہو یہ سب موقوذہ میں شامل ہیں پس یہ ذبح کرنے سے حلال ہو جاتی ہیں اگرچہ
وقت ذبح ان میں قلیل زندگی ہو۔“

روا مختار میں ہے:

لا يخفى ان الجرح بالرصاص انما هو با لاحراق والثقل بواسطه اندفاعه العنيف اذليس له حد فلا يحل وبه
افتى ابن نجيم والله تعالى اعلم

”پوشیدہ نہیں کہ سکہ کی گولی کا زخم بوجہ جلنے اور بوجھ کے ہے بواسطہ اس کے زور سے پھینکنے کے کیونکہ گولی میں دھار نہیں پس حلال
نہیں۔ اسی کے ساتھ ابن نجیم نے فتویٰ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔“

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عسى عنه بمحمدون المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۸ ارجمند الآخر شریف ۱۳۲۰ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام کہ ایک شخص روز شکار بندوق کا شو قیہ کھیلتا ہے۔ پس بحکم شرع شریف کے کس قدر شکار کھیلنا چاہیے اور
کس وقت میں؟ اور وہ شکاری ہر روز شکار کھیلنے میں گنہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ بینوا مفصلات تو جروا کشیرا

الجواب شکار کے محض شو قیہ بغرض تفریح ہو جس ایک قسم کا کھیل سمجھا جاتا ہے والہذا شکار کھیلنا کہتے ہیں۔ بندوق کا خواہ مچھلی

کا، روزانہ ہو خواہ گاہ گاہ مطلقًا بالاتفاق حرام ہے۔ حلال وہ ہے جو بغرض کھانے یا دوایا کسی اور نفع یا کسی ضرر کے دفع لو ہو۔ آج کل کے بڑے بڑے شکاری جو اتنی ناک والے ہیں کہ بازار سے اپنی خاص ضرورت کی کھانے یا پہنچنے کی چیز لانے کو جانا اپنی کسرشان سمجھیں، یا زرم ایسے کہ وہ قدم دھوپ میں چال کر مسجد میں نماز کے لئے حاضر ہونا مصیبت جانیں وہ گرم دوپہر، گرم لو میں گرم ریت پر چلنا اور ٹھہرنا اور گرم ہوا کے تھیڑے کھانا گوارا کرتے، اور دوپہر دو دو دن شکار کے لئے گھر بارچھوڑے پڑے رہتے ہیں، کیا یہ کھانے کی غرض سے جاتے ہیں؟ حاشا و کلا بلکہ وہی اہم و لعب ہے اور بالاتفاق حرام۔

ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ ان شکاریوں سے اگر کہئے مثلاً مچھلی بازار میں بھی ملے گی، وہاں سے لے لیجئے، ہرگز قبول نہ کریں گے۔ یا کہئے کہ ہم اپنے پاس سے لائے دیتے ہیں، کبھی نہ مانیں گے بلکہ شکار کے بعد خود اس کے کھانے سے بھی غرض نہیں رکھتے، بانٹ دیتے ہیں۔ تو یہ جانا یقیناً وہی تفریغ حرام ہے۔ درمختار میں ہے الصید مباح اللال للهی کما ہو ظاہر اسی طرح اشباہ و برازیہ و مجمع الفتاوی و غنیہ ذوقی الاحکام و تاتار خانیہ و رالمختار وغیرہ عامہ اسفرار میں ہے۔ **والله سب حنه و تعالیٰ اعلم**

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۹ ارجع الآخر شریف ۱۳۲۰ھ

کیا فرماتے ہیں کہ علمائے دین و مفتیان شرع متین اس شعر کا مطلب جو شرع محمدی فصل اٹھائیں گے میں بیان مکروہات و ضمومیں ہے۔
تیسرا نائب کے برتن سے اگر ہے وضوناقص کرسے گا جو پسر یہ نہ معلوم ہوا کہ تانبے کے برتن سے کیوں وضوناقص ہے؟ آج کل بہت شخص تانبے کے برتن لوٹے سے وضو کرتے ہیں۔ کیا ان سب کا وضوناقص ہوتا ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب تانبے کے برتن سے وضو کرنا اس میں کھانا پینا سب بلا کراہت جائز ہے۔ وضومیں کچھ نقصان نہیں آتا۔ ہاں قلعی کے بعد چاہیے۔ بے قلعی میں کھانا پینا مکروہ ہے کہ جسمانی ضرر کا باعث ہوتا ہے۔ اور مٹی کا برتن تانبے سے افضل ہے۔ علماء نے وضو کے آداب و مستحبات سے شمار فرمایا کہ مٹی کے برتن سے ہو۔ اور اس میں کھانا پینا بھی تواضع سے قریب تر ہے۔

رالمختار میں فتح القدير سے ہے:

منها (ای من ادب الوضوء) کون انية من خزف

”اس سے (یعنی آداب وضو سے) ہونا اس کے برتوں کا پختہ مٹی سے۔“

اسی میں اختیار شرح مختار ہے:

اتخاذہا (ای او انی الاکل والشرب) من الخزف افضل اذلا صرف فيه ولا مخيلة وفى الحديث من اتخاذ او انی بیتہ خزف ازارتہ الملک کھے ویجوز اتخاذہا من نحاس اور صاص

”پکڑنا ان کا (یعنی کھانے پینے کے برتن) پختہ مٹی سے افضل ہیں کیونکہ اس میں کچھ خرچ بھی نہیں اور تکبر بھی نہیں اور حدیث میں ہے جو شخص گھر کے برتن مٹی کے رکھے فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تابنے اور قلعی کے برتن بھی جائز ہیں۔“ اسی میں ہے۔

يكره الاكل في النحاس الغير المطلبي بالرصاص لانه يدخل الصداء في الطعام فيورث ضرر اعظميا وما

بعده فلا اه ملخصا والله تعالى اعلم

”مکروہ ہے کھانا کھانا بغیر قلعی شدہ تابنے کے کیونکہ وہ کھانے میں اپنا براثر ڈالتا ہے جس سے صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور قلعی کرنے کے بعد وہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔“

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عسى عنه بمحمد بن المصطفى صلى الله عليه وسلم

مسئله ۱۰ ۱۳۲۰ھ اربع آخر شریف

کیا فرماتے ہیں علمائے اہل سنت اس صورت میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں درخت پر شہید مرد ہیں، اور فلاں طاق میں شہید مرد رہتے ہیں۔ اور اس درخت اور اس طاق کے پاس جا کر ہر جمعرات کوفا تھے شیرینی اور چاول وغیرہ پر دلاتے ہیں۔ ہماری کتابتے ہیں لو بان سلگاتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں۔ اور ایسا دستور اس شہر میں بہت جگہ واقع ہے۔ کیا شہید مردان درختوں اور طاقوں میں رہتے ہیں؟ اور یہ شخص حق پر ہیں یا باطل پر؟ جواب عام فہم مع دستخط کے تحریر فرمائے۔ بینوا بالكتاب توجروا بالثواب

الجواب یہ سب واهیات و خرافات اور جاہلانہ حماقات و بطالات ہیں۔ ان کا ازالہ لازم

ما انزال اللہ بہا من سلطنه۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ وللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عسى عنه بمحمد بن المصطفى صلى الله عليه وسلم

ماقولکم رحمکم اللہ تعالیٰ اندریں مسئلہ کہ بعد فوت ہو جانے والدین کے اولاد کے اوپر کیا حق والدین کا رہتا ہے؟
بینوا بالکتاب توجروا بالثواب

الجواب

- (۱) سب سے پہلا حق بعد موت ان کے جنازہ کی تجهیز غسل، کفن، نماز، دفن ہے۔ اور انکاموں میں ایسے سنن و مستحبات کی رعایت جس سے ان کے لئے ہر خوبی و برکت و رحمت و سعیت کی امید ہو۔
- (۲) ان کے لئے دعا و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا۔ اس سے کبھی غفلت نہ کرنا۔
- (۳) صدقہ و خیرات و اعمال صالحات کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لئے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزے رکھنا۔ بلکہ جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں اور سب مسلمانوں کو بخش دینا کہ ان سب کو ثواب پہنچ جائے گا اور اس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی بلکہ بہت ترقیاں پائے گا۔
- (۴) ان پر کوئی قرض کسی کا ہو تو اس کے ادائیں حد درجہ کی جلدی کوشش کرنا اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہان کی سعادت سمجھنا۔ آپ قادر نہ ہو تو اور عزیزوں قریبوں پھر باقی اہل خیر سے اس کے ادائیں امداد لینا۔
- (۵) ان پر کوئی قرض رہ گیا ہو تو بقدر قدرت اس کے ادائیں سعی بجالانا۔ حج نہ کیا ہو تو خود ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کرنا، زکوٰۃ یا عشر کا مطالبہ ان پر رہا ہو تو اسے ادا کرنا۔ نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ دینا، علی ہذا القیاس ہر طرح ان کی برات ذمہ میں جدوجہد کرنا۔
- (۶) انہوں نے جو وصیت جائزہ شرعیہ کی ہوتی الامکان اس کے نفاذ میں سعی کرنا اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو اگرچہ اپنے نفس پر بارہو۔ مثلاً وہ نصف جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی شخص کیلئے کر گئے تو شرعاً تہائی مال سے زیادہ بے اجازت وارثان نافذ نہیں۔ مگر اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانیں اور ان کی خوشی پوری کرنے کو اپنی خواہش پر مقدم جانیں۔
- (۷) ان کی قسم بعد مرگ بھی آجی ہی رکھنا۔ مثلاً ماں یا باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے گا یا فلاں سے نہ ملے گا یا فلاں کام کرے گا تو ان کے بعد یہ خیال نہ کرنا کہ اب تو وہ ہیں نہیں ان کی قسم کا خیال نہیں بلکہ اس کا ویسا ہی پابند رہنا جیسا ان کی حیات میں رہتا جب تک کوئی حرج شرعی مانع نہ ہو۔ اور کچھ قسم ہی پر موقوف نہیں ہر طرح کے امور جائز میں بعد مرگ بھی ان کی مرضی کا پابند رہنا۔
- (۸) ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لئے جانا، وہاں قرآن شریف ایسی آواز سے کہ وہ سنیں پڑھنا اور اس کا ثواب ان کی روح

کو پہنچانا۔ راہ میں جب بھی ان کی قبر آئے بے سلام و فاتحہ نہ گزنا۔

(۹) ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کیے جانا۔

(۱۰) ان کے دوستوں سے دوستی نباہنا ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام رکھنا۔

(۱۱) کبھی کسی کے ماں یا باپ کو برآ کہہ کر جواب میں انہیں براہ کھلاؤنا۔

(۱۲) اور سب میں سخت تر و عام تریحیق ہے کہ بھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں رنج نہ پہنچانا۔ اس کے سب اعمال کی ماں باپ کو خبر پہنچتی ہے۔ نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے دیکھنے لگتا ہے اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں ان کے قلب پر صدمہ پہنچتا ہے۔ ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ قبر میں بھی انہیں رنج دیا جائے۔ اللہ غفور رحیم، عزیز کریم جل جلال صدقہ اپنے حبیب روف و رحیم علیہ و علی آلہ الفضل الصلوٰۃ والتسلیم کا، ہم سب مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچائے۔
ہمارے اکابر کی قبروں میں ہمیشہ نور و سرور پہنچائے کہ وہ قادر ہے اور ہم عاجز۔ وہ غنی ہے اور ہم محتاج۔

حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر۔ ولا حول ولا قوّة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی الشفیع الرفیع الغفور الکریم الروف الرحیم سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین۔ امین
الحمد لله رب العالمين

اب وہ حدیثیں جن سے فقیر نے یہ حق اخراج کیے ان میں سے بعض بقدر کفایت ذکر کروں۔

حدیث ۱ کہ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی
یا رسول اللہ! ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی کوئی طریقہ ان کے ساتھ نیکی کا باقی ہے جسے میں بجا لاؤں؟ فرمایا۔

نعم اربعۃ الصلاۃ علیہما والا ستففار لهما وانفاذ عہدہما من بعدہما واکرام صدیقہما وصلتہ الرحم
التی لا رحم لک الا من قبلہما فهذا الذی بقى من برہما بعد موتهما

”ہاں چار باتیں ہیں ان پر نماز اور ان کے لئے دعائے مغفرت اور ان کی وصیت نافذ کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت اور جو رشتہ
صرف انہی کی جانب سے ہونیک بر تاؤ سے اس کا قائم رکھنا۔ یہ وہ نیکی ہے کہ ان کی موت کے بعد ان کے ساتھ کرنی باقی ہے۔“

رواہ ابن النجاش عن ابی اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع القصہ و رواه البیهقی فی سننه رضی اللہ
تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یقی للولد من بر الوالد الاربع، الصلة علیه
والدعاء له وانفاذ عہده من بعده وصلة رحمه واکرام صدیقه

حدیث ۴ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

استغفار الولد لابیه بعد الموت من البر

ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے بعد ان کے لئے دعائے مغفرت کرے۔

رواه ابن النجاش عن ابی اسید مالک بن زرارۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حدیث ۳ کہ فرماتے ہے،

اذا ترك العبد الدعاء للوالدين فانه ينقطع عنه الرزق

”آدمی جب ماں باپ کے لئے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے۔“

رواه الطبرانی فی التاریخ والدیلمی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حدیث ۴، ۵ کہ فرماتے ہیں۔

اذا تصدق احدكم بصدقه تطوعا فليجعلها عن ابويه فيكون لها ما اجرها والا ينقص من اجره شيئا

”جب تم میں کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے ثواب سے کچھ نہ گھٹے گا۔“

رواه الطبرانی فی اوسطه وابن عساکر عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ونحوه الدیلمی فی مسنده

الفردوس عن ماوية بن حيدة القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہما

حدیث ۶ کہ صحابی ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! میں اپنے باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا۔ اب وہ مر گئے۔ ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا راہ ہے؟ فرمایا۔

ان من البر بعد الموت ان تصلی لهم مع صلواتك و تصوم لهم مع صيامك. (رواه الدارقطني)

”بعد مرگ نیک سلوک یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لئے نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لئے روزے رکھے۔“

یعنی جب اپنے ثواب ملنے کے لئے کچھ نفل نماز پڑھے یا روزے رکھے تو کچھ نفل نماز روزے ان کی طرف سے انہیں ثواب پہنچانے کو بھی بجا لایا نماز روزہ جو عمل نیک کرے ساتھ ہی انہیں بھی ثواب پہنچانے کی بھی نیت کر لے کہ انہیں بھی ملے گا اور تیرا بھی کم نہ ہوگا۔

کمامر ولفظ مع يحتمل الوجهين بل هذا الصدقة بالميته محيط. پھر تاتار خانیہ پھر دلختر میں ہے۔ الافضل

لمن يتصدق نفلا ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شيء

حدیث ۷ کہ فرماتے ہیں۔

من حج عن ولدیه او قضی عنہما مغفرة بعثہ اللہ یوم القيمة مع الابرار

”جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کرے روز قیامت نیکوں کے ساتھ اٹھے۔“

رواہ الطبرانی فی الاوسط والدار قطñی فی السنن عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حدیث ۸ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسی ہزار قرض تھے۔ وقت وفات اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا۔

بع فيها اموال عمر فان وفت والافسل بنى عدى فان وفت والافسل قريشا ولا تعد عنهم

میرے دین میں اول میرا مال بیچنا اگر کافی ہو جائے فبھا ورنہ میری قوم بنی عدی سے مانگنا اگر یوں بھی پورا نہ ہو تو قریش سے مانگنا اور ان کے سوا اوروں سے سوال نہ کرنا۔

پھر صاحبزادہ موصوف سے فرمایا اضمونہا تم میرے قرض کی ضمانت کرو۔ وہ ضامن ہو گئے اور امیر المؤمنین کے ذمہ سے پہلے اکابر انصار و مہاجرین کو گواہ کر لیا کہ وہ اسی ہزار مجھ پر ہیں۔ ایک ہفتہ نہ گزر اتحاکہ عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا قرض ادا فرمادیا۔

رواہ ابن سعد فی الطبقات عن عثمان بن عروة

حدیث ۹ قبیلہ جہینہ سے ایک بی بی رضی اللہ عنہا نے خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میری ماں نے حج کرنے کی منت مانی تھی وہ ادا نہ کر سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کرلوں؟ فرمایا۔

نعم حجی عنہا ارایت لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ اقضوا اللہ فالله احق بالوفاء۔ **رواہ البخاری عن**

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

”ہاں اس کی طرف سے حج کر۔ بھلا دیکھ تو اگر تیری ماں پر کوئی دین ہوتا تو ادا کرتی یا نہیں یوں ہی خدا کا دین ادا کرو کہ وہ زیادہ ادا کا حق رکھتا ہے۔“

حدیث ۱۰ کہ فرماتے ہیں۔

اذا حج الرجل عن ولدیه تقبل منه ومنهما وابتشر به ارواحهما فی السماء وكتب عند الله برا

رواہ الدارقطنی عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

”انسان جب اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے وہ حج اس کی طرف سے اور ان سب کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے اور ان کی

روجیں آسمان میں اس سے شاد ہوتی ہیں اور یہ شخص اللہ عزوجل کے نزدیک ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا لجاجاتا ہے۔

حدیث ۱۱ کہ فرماتے ہیں ۔

من حج عن ابیه او عن امه فقد قضى عنه حجة و كان له فضل عشر بح

”جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے اور اسے دس حج کا ثواب زیادہ ملے۔“

رواه الدارقطنی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما

حدیث ۱۲ کہ فرماتے ہیں ۔

من حج عن والدیه بعد وفاتهما كتب اللہ اعتقادا من النار و كان للمحجوج عنها اجر حجة تامة من غير ان ينقص من اجرهما شئ . رواه الاصبهانی في الترغیب والیہقی في الشعب عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”جو اپنے والدین کے بعد ان کی طرف سے حج کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے وزن سے آزادی لکھے اور ان دونوں کے واسطے پورے حج کا ثواب ہو جس میں اصلاح کی نہ ہو۔“

حدیث ۱۳ کہ فرماتے ہیں ۔

من برقسمهما وقضى دینهما ولم يستسب لهما كتب بارا وان كان عاقا في حياته ومن لم يبرقسمهما

ويقض دينهما واستسب لهما كتب عاقا وان كان بارا في حياته . رواه الطبراني في الاوسط عن عبد

الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ

”جو شخص اپنے ماں باپ کے بعد ان کی قسم سمجھی کرے اور ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برآ کہہ کر انہیں برانہ کہلوائے وہ والدین کے ساتھ نیکو کارکھا جائے اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا اور جوان کی قسم پوری نہ کرے اور ان قرض نہ اتارے اور ان کے والدین کو برآ کہہ کر انہیں برانہ کہلوائے وہ عاق کارکھا جائے اگرچہ ان کی حیات میں نیکو کار تھا۔“

حدیث ۱۴ کہ فرماتے ہیں ۔

من زار قبر ابويه او احدهما في كل يوم جمعة مرة غفر اللہ له و كتب برا . رواه الامام الترمذی العارف

بالله الحكيم في نوادر الاصول عن ابی هریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ

”جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو واللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخشدے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا بر تاؤ کرنے والا لجاجاتا ہے۔“

من زار قبر والدیہ او احدهما یوم الجمعة فقرء عنده یس غفرلہ

رواه ابن عدی عن الصدیق الاکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

”جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی زیارت قبر کرے اور اس کے پاس یہیں پڑھے بخش دیا جائے۔“

وفی لفظ من زار قبر والدیہ او احدهما فی کل جمیعہ فقرء عنده یس غفر اللہ له بعده کل حرف منها

”جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کرے وہاں یہیں پڑھے یہیں شریف میں جتنے حرف ہیں ان سب کی کتنی کی برابر اللہ اس کے لئے مغفرتیں فرمائیں۔“

رواه هو الخلیلی و ابو شیخ والدیلمی و بن النجار والرفعی وغیرهم عن ام المؤمنین الصدیقة عن ابیها

الصدیق الاکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

من زار قبر ابویہ او احدهما احتسابہ کان کعدل حجۃ مبرورۃ ومن کان زوار الہما زارت الملائکۃ قبرہ

”جو بہ نیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی زیارت قبر کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے۔ اور جو بکثرت ان کی زیارت قبر کیا کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں۔“

رواه الامام الترمذی الحکیم و ابن عدی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

امام ابن الجوزی محدث کتاب عیون الحکایات میں بند خود محمد ابن العباس وراق سے روایت فرماتے ہیں۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کو گیا۔ راہ میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ جنگل درختاں مقل لیعنی گوگل کے پیڑوں کا تھا۔ ان کے نیچے دفن کر کے بیٹا جہاں جانا

تھا چلا گیا۔ جب پلٹ کر آیا، اس منزل میں رات کو پہنچا۔ باپ کی قبر پر نہ گیانا گاہ سنائی کوئی کہنے والا یہ اشعار کہہ رہا ہے۔

رائتک تطوی الدوم لیلا ولا تری علیک اهل الدوم تتكلما

وبالدوم ثاولو ثویت مکانه و مر باهل الدوم عاد فسلما

میں نے تجھے دیکھا کہ تورات میں اس جنگل کو طے کرتا ہے اور وہ جن ان پیڑوں میں ہے اس سے کلام کرنا اپنے اوپر لازم نہیں جانتا۔ حالانکہ ان درختوں میں وہ مقیم ہے کہ اگر تو اس کی جگہ ہوتا اور یہاں گزرتا تو وہ راہ سے پھر کر آتا اور تیری قبر پر سلام کرتا۔

حدیث ۱۷ کہ فرماتے ہیں -

من احباب ان يصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیه من بعده

رواه ابو یعلی وابن حبان عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

”جو چاہے کہ باپ کی قبر میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ باپ کے بعد اس کے عزیزوں دوستوں سے نیک بر تاؤ رکھے۔“

حدیث ۱۸ کہ فرماتے ہیں -

من البران تصل صدیق ابیک . روہ الطبرانی فی الاوسط عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

”باپ کے ساتھ نیکوکاری سے یہ ہے کہ تو اس کے دوست سے اچھا بر تاؤ رکھے۔“

حدیث ۱۹ کہ فرماتے ہیں -

ان ابرار البران يصل اهل ذی ابیه بعد ان یولی الاب روہ الائمه احمد والبخاری فی ادب المفرد

و مسلم فی صحیحہ وابوداود والترمذی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

”بے شک باپ کے ساتھ نیکوکاریوں سے بڑھ کر یہ نیکوکاری ہے کہ آدمی باپ کے پیٹھ دینے کے بعد اس کے دوستوں سے اچھی روشن پر رہتا ہے۔“

حدیث ۲۰ کہ فرماتے ہیں -

احفظ و دایک لا تقطعه فیطفئی اللہ نورک ”اپنے باپ کی دوستی نگاہ رکھا سے قطع نہ کرنا کہ اللہ تیر انور بجھادے گا۔“

روہ البخاری فی الادب المفرد والطبرانی فی الاوسط والبیهقی فی الشعب عن ابن عمر رضی اللہ عنہما

حدیث ۲۱ کہ فرماتے ہیں -

تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى و تعرض على الانبياء وعلى الاباء والامهات يوم

الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزدادون جو هم بياضا واشراقا فاتقوا الله ولا تؤذوا امواتكم . روہ الامام

الحکیم عن والد عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ہر دو شنبہ و پنجشنبہ کو اللہ عزوجل کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں اور انہیاً نے کرام علیہم اصلوۃ والسلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش بڑھ جاتے ہے تو اللہ سے ڈروپنے مردوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔

بالمجملة والدین کا حق وہ نہیں کہ انسان اس سے کبھی عہدہ برآ ہو وہ اس کے حیات وجود کے سبب ہیں۔ تو جو کچھ نعمتیں دینی و دینیوی

www.alahazrat.net
پائے گا سب انہیں کے طفیل میں ہوئیں کہ ہرنعمت و مکمال وجود پر موقوف ہے اور وجود کے سبب وہ ہوئے، تو صرف ماں یا باپ ہونا ہی ایسے عظیم حق کا موجب ہے جس سے بری الذمہ کبھی نہیں ہو سکتا نہ کہ اس کے ساتھ اس کی پرورش ہونے، ان کی کوششیں، اس کے آرام کے لئے ان کی تکلیفیں، خصوصاً پیٹ میں رکھنے، پیدا ہونے، دودھ پلانے میں ماں کی اذیتیں ان کا شکر کہاں تک ادا ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ اس کے لئے اللہ جل و علی و رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کی ربوبیت و رحمت کے مظہر ہیں۔
الہذا قرآن عظیم میں جل جلالہ نے اپنے حق کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا کہ۔

ان اشکر لی ولوالدیک "حق میرا اور اپنے ماں باپ کا۔"

حدیث میں ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ میں ایسے گرم پتھروں پر کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا کہا ب ہو جاتا، چھ میل تک اپنی ماں کو اپنی گردون پر سوار کر کے لے گیا ہوں۔ کیا اب میں اس کے حق سے ادا ہو گیا ہوں؟

رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لعله ان يكون بطلقة واحدة رواه الطبراني في الأوسط عن بريدة رضي الله تعالى عنه

"تیرے پیدا ہونے میں جس قدر دردوں کے جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید یہ ان میں ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔"

اللہ عز وجل عقوق سے بچائے اور ادائے حقوق کی توفیق عطا فرمائے۔

آمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا و مولانا محمد واله وصحبه اجمعين امين والحمد لله رب العلمين

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۱۶ ۷ اربعاء آخر شریف ۱۳۲۰ھ

کیا حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ ایک دعا قوت کے بدالے میں تین بارقل ہو شخص نمازو و تکریتی تیری رکعت میں بعد الحمد و قل کے تکبیر کہہ کر دعا قوت اس کو نہیں آتی ہے۔ پس اس کی نمازو و تصحیح ہوتی ہے یا نہیں؟ اور وہ اگر ہر روز سجدہ ہو کر لیا کرے تو نمازو و تکریتی تیری اس کی صحیح ہو جایا کرے گی؟ جواب عام فہم عطا فرمائیے۔ بینوا مفصلات توجرووا کشیرا

www.alahazrat.net **الجواب** نماز صحیح ہو جانے میں تو کلام نہیں تھا یہ بجدہ سہو کا محل کہ سہو اکوئی واجب ترک نہ ہوا۔ وعاقبت اُگر یاد نہیں تو یاد کرنی چاہئے کہ خاص اس کا پڑھنا سنت ہے اور جب تک یاد نہ ہو۔

ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

”اے ہمارے رب! اے ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔“

پڑھ لیا کرے۔ یہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفرلی تین بار کہہ لیا کرے۔ یہ بھی نہ آئے تو صرف یا رب تین بار کہہ لے واجب ادا ہو جائے گا۔ رہایہ کہ قل هو اللہ شریف پڑھنے سے بھی یہ واجب ادا ہو یا نہیں کہ اتنے دنوں کے وتر کا اعادہ لازم ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ ادا ہو گیا کہ وہ ثنا ہے، اور ہر شادعا ہے۔

بل قال العلامۃ القاری فغیرہ من العلماء کل دعاء ذکرو کل ذکر دعاء وقد قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل الدعاء الحمد لله رواة الترمذی وحسنه النسائی وابن ماجہ ابن حبان الحاکم وصححه عن جابر بن عبد اللہ رضی تعالیٰ عنہما هذا ولیحرر والله تعالیٰ اعلم

”بلکہ کہا علامہ قادری وغیرہ نے علماء میں سے ہر دعا ذکر ہے اور ہر دعا ذکر دعا ہے۔ اور تحقیق فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل دعا الحمد لله ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور ابن حبان اور حاکم نے اور حسن کہایہ اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ اسے یاد کھا اور محفوظ رکھ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عسى عنه بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۱۷۹ اربع الخر شریف ۱۳۲۰ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام کہ کن کیا اڑانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کی ڈور لوٹا درست ہے یا نہیں؟ اگر اس کی ڈور لوٹی سے کپڑا سلوک نماز پڑھتے تو اس کی نماز میں کوئی خلل تو واقع نہ ہوگا؟ بینوا توجروا۔

الجواب کن کیا اڑا یا ہو لعب ہے اور ہوتا جائز ہے۔ حدیث میں ہے۔

”مسلم کے لئے کھیل کی چیزیں سوائے تین چیزوں کے سب حرام ہیں۔“

ڈور لوٹا نہیں ہے اور نہیں حرام ہے۔

نهی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن النہبی

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹنے سے منع فرمایا۔“

لوٹی ہوئی ڈور کا مالک اگر معلوم ہو تو فرض ہے اسے دے دی جائے۔ اگر نہ دی اور بغیر اس کی اجازت کے اس سے کپڑا سیا تو اس کپڑے کا پہننا حرام ہے۔ اسے پہن کر نماز مکروہ تحریکی ہے جس کا پھیرنا واجب ہے۔

للاشتھمال علی المحرم کالصلوۃ فی الراس مفصولة

”بوجہ شامل ہونے کے حرام پر جیسے ارض مخصوصہ پر نماز۔“

اور اگر مالک نہ ہو تو وہ نقطہ ہے یعنی پڑی پائی چیز۔ واجب ہے کہ اسے مشہور کیا جائے یہاں تک کہ مالک کے ملنے کی امید قطع ہو۔ اس وقت اگر یہ شخص غنی ہے تو فقیر کو دے دے۔ اور فقیر ہے تو اپنے صرف میں لاسکتا ہے۔ پھر جب مالک ظاہر ہو اور فقیر کے صرف میں آنے پر راضی نہ ہو تو اپنے پاس سے اس کا تاوان دینا ہو گا۔

کما هو معروف فی الفقه من حکم اللقطة والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عسى عنه بمحمدون المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۱۴ ۲۰ ربیع الآخر شریف ۱۳۲۰ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل میں کہ کتاب پالنا جائز ہے یا نہیں؟ اور کبوتر پالنا بلا اڑانے کے وثیر بازی و مرغ بازی و شکر باز پالنا اور ان کا شکار کپڑا وانا اور کھانا درست ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب شکر او باز پالنا درست ہے اور ان سے شکار کرنا ادا اور اس کا کھانا بھی درست ہے لقوله تعالیٰ وما علتم من الجوارح الايته يضرور ہے کہ شکار غذا یادوایا کسی لفظ کی غرض سے ہو۔ محض تفریخ و لہو و لعب نہ ہو۔ ورنہ حرام ہے۔ یہ گنہ گار ہو گا۔ اگرچہ ان کا مارا ہوا جانور جب کہ وہ تعلیم پا گئے ہوں اور بسم اللہ کہہ کر چھوڑا ہوا حلال ہو جائے گا۔

فان حرمتہ الارسال بنية الاهولا ینافي کونه ذکاۃ شرعیة کمن سمی اللہ تعالیٰ و ضرب الغنم من قفاح حرم

ال فعل و حل الاكل

”پس تحقیق کھیل کی نیت سے چھوڑنے کی حرمت اس کے ذبح شرعی ہونے کے منافی نہیں۔ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے اور بھیڑ کو اس کی گدی کی طرف سے مار۔ فعل حرام ہے اور کھانا حلال ہے۔“

www.alahazrat.net
بیش بازی، مرغ بازی اور اسی طرح ہر جانور کا لڑانا جیسے لوگ مینڈھے لڑاتے ہیں، لال لڑاتے ہیں، یہاں تک کہ حرام جانوروں مثلاً
ہاتھیوں، ریچپوں کا لڑانا بھی سب مطلقًا حرام ہے کہ بلا وجہ بے زبانوں کی ایذا ہے۔
حدیث میں ہے۔

نہیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن التحریریش بین البهائم اخر جه ابو داود والترمذی عن ابن عناس
رضی اللہ تعالیٰ عنهما و قال الترمذی حسن صحيح

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے لڑانے سے منع فرمایا۔“

کبوتر پالنا جب کہ خالی دل بہلانے کے لئے ہوا اور کسی امر ناجائز کی طرف مودی نہ ہو جائز ہے۔ اور اگر چھتوں پر چڑھ کر لڑائے کہ
مسلمان عورات پر نگاہ پڑے، یا ان کے لڑائے کو نکریا کھینچنے جو کسی کاشیشہ توڑیں کسی کی آنکھ پھوڑیں۔ یا پرانے کبوتر پکڑے یا ان
کا دم بڑھانے اور اپنا تماشا ہونے کے لئے دن دن بھر انہیں بھوکا لڑائے۔ جب اتنا چاہیں نہ اترنے دے تو ایسا پالنا حرام ہے۔
درستار میں ہے۔

ویکرہ (یکرہ امسک الحمامات) ولو فی بجها (ان کا نیض ربا لناس) بنظر او جلب (فان کان یطیرها
فوق السطح مطلقاً علی عورات المسلمين و یکسر زجاجات الناس برمية تلك الحمامات عز رو منع
اشد المنع فان لم یمتنع ذبحها المحتسب) واما للاستناس فمباح باختصار

”اوکروہ ہے (مکروہ ہے بند رکھنا کبوتروں کا) اگرچہ ان کے برجوں میں ہو (اگر لوگوں کو ضرر ہوتا ہو) اگر یہ ضرر بوجہ نظر کے ہو،
یادوں کے کبوتر کھینچنے سے۔ پس اگرچہت پر لڑاتا ہو جس سے مسلمانوں کی بے پر دگی ہوتی ہو اور کبوتروں کی نکریوں سے
لوگوں کے شیشے ٹوٹتے ہوں تو لڑائے والے پر تعزیر کی جائے گی اور سختی سے منع کیا جائے گا۔ اگر نہ رکے تو کو تو ال انہیں ذبح کر دے
اگر لڑائے کے لئے نہ ہوں بلکہ صرف کبوتروں کے ساتھ ان کی وجہ سے تو یہ مباح ہے۔ اہ باختصار۔“

صحیح بخاری وغیرہ میں عبد اللہ بن عمر اور صحیح ابن حبان میں عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

دخلت النار امراة في هرة ربطها فلم تطعمها تأكل من خشاش الأرض

”ایک عورت دوزخ میں گئی ایک بیلی کے سبب کہ اسے باندھ رکھا تھا نہ آپ کھانا دیا نہ چھوڑا کہ زمین کے چوہے وغیرہ کھا لیتی۔“
ابن حبان کی حدیث میں ہے فہی تنهش قبلاً و درها (وہ بیلی دوزخ میں اس عورت پر مسلط کی گئی ہے کہ اس کا آگا پیچھا
دانتوں سے نوج رہی ہے)۔

ایک حدیث میں حکم ہے کہ جو جانور پالودن میں ستر بار اسے دانہ پانی دکھاؤ۔ نہ کہ گھنٹوں پھر وہ بھوکا پیاسا رکھو اور یقے آنا چاہے تو آنے نہ دو۔ علماء فرماتے ہیں جانور پر ظلم کا فرزی پر ظلم سے سخت تر ہے اور کافر زمی پر ظلم مسلمان پر ظلم سے اشد ہے کما فی در المختار وغیرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

الظلم ظلمات يوم القيمة
ظلم ظلمتیں ہو گا قیامت کے دن۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اللعنۃ اللہ علی الظالمین
سن لو! اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر۔

کتا پالنا حرام ہے جس گھر میں کتا ہواں میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ روز اس شخص کی نیکیاں گھشتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لاتدخل المالکة بيتا فيه كلب ولا صورة رواه احمد والشیخان الترمذی والنمسائی وابن ماجة عن ابی

طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

”فرشته نہیں آتے اس گھر میں جس میں کتا یا تصویر ہو۔“

اور فرماتے ہیں۔

من اقتني کلبا الا کلب مشية او ضار يا نقص من عمله کل يوم قيراطان رواه احمد والشیخان والترمذی

النسائی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

”جو کتا پا لے مگر گلے کا کتا یا شکار۔ روز اس کی نیکیوں سے دو قیراط کم ہوں (ان قیراطوں کی مقدار اللہ رسول جانیں ﷺ)“ تو صرف دو قیراط کے کتے اجازت میں رہے۔ ایک شکار جسے کھانے یادو اور غیرہ منافع صحیح کے لئے شکار کی حاجت ہونہ شکار لفڑی ک ک وہ خود حرام ہے۔ دوسرا وہ کتا جو گلے یا کھیتی یا گھر کی حفاظت کے لئے پالا جائے جہاں حفاظت کی سچی حاجت ہو۔ ورنہ اگر مکان میں کچھ نہیں کہ چور لیں۔ یا مکان محفوظ جگہ ہے کہ چور کا اندیشہ نہیں۔ غرض جہاں یا اپنے دل سے خوب جانتا ہو کہ حفاظت کا بہانہ ہے اصل میں کتے کا شوق ہے وہاں جائز نہیں۔ آخر آس پاس کے گھروالے بھی اپنی حفاظت ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر نے کتے کے حفاظت نہ ہوتی تو وہ بھی پالتے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں حلیئے نہ کالے کہ وہ دلوں کی بات جانے والا ہے۔

والله تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عَنْهُ بِمَحْمُدِنَ الْمُصْطَفِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کتنے کا پکڑا ہوا شکار مسلمان کھا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک خرگوش کو کتنے نے اس طرح پکڑا ہے کہ اس کے دانت خرگوش کے جسم میں پیوستہ ہو گئے ہیں اور تب بہت سا جسم اس کا چباڑا ہا ہے کہ خرگوش کے جسم میں خون جاری ہے۔ ابھی جان باقی ہے۔ پس اس کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے یا نہیں۔ بیتوں اتوجروا۔

الجواب اگر مسلمان یا کتابی عاقل نے کہ حرام میں نہ ہو، بسم اللہ کہہ کر تعلیم یافتہ کتنے کو جو شکار کر کے مالک کے لئے چھوڑ کیا کرے، خود نہ کھانے لگے، غیر حرم کے حلال جانور حشی پر جو اپنے پروں یا پاؤں کی طاقت سے اپنے بچاؤ پر قادر تھا چھوڑا۔ اور کتنا اس کے چھوڑنے سے سیدھا شکار پر گیا۔ یا اس کے پکڑنے کی تدبیر میں مصروف ہوانچ میں اور طرف مشغول یا غافل نہ ہو گیا اور اس نے شکار کو زخمی کر کے مارڈا ایسا مجروح کر دیا کہ اس میں اتنی ہی حیات باقی ہے جتنی مذبوح میں ہوتی ہے کہ کچھ دریڑ پر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور کتنے کے چھوڑنے میں کوئی کافر، مجوہ یا بست پرست یا مخدیا مرتد جیسے آج کا کے اکثر نصاریٰ اور رافضی اور عام نیچری وغیرہ ہم خلاصہ یہ کہ مسلمان یا کتابی کے سوا کوئی شریک نہ تھا۔ نہ شکار کے قتل میں کتنے کی شرکت کسی دوسرے کے تعلیم یافتہ یا سگ نیچری یا اور کسی نئے جانور کے جس کا شکار ناجائز ہو اور چھوڑنے والا چھوڑنے کے وقت سے شکار پانے تک اسی طرف متوجہ رہانچ میں کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو تو وہ جانور بے ذبح حلال ہو گیا۔ اور ان چودہ شرطوں سے ایک میں بھی کمی ہو اور جانور بے ذبح مر جائے تو حرام ہو جائے گا۔ ورنہ حرم کا شکار تو ذبح سے بھی حلال نہیں ہوتا۔ باقی صورتوں میں ذبح شرعی سے حلال ہو جائے گا۔ تنویر الابصار و دریختار و راجحات میں ہے۔

(الصید مباح بخمسة عشر شرطا) خمسة في الصائد و ان يكون من اهل الذكارة و ان يوجد منه الارسال و ان لا يشاركه في الارسال من لا يحل صيده و ان لا يترك التسمية عامدا او ان لا يستغل بين الارسال والأخذ بعمل اخزو خمسة في الكلب ان يكون معلما و ان يذهب على سفن الارسال و ان لا يشاركه في الأخذ ملاعا حل صيده و ان يقتله جرحا و ان لا يأكل منه و خمسة في الصيد ان لا يكون من الحشرات و ان لا يكون عن نبات الماء الا السمك و ان يمنع نفسه بجناحه او قوائمه و ان لا يكون مقطوعا بنايه او بمخلبه و ان يموت بهذا قبل ان يصل الى ذبحه اه. قلت و معنى قوله ان يموت اى حقيقة او حکما بان لا يبقى فيه حياة فوق المذبوح كما نص عليه في الدرو صححه المحسني شکار پندرہ شرطوں کے ساتھ مباحثہ ہے پانچ شرطیں شکار میں ہوں گی وہ یہ ہیں کہ (۱) شکار ذبح کا اہل ہو (۲) شکاری جانور اسی نے چھوڑا ہو (۳) اور اس کے اس فعل میں کوئی ایسا آدمی شریک نہ ہو جس کا شکار حلال نہ ہو (۴) جان بوجھ کر بسم اللہ ترک نہ کی ہو (۵) شکاری جانور چھوڑنے کے درمیان کسی اور فعل میں مشغول نہ ہوا ہو۔ اور پانچ شرطیں کتنے میں ہیں۔ (۱) کتاب سیکھا ہوا ہو (۲) اور چھوڑنے کے بعد سیدھا شکار ہی کی طرف گیا ہو۔ (۳) شکار پکڑنے میں کوئی ایسا کتاب شریک نہ

ہوا ہو جس کا شکار حلال نہ ہو (۲) شکار کو زخمی کر کے قتل کرے (۵) اس سے کتا خود نہ کھائے۔ پانچ شرطیں شکار میں ہیں۔
 (۱) حشرات الارض میں سے نہ ہو (۲) مجھلی کے علاوہ کوئی آبی جانور نہ ہو (۳) وہ جانور اپنے پروں یا پاؤں کی طاقت سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہو (۴) وہ جانور اپنے پنج یا ڈیاڑھ کے ساتھ غذانہ حاصل کرتا ہو (۵) اور شکاری کے ذبح کرنے سے پہلے ہی مر گیا ہو۔ میں نے کہا ہے قول اس کا کہ مر جائے یعنی حقیقتاً مر جائے یا حکماً یعنی اس میں اتنی ہی زندگی باقی ہو جتنی مذبوح جانور میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ درمیں اس کی تصریح ہے مخشی نے اسے ترجیح دی ہے۔ انہیں میں ہے:

شرط کون الذابح مسلماً حلالاً خارج الحرم ان كان صيداً فصيده الحرم لا تحله الذكاة مطلقاً (او كتابياً ولو مجنوناً) اه در ملخصاً المراد به المعتوه كما في العناية عن النهاية لان المجنون لا قصد له ولا نية لان التسمية

شرط بالنص وهي بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا يعني قوله اذا كان يعقل التسمية الذبيحة و يضبط اه

”شرط ہونے ذبح کی مسلم، غیر محروم، خارج حرم اگر ہو شکار۔ پس حرم کے شکار کا ذبح کرنا جائز نہیں مطلقاً (ذبح یا کتابی ہو اگرچہ مجنون ہو) ہ۔ در ملخصاً۔ مجنون سے مراد ضعیف العقل ہے۔ جیسا کہ عناہی میں ہے نہایہ سے۔ کیونکہ مجنون کا تو قصد اور نیت ہی نہیں ہوتی۔ چونکہ بسم اللہ شرط ذبح ہے نص کے ساتھ اور وہ قصد کے ساتھ ہو سکتی ہے اور صحت قصد ساتھ اس کے ہے جس کا ہم ذکر کیا ہے۔ یعنی قول اس کا جس وقت سمجھتا ہو۔ بسم اللہ اور ذبح کو اور یاد رکھتا ہو۔“

ان سب شرائط کے ساتھ جس خرگوش کو کہتے نے مارا مطلقاً حلال ہے۔ اور اگر ہنوز مذبوح سے زیادہ زندگی باقی ہے تو بعد ذبح حلال ہے۔ اس کے دانت جسم میں پیوستہ ہو جانا وجہ ممانعت نہیں ہو سکتا۔ قرآن عظیم نے اس کا شکار حلال فرمایا اور شکار بے زخمی کیے نہ ہو گا اور زخمی جبھی ہو گا کہ اس کے دانت اس کے جسم کو شق کر کے اندر داخل ہوں اور یہ خیال کہ اس صورت میں اس کا عاب کہنا پاک ہے، شکار کے بدن کو خس کرے گا ووجہ سے غلط ہے۔ اولاً شکار حالت غصب میں ہوتا ہے اور غصب کے وقت اس کا عاب خشک ہو جاتا ہے۔

والذارق جمع من العلماء في اخذة طرف اللوب ملاطفاً في نجس او غضبان فلا

اور اسی لئے علماء کی ایک جماعت نے فرقہ کیا پیچ پکڑنے کے کنارہ کپڑے کا پیار سے اور غصب سے بصورت اول کپڑا نجس ہو گا۔ ثانی صورت میں پاک رہے گا۔ ثانیاً اگر عاب لگا بھی تو آخ جسم سے خون بھی نکلے گا، وہ کب پاک ہے جب اس سے طہارت حاصل ہو گی اس سے بھی ہو جائے گی۔ والله تعالیٰ اعلم

كتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

کیا فرماتے ہیں علمائے شریعت اس صورت میں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اس کی نماز میں تو کوئی خلل واقع نہیں ہوتا؟ اور نمازی کے آگے سے کس قدر دور تک گزر کرنا نہ چاہئے؟

الجواب نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ نکلنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ نماز اگر مکان یا چھوٹی مسجد میں پڑھتا ہو تو دیوار تک قبلہ نکلنا جائز نہیں جب تک نیچے میں آڑنہ ہو اور صحرایا بڑی مسجد میں پڑھتا ہو تو صرف موضع سجودتک نکلنے کی اجازت نہیں۔ اس سے باہر نکل سکتا ہے۔ موضع سجود کے یہ معنی کہ آدمی جب قیام میں اہل خشوع و خضوع کی طرح اپنی نگاہ خاص جائے سجود پر یعنی جہاں سجدہ میں اس کی پیشانی ہو گی تو نگاہ کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے روک نہ ہو تو جہاں جماعت ہے وہاں سے کچھ آگے پڑھتی ہے۔ جہاں تک آگے بڑھ کر جائے وہ سب موضع سجود ہے۔ اس کے اندر نکلنا حرام ہے اور اس سے باہر جائز در مختار میں ہے۔

مرور مار فی الصحراء او فی مسجد کبیر بموضع سجودہ فی الاصح او مرورہ بین يدیه الی حائط القبلة
فی بیت مسجد صغیر فانہ کبقة واحده

”گزرنا گزرنے والے کا جنگل میں یا بڑی مسجد میں اس کے سجدہ کی جگہ سے نیچے اصح روایت کے یا گزرنے اس کا اس کے آگے سے قبلہ کی سمت والی دیوار تک گھر میں اور چھوٹی مسجد میں کیونکہ وہ ایک جگہ کی طرح ہے۔“
رد المحتار میں ہے۔

قولہ بموضع سجودہ ای من موضع قدمہ الی موضع سجودہ كما فی الدر روهذا مع القیود التي بعده انما هو للام
والافالفساد متنف مطلقا قولہ فی الاصح صحة التمرتاشی وصاحب البدائع واختارہ فخر الاسلام ورجحه فی
النهاۃ والفتح انه قدر ما یقع بصره علی الماء لوصلی بخشوع ای راما بصره الی موضع سجودہ اه مختصرا
”اس کا کہنا بموضع سجودہ یعنی اس کے قدموں کی جگہ سے لے کر سجدہ کی جگہ تک جیسا کہ در میں ہے یا اور اس کے بعد والی قیود صرف گزرنے والے کا گناہ ظاہر کرنے کے لئے ہیں۔ رہی نماز تو وہ مطلقاً فاسد نہیں ہوتی اس کا قول فی لاصح صحیح کہا ہے اس کو تمرتاشی اور صاحب بدائع نے اور پسند کیا اس کو فخر الاسلام نے اور ترجیح دی اس کو نہایہ اور فتح میں تحقیق اس کا اندازہ یہ ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ گزرنے والے پر پڑے۔ اگر خشوع کے ساتھ نماز پڑھے یعنی اپنی نگاہ جائے سجدہ پر رکھنے والا ہو مختصرًا“
منہج العالق میں تجھیں سے ہے۔

الصحيح مقدار متهی بصره وهو موضع سجودہ قال ابو نصر مقدار ما بين الصف الاول و بين مقام الام و هذا عين الاول ولكن لعبارة اخرى وفيما قرانا على شيخنا منهاج الانمة رحمه الله تعالى ان يمر بحیث يقع بصره وهو يصلی صلوة الخاشعين وهذه العبارة اوضح

www.alahazrat.net

”صحیح مقدار حد نگاہ اس کی اور وہ اس کی جائے سجدہ ہے۔ ابو نصر نے کہا ہے اس کی مقدار اتنی مسافت جتنی امام صف اوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اور یہ بعینہ پہلی بات ہے عبارت اور ہے۔ یا یعنی اس کے جو پڑھی ہم نے اپنے شیخ منہاج الامم رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کہ گزرے جہاں کہ نمازی کرنے کا پڑتی ہو جب کہ وہ خشوع سے نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ عبادت پہلی سے زیادہ واضح ہے۔“

علامہ شامی فرماتے ہیں۔

فانظر کیف جعل الكل قولا واحد او انما الاختلاف في العبارة لا في المعنى

”پس دیکھ کس طرح کیا ہے اس نے تمام کو ایک قول اور اختلاف صرف عبارت میں ہے معنی میں نہیں ہے۔“

نیز رد المحتار میں ہے۔

(قوله في بيت) ظاهره ولو كبرا في القهستانى وينبغى ان يدخل فيه اي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت
”(اس کا یہ کہنا کہ گھر میں) اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ گھر اگرچہ بڑا ہو۔ قہستانی میں ہے اور لائق ہے کہ داخل ہوں چھوٹی مسجد میں حولی اور گھر۔“
رہایہ کہ مسجد صغیر و بکیر میں کیا فرق ہے؟ فاضل قہستانی نے لکھا کہ چھوٹی مسجد کہ چالیس گز مکسر سے کم ہو۔

فی رد المحتار مسجد صغیر هو اقل من ستين ذرا عاوقيل من اربعين وهو المختار كما اشار اليه في الجوادر
”رد المحتار میں ہے چھوٹی مسجد وہ ہے جو سانچھڑگز سے کم ہو اور کہا گیا ہے چالیس سے اور یہی مختار ہے جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف
جوہر میں۔“

اقوال یہاں گز سے گز مساحت مراد ہونا چاہئے۔

لانه الاليق بالمسوحات كما قال الامام قاضى خان فى الماء فهمنا هو المتعين باولى

”کیونکہ وہی زیادہ لائق ہے پیاس کر دہ چیزوں کے ساتھ جیسا کہ کہا ہے قاضی خاں نے پانی کے بارہ میں۔ پس یہاں بطريق اولی
وہی متعین ہے۔“

اور گز مساحت ہمارے اس گز سے کہ اڑتا لیس انگل یعنی تین فٹ کا ہے ایک گز دو گرہ اور دہ تہائی گرہ ہے کما یابناہ فی بعض
فتاونا تو اس گز سے چالیس گز مکسر ہمارے گز سے چوون (۵۲) گز سات گرہ اور گرہ کا نواح حصہ ہوا۔ کما لا یخفی علی
المحاسب تو اس زعم علماء پر ہمارے گز سے چوون (۵۳) گز سات گرہ مکسر مسجد صغیر ہوئی۔ اور سائز ہے چون گز مکسر مسجد بکیر۔
یہ ہے وہ کہ انہوں نے لکھا اور علامہ شامی نے ان کا اتباع کیا۔

اقوال مگر یہ شبہ ہے کہ فاضل مذکور کو عبارت جواہر سے گزرا۔ عبارت جواہر الفتاویٰ دربارہ دار ہے، نہ دربارہ مسجد۔ مسجد لبیر صرف وہ ہے جس میں مثل صحراء اتصال صفوں شرط ہے۔ جیسے مسجد خوارزم کے سولہ ہزارستون پر ہے۔ باقی تمام مساجد اگرچہ دس ہزار گز مکسر ہوں مسجد صغیر ہیں اور ان میں دیوار قبلہ تک بلا حائل مرورنا جائز۔ کما بیناہ فی فتاویٰ۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذہب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۱۷ ۲۳ ربیع الآخر شریف ۱۴۲۰ھ۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ چند اشخاص ایک جگہ بیٹھے ہیں اور ایک شخص نے آ کر کہ السلام علیکم۔ اس کے جواب میں انہوں نے جواب دیا۔ ”آداب عرض“ یا ”تسلیمات“ یا ”بندگی“ یا ایک شخص نے اپنا ہاتھ ماتھے تک اٹھادیا اور منہ سے کچھ جواب نہ دیا۔ پس فرض کفایا اشخاص مذکورہ کے ذمہ سے اس صورت میں اٹھ گیا یا نہیں؟ بینوا تو جروا

الجواب نہ۔ اور سب گناہ گار ہے۔ جب تک ان میں کوئی علیکم السلام یا علیک یا السلام علیکم نہ کہے۔ کہ الفاظ مذکورہ بندگی، آداب، تسلیمات وغیرہ الفاظ سلام سے نہیں۔ اور صرف ہاتھ اٹھادیا کوئی چیز نہیں جب تک اس ساتھ کوئی لفظ سلام نہ ہو۔ رد المحتار میں ظہیریہ سے ہے۔

لفظ السلام فی الموضع کلها السلام علیکم و بالتوین و بدون کما هذین يقول الجھال لا يكون سلاما اه اقوال فلا يكون جوابا لان جواب السلام ليس الا بالسلام اما وحده او بزيادة الرحمة والبركات لقوله تعالى اذا حيتم بتحية فحيوا باحسن منها اور دوها و معلوم ان ماختصر عوامن الالفاظ او الاجتزاء بالايماء اما ان يكون تحية او لا على الثاني عين الثاني عدم براءة الذمة ظاهر لان الموربه التحية و على الاول ليس عين الثاني عدم براءة الذمة ظاهر لان المامور به التحية و على الاول ليس عين السلام وهو ظاهر ولا احسن منه فان المختصر لا يمكن ان يكون احسن من الموارد فخرج عن کلا الوجهين وبقى الواجب الكفائي على كل عين

”سلام کا لفظ تمام موضع میں السلام علیکم یا ساتھ توین کے اور ان دونوں کے علاوہ جیسے جاہل کہتے ہیں سلام نہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں پس نہ ہوگا جواب کیونکہ جواب سلام کا یا تو اکیلے سلام کے ساتھ ہوگا یا ساتھ زیادتی رحمت اور برکات کے بوجہ فرمان اللہ تعالیٰ کے اور جب سلام دیئے جاؤ تم ساتھ سلام کے پس سلام و تم ساتھ اچھے سلام کے اس سے یا وہی لوٹا دو۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جوان لوگوں نے اختراع کئے ہیں الفاظ ہوں یا اشارات یا تو یہ سلام ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ بصورت ثانی برعی الذمه نہ ہونا ظاہر ہے۔ کیونکہ مامور بہ سلام ہے اور بصورت اول یہ اختراعات نہ تو عین سلام ہیں اور نہ اس سے اچھے کیونکہ مخترعات وارد فی الشرع سے

اچھے نہیں ہو سکتے پس دونوں وجہوں سے خارج ہو گیا اور واجب کفائی ہر ایک کے ذمہ میں باقی رہا۔“

مرقاۃ شریف میں ہے۔

قد صح بالاحادیث المتوترة معنی ان السلام باللفظ سنة وجوابه واجب كذلك

”احادیث متواترة معنی کے ساتھ صحیح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ سلام ساتھ لفظ کے سنت ہے اور جواب اس کا واجب ہے اسی طرح۔“
حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے۔

لیس منامن تشبہ بغيرنا لات شبھوا باليهود ولا بالنصارى فان تسلیم اليهود الاشارة بالا صابع و تسلیم النصارى الاشارة بالاكف رواه الترمذی عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما و قال استادہ ضعیف۔ قال العلامة القاری لعل وجهہ انه عن عمر و بن شعیب عن ابیه عن جده و قد تقدم الخلاف فيه وان المعتمد ان سنده حسن لاسیما و قد استدہ السیوطی فی الجامع الصغیر الی ابن عمر و فارتفع النزاع و زال الاشكال اه

”ہمارے گروہ سے نہیں جو ہمارے غیروں کی شکل بنے۔ نہ یہود سے مشابہت پیدا کرو نہ نصاری سے کہ یہود کا سلام انگلی سے اشارہ ہے اور نصاری کا سلام ہتھیلی سے اشارہ روایت کیا اس کو ترمذی نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور کہا ہے استاد اس کی ضعیف ہے۔ کہا ہے علامہ علی قاری نے شاید وجہ اس کی تحقیق وہ عمر و بن شعیب عن ابیه عن جده ہے اور تحقیق اس بارہ میں اختلاف پہلے گزر چکا ہے اور اس بارہ میں قابل اعتماد بات یہ ہے کہ یہ سند حسن ہے۔ خصوصاً جب کہ سیوطی نے جامع صغیر میں یہ حدیث ابن عمر و کی سند سے بیان کی ہے۔ پس نزاع انھی اور اشكال زائل ہو گیا اہ“

اقول رحم اللہ مولانا القاری انما احوالہ الامام السیوطی علی ت یعنی الترمذی فیضم برتفاع النزاع و بزول الاشكال ثم لیس تضعیف الترمذی لما ذن فان الجمهور و منهم الترمذی علی الاحتجاج بعمرو بن شعیب و برؤایة عن ابیه عن جده بل الوجه انه من روایة ابن لهیعة انه يقول الترمذی حدثنا قتيبة ابن لهیعة عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال فذکرہ قال الترمذی هذا حدیث استادہ ضعیف و روی ابن المبارک هذا الحدیث عن ابن لهیعة فلم یرفعه اہ وقد قال فی کتاب النکاح باب ماجاء فی من یتزوج المرأة ثم یطلقها قبل ان یدخل بها لحدیث رواه بعین السند هذا حدیث لا یصح ابن لهیعة یضعف فی الحدیث اہ مختصر او کذا ضعفه فی غير هذا المحل فالیہ یشير هننا نعم الا ظهر عندي ان حدیث ابن لهیعة لا ینزل عن الحسن وقد صرح المنادی فی التیسیر ان حدیثه حسن

”میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ملا علی قاری پر حرم کرے سیوطی نے تو اس حدیث کا حوالہ ت یعنی ترمذی دیا ہے۔ پس ضم کیا برتفاع النزاع و بزول الاشكال۔ پھر نہیں تضعیف ترمذی کی جیسا مگماں کیا اس نے کیونکہ جمہور علماء جن میں ترمذی بھی شامل ہیں اس نات پر ہیں کہ

عمر بن شعیب عن ابی عین جده تحقیق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجاج جائز ہے بلکہ وجہ ضعف یہ ہے وہ روایت ابن الحبیب سے ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں ہیں حدیث بیان کی ہم سے قتبہ بن امیہ نے عن عمر بن شعیب عن ابی عین جده بے شک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس ذکر کیا اس کو۔ کہا ہے ترمذی نے اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور روایت کیا ابن مبارک نے اس حدیث کو ابن الحبیب سے پس اس کارفع نہیں کیا اور تحقیق کہا ہے کتاب الزکاح میں باب اس کا جو آیا نجع اس کے جونکاح کرے عورت سے پھر طلاق دے اس کو پہلے اس کے کہ دخول کرے ساتھ اس کے واسطے حدیث کے جو عین اسی سند سے روایت کی ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ابن الحبیب حدیث میں ضعیف کیا گیا ہے اور اسی طرح اسے کئی جگہوں پر اس کے علاوہ بھی ضعیف کیا ہے پس اسی کی طرف یہاں اشارہ کرتے ہیں۔ ہاں اظہر میرے نزدیک یہ ہے کہ ابن الحبیب کی حدیث حسن سے کم درجہ نہیں اور منادی نے تیسیر میں تصریح کی ہے اس کے حسن کے ساتھ۔ ہاں لفظ سلام کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی ہوتا مضافاً لفظ نہیں۔

خرج لاترمذی قال حدثنا سوید نا عبد الله بن المبارك نا عبد الحميد بهرام انه سمع شهر ابن خوش يقول سمعت اسماء بنت يزيد تحدث ان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم مرافق المسجد يوما و عصبة من النساء قعود فالروى بيده بالتسليم و اشار عبد الحميد بيده هذا حديث حسن الخ قال الامام النووي وهو محمول على انه صلی الله تعالى عليه وسلم جمع بين اللفظ والاشارة ويدل على هذا ان ابا داود روى هذا الحديث وقال في رواية فسلم علينا اه قال العالمة القاري بعد نقله قلت على تقدير عدم تلفظه عليه الصلة والسلام بالسلام لام خدور فيه لانه ما شرع السلام على من مر على جماعة من النساء و ان ما عنه عليه الصلة والسلام مما تقدم من اسلام المصرح فهو من خصوصياته عليه الصلة والسلام فله ان يسلم و ان لا يسلم وان يشير ولا يشير على انه قد يرجح ادب الاشارة مجرد التواضع من غير قصد السلام الخ

”حدیث بیان کی ترمذی نے کہا حدیث بیان کی ہم سے سوید نے ان سے عبد اللہ بن مبارک نے ان سے عبد الحمید بهرام نے تحقیق انہوں نے شاہر بن خوش سے وہ فرماتے ہیں میں نے اسماء بنت یزید کو یہ حدیث بیان کرتے تھا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے اور عورتوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا۔ آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے سلام کیا اور عبد الحمید نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اخ - امام نووی نے کہا یہ حدیث محمول ہے اس پر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا درمیان لفظ اور اشارہ کے اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد نے یہ حدیث روایت کی اس میں یہ بھی ہے پس سلام کیا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اھ - علامہ ملا علی قاری نے اس کے نقل کرنے کے بعد کہا ہے میں نے کہا ہے بر تقدیر عدم تلفظ بالسلام کے بھی کوئی اعتراض نہیں یونکہ عورتوں کی جماعت پر گزرنے والے پر عورتوں کا سلام کرنا مشروع ہی نہیں باقی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سلام کرنا۔ تو یہ جناب کے خصوصیات میں سے ہے پس آپ کو اختیار تھا کہ سلام کرتے یا نہ کرتے یا نہ کرتے۔ علاوہ ازیں بعض دفعہ اشارہ سے

ارادہ سلام کا نہیں ہوتا بلکہ محض تواضع مراد ہوتی ہے آخر تک۔“

اقول مبنيٰ كله على انه لم يرد السلام ولا يظهر فرق بين ما ذكر اولاً وما زاد في العلاوة سوى انه ذكر فيها للاشاره محملاً وهو التواضع وهذه شاهدة الواقعه سيدتنا اسماء رضي الله تعالى عنها شاهدة بانه صلي الله تعالى عليه وسلم فان لم يحمل على التلفظ لزم ان تكون نفس الاشارة تسلیماً وهو معلوم الانتفاء من الشرع فوجب الحمل على الجمع تامل لعل لکلامہ محملاً لست احصہ والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علمہ

و جل مجده اتم و احکم

میں کہتا ہوا س تمام تقریر کا مداراس بات پر ہے کہ سلام وارد نہیں ہوا اور ان کے پہلے بیان میں لفظ علاوہ کے بعد کے بیان میں کوئی خاص فرق نہیں سوائے اس کے کہ اس میں اشارہ کا ایک محل بیان کر دیا ہے یعنی تواضع اور اس واقعہ کی گواہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہی دیتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سلام کیا ہے۔ پس اگر اس کو تلفظ سلام پر حمل نہ کریں تو پھر اشارہ کو سلام ماننا پڑے گا۔ اور اشارہ کا سلام نہ ہونا شروع میں ثابت ہو چکا ہے۔ پس واجب ہے حمل کرنا اس کا اوپر جمع ہیں الاشارة والتلفظ کے۔ غور کر شاید ان کے کلام کا ایسا حمل ہے جسے میں نہیں سمجھ سکا۔ والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علمہ جل مجده اتم و احکم۔

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۱۸ ربیع الآخر شریف ۱۳۲۰ھ۔

بعالی خدمت امام اہل سنت مجددین و ملت معرض کر آج میں جس وقت آپ سے رخصت ہوا اور واسطے نماز مغرب کے مسجد میں گیا۔ بعد نماز مغرب کے ایک میرے دوست نے کہا چلو ایک جگہ عرس ہے۔ میں چلا گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں بہت سے لوگ جمع ہیں اور قوالی اس طریقہ سے ہو رہی ہے کہ ایک ڈھول دوسارنگی نج رہی ہیں اور چند قوال پیرانی پیر دشیر کی شان میں اشعار کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے اشعار اور اولیاء اللہ کی شان میں اشعار گارہے ہیں اور ڈھول سارنگیاں نج رہی ہیں۔ یہ باجے شریعت میں قطعی حرام ہیں۔ کیا اس فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ خوش ہوتے ہوں گے؟ اور یہ حاضرین جلسہ گناہ گار ہوئے یا نہیں؟ اور ایسی قوالی جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز ہے تو کس طرح کی؟

الجواب ایسی قوالی حرام ہے۔ حاضرین سب گناہ گار ہیں اور ان سب کا گناہ ایسا عرس کرنے والوں اور قوالوں کا ہے۔

اور قوالوں کا بھی گناہ اس عرس کرنے والے پر بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے قوالوں کے گناہ جانے سے قوالوں پر سے

گناہ کی کچھ کمی آئے یا اس کے اورقوالوں کے ذمہ حاضرین کا و بال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں کچھ تخفیف ہو۔ لیکن بلکہ حاضرین میں ہر ایک پر اپنا پورا گناہ اورقوالوں پر اپنا گناہ الگ اور سب حاضرین کے برابر جدا اور ایسا عرس کرنے والے پر اپنا گناہ الگ اورقوالوں کے برابر علیحدہ۔ وجہ یہ کہ حاضرین کو عرس کرنے والے نے بلا یا ان کیلئے اس گناہ کا سامان پھیلایا اورقوالوں نے انہیں سنایا۔ اگر وہ سامان نہ کرتا یہ ڈھول سارنگی نہ ستاتے تو حاضرین اس گناہ میں کیوں پڑتے۔ اس لئے ان سب کا گناہ ان دونوں پر ہوا پھرقوالوں کے اس گناہ کا باعث وہ عرس کرنے والا ہوا۔ وہ نہ کرتا تو نہ بلاتا تو یہ کیونکر آتے بجائے ہذا قوالوں کا بھی گناہ اس بلانے والے پر ہوا۔

کما قالوا فی سائل قوی مرة سوی ان الاخذ والمعطی اثمان لانهم لولم يعطوا لما فعلوا فكان العطاء هو الباعث لهم على الاهستر سال في التکدی و السوال وهذا كله ظاهر على من عرف القواعد الكريمة الشرعية وبالله التوفيق
”جسے کہا ہے فقہا نے اس سائل کے بارے میں جو طاقتور تدرست ہو کہ ایسا خیرات لینے والا اور ایسے کو دینے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ کیونکہ دینے والے اگر نہ دیں تو وہ بھی یہ گداگری کا نہ موم کاروبار نہ کریں۔ پس ان کی عطا ان کی گداگری کا باعث بنی۔ اور یہ سب قواعد شرعیہ جاننے والے پر ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے توفیق۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجر من تبعه لا ينقص ذلك من اجرورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تابعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا

”جو کسی امرہدایت کی طرف بلائے جتنے اس کا اتباع کریں ان سب کے برابر ثواب پائے اور اس سے ان کے ٹوابوں میں کچھ کمی نہ آئے اور جو کسی امر ضلالت کی طرف بلائے جتنے اس کے بلانے پر چلیں ان سب کے برابر اس پر گناہ ہو اور اس سے ان کے گناہوں میں کچھ تخفیف را نہ پائے۔“

رواه الانتماء احمد و مسلم و الاربعة عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

باجوں کی حرمت میں احادیث کثیرہ وارد ہیں۔ ازال جملہ اجل و اعلیٰ حدیث صحیح بخاری شریف ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے۔

ليكون في امتى اقوام يستحلون الحر او لحرير و الخمر والمعاوز. حدیث صحیح جلیل متصل وقد اخرجه ایضا احمد و ابو داود و ابن ماجة والا سماعیلی و ابو نعیم باسانید صحیحة لا مطعن فيها و صححه جماعة اخرون من الانتماء كما قاله بعض الحفاظ قاله الامام ابن حجر في كف الرعاع

ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرا کیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور

بعض جہاں بدست یا شیم ملائکہ پرست یا جھوٹے صوفی یا دبدست کہ احادیث صحاح مرفوعہ ملکہ کے مقابل بعض ضعیف قصے یا محتمل واقعے یا تشبہ پیش کرتے ہیں انہیں اتنی عقل نہیں یا قصد ابے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف معتنی کے آگے محتمل ملکہ کے حضور تشبہ واجب الترک ہے۔ پھر کہاں قول کہاں حکایت فعل پھر کجا محرم کجا مسیح ہر طرح یہی واجب العمل، اسی کو ترجیح مگر ہوں پرستی کا علاج کس کے پاس ہے۔ کاش گناہ کرتے اور گناہ جانتے اقرار لاتے۔ یہ ڈھنٹائی اور بھی سخت ہے کہ ہوں بھی پالیں اور الزام بھی ٹالیں۔ اپنے لئے حرام کو حلال بنالیں۔ پھر اسی پرس نہیں بلکہ معاذ اللہ اس کی تہمت محبوبان خدا اکابر سلسلہ عالیہ حیثت قدست اسرارہم کے سردھرتے ہیں۔ نہ خدا سے خوف نہ بندوں سے شرم کرتے ہیں۔ حالانکہ خود حضور محبوب الہی سیدی و مولائی نظام الحق والدین سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ و عنہم و عنابہم فوائد الفواد شریف فرماتے ہیں۔

”مزرا میر حرام است“

مولانا فخر الدین زرادی خلیفہ حضور سیدنا محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے زمانہ مبارک میں خود حضور کے حکم حکم سے مسئلہ سماع میں رسالہ ”کشف القناع عن اصول السماع“ تحریر فرمایا۔ اس میں صاف ارشاد فرمادیا کہ:

اما سماع مشائخنا رضى الله تعالى عنهم فبرى عن هذه التهمة وهو مجرد صوت القوال مع الاشعار
المشرعة من كمال صنعة الله تعالى

”ہمارے مشائخ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سماع اس مزامیر کے بہتان سے بری ہے وہ صرف قوال کی آواز ہے ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت الہی سے خبر دیتے ہیں۔“

لہذا صاف! اس امام جلیل خاندان عالی چشت کا یہ ارشاد مقبول ہو گایا آج کل کے مدعاوں خامکار کی تہمت بے بنیاد ظاہرۃ الفساد۔

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

سیدی مولانا محمد بن مبارک بن محمد علوی کرمانی مرید حضور پنور شیخ العالم فرید الحق والدین گنج شکر و خلیفہ حضور سیدنا محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کتاب مستطاب سیر الاولیاء میں فرماتے ہیں۔

حضرت سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ العزیز می فرمود کہ چند ایں چیز می بایدتا سماع مباح می شود۔
سمع و مستمع و مسموع آلہ سماع مسمع یعنی گوندنه مرد تمام باشد کو دک نباشد و عورت نباشد
مستمع آنکہ می شنود ازیاد حق خالی نباشد و مسموع آنچہ بگویند فحش و مسخرگی نباشد و آلہ سماع
مزامیرست چون چنگ و رباب و مثل آں می باید کہ درمیان نباشد ایں چنیں سماع حلال ست۔

حضرت سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے تھے کہ چند شرائط ہوں تو سماع مباح ہو گا۔ کچھ شرطیں سنانے والے میں کچھ

سننے والے میں کچھ اس کلام میں جو سنائی جائے۔ کچھ آلہ سماع میں یعنی سنانے والا کامل مرد ہو چھوٹا لڑکا نہ ہوا اور عورت نہ ہو۔ سننے والا یاد خدا سے غافل نہ ہوا اور جو کلام پڑھی جائے فتح اور تفسیر انداز کی نہ ہو۔ اور آلات سماع یعنی مزامیر جیسے سارنگی اور رباب وغیرہ۔ چاہئے کہ ان چیزوں میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ اس طرح کا سماع حلال ہے۔

مسلمانو! یہ فتویٰ ہے سرور و سردار سلسلہ عالیہ چشت حضرت سلطان اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کیا اس کے بعد بھی مفتریوں کو منہ دکھانے کی گنجائش ہے؟

نیز سیر الاولیاء شریف میں ہے۔

یکرے بخدمت حضرت سلطان المشائخ عرض داشت کہ درین روزها بعض از درویشان آستانہ دار در مجمع کے چنگ و رباب و مزامیر بود رقص کر دند۔ فرمود نیکو نکر دہ اند آنچہ نامشروع مت ناپشنديده بایشان گفتند کہ شما چہ کر دید در آن مجمع مزامیر بود سماع چکونہ شنیدید و رقص کر دید ایشان جواب دادند کہ ما چنان مستغرق سماع بودیم کہ ندانستیم کہ اینجا مزامیر است یانہ۔ حضرت سلطان المشائخ فرمود ایں جواب ہم چیز نیست ایں سخن در ہمہ معصیتہا باید

”ایک آدمی نے حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کی کہ ان ایام میں بعض آستانہ دار درویشوں نے ایسے مجمع میں جہاں چنگ و رباب اور دیگر مزامیر تھے رقص کیا۔ فرمایا انہوں نے اچھا کام نہیں کیا جو چیز شرع میں ناجائز ہے ناپشنديده ہے اس کے بعد ایک نے کہا۔ جب یہ جماعت اس مقام سے باہر آئی لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا۔ وہاں تو مزامیر تھے تم نے سماع کس طرح سن اور رقص کیا انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس طرح سماع میں مستغرق تھے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہاں مزامیر ہیں یا نہیں سلطان المشائخ نے فرمایا یہ جواب کچھ نہیں اس طرح تو تمام گناہوں کے متعلق کہہ سکتے ہیں۔“

مسلمانو! کیا صاف ارشاد ہے کہ مزامیر ناجائز ہیں اور اس عذر کا کہ ہمیں استغراق کے باعث مزامیر کی خبر نہ ہوئی۔ کیا مسکت جواب عطا فرمایا کہ ایسا حیلہ ہر گناہ میں چل سکتا ہے۔ شراب پچے اور کہہ دے شدت استغراق کے باعث ہمیں خبر نہ ہوئی کہ شراب یا پانی۔ زنا کرے اور کہہ دے غلبہ حال کے سبب ہمیں تمیز نہ ہوئی کہ جو رو ہے یا بیگانی اسی میں ہے۔

حضرت سلطان المشائخ فرمود من منع کردہ ام کہ مزامیر و محرومات درمیان نباشد و درین باب بسیار غلو کر دتا بحدیکہ گفت اگر امام راسہو افتاد مرد تسبیح اعلام کند وزن سبحان اللہ نگوید زیرا کہ نشاید آواز آن شنودن پس پشت دست بر کف دست زند و کف دست بر کف دست نزند کہ آن بلہومی ماندتا این غایت از ملاہی و امثال آن پر ہیز آمدہ است۔ پس در سماع بطريق اولی کہ ازین بابت نباشد یعنی در منع دستک چندیں احتیاط آمدہ است پس در سماع مزامیر بطريق اولی منع است اہ باختصار

www.alahazrat.net
”حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا میں نے منع کر رکھا ہے کہ مزامیر اور دیگر محترمات درمیان نہ ہوں اور اس بات میں آپ پر بہت مبالغہ کیا۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر امام نماز میں بھول جائے مرد تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو مطلع کرے اور عورت سبحان اللہ نہ کہے کیونکہ اس کو اپنی آواز سنانا نہ چاہئے۔ پس ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر نہ مارے کہ اس طرح یہ کھیل ہو گا۔ بلکہ ہاتھ کی پشت دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارے جب یہاں تک لہو و لعب کی چیزوں اور ان کی طرح چیزوں سے پرہیز آئی ہے تو سماع میں مزامیر بطریق اولی منع ہیں۔“

مسلمانو! جو ائمہ طریقت اس درجہ احتیاط فرمائیں کرتالی کی صورت کو منوع بتائیں وہ اور معاذ اللہ مزامیر کی تہمت اللہ انصاف کیسا خط بے ربط ہے۔ اللہ اتباع شیطان سے بچائے اور ان سچے محبوبان خدا کا سچا اتباع عطا فرمائے۔ آمین الہ الحق آمین۔ بجا ہم عندک آمین۔ والحمد لله رب العالمین۔ کلام یہاں طویل ہے اور انصاف دوست کو اسی قدر کافی ہے۔ والله الہادی

والله تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عَضْيُ عَنْهُ بِمُحَمَّدِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ چومنا ناخنوں کا وقت لینے نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کہ اذان یا خطبہ میں جس وقت نام پاک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے چوتے ہیں از روئے شرع جائز ہے یا نہیں؟
بینوا تو جروا

الجواب اذان میں نام اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ناخن چوم کر آنکھوں سے لگانے کو علماء نے مستحب فرمایا۔
رواج تماریں ہے۔

يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة صلی اللہ علیک يا رسول اللہ و عند الثانية منها قرت عيني
بك يا رسول اللہ ثم بقول اللهم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفری الابهامین على العينين. فانه صلی اللہ
تعالیٰ علیه وسلم یکون قائد الله الى الجنة. کدافي کنز العباد اه قہستانی و نحوه في الفتاوى الصوفیه
”یعنی مستحب ہے کہ جب اذان میں پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیک يا رسول اللہ کہ اور
جب دوبارہ نے قُرت عینی بک يا رسول اللہ یعنی میری آنکھ حضور سے ٹھنڈی ہوئی یا رسول اللہ۔ پھر کہے اللهم متعنی
بالسمع والبصر الہی مجھے شنوائی اور بینائی سے بہرہ مند فرم۔ اور یہ کہنا آنکھوں کے ناخن آنکھوں پر رکھنے کے بعد ہو۔ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم اپنی رکاب اقدس میں اسے جنت میں لے جائیں گے۔ ایسا ہی کنز العباد میں ہے۔ یہ مضمون جامع الرموز علامہ قہستانی کا
ہے اور اسی کے مانند فتاویٰ صوفیہ میں ہے۔

فقیر نے اس مسئلہ میں ایک مبسوط کتاب ”منیر العین فی حکم تقبیل الابهامین“، لکھی جس نے مانعین کے تمام شبہات بحمد اللہ تعالیٰ
رفع کئے اور علوم حدیث کے متعلق بکثرت افادے دیے مگر خطبے میں نہ چاہئے کہ وہاں مخفی خاموشی کا حکم ہے۔

کما بیناہ فی فتاویٰ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

مسئلہ ۴۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ چراغ جلانا مزارات اولیاء کرام پر اور روشنی کرنا بزرگان دین کی قبور پر جائز ہے یا نہیں؟ اور چادریں چڑھانا بزرگوں کی زیارت تو پرمع باجہ کے جیسا کہ آج کل فی زمانہ دستور ہے کہ ہر جمعرات کو چراغ جلاتے ہیں چادریں رنگیں بزرگ سرخ مع باجہ کے لاتے اور چڑھاتے ہیں۔ اور جواشیاء کہ شیرینی یا چاول وغیرہ لاتے ہیں ان کی قبروں پر رکھ کر فاتحہ دیتے ہیں پس یہ ازروئے قرآن و حدیث درست ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب: اقول وبالله التوفيق اصل یہ ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے انما الاعمال بنیات اور جو کام دینی فائدے اور دینیوی نفع جائز دونوں سے خالی ہو عبیث ہے۔ اور عبیث خود مکروہ ہے۔ اس میں مال صرف کرنا اسراف ہے اور اسراف حرام ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ولا تسرع و فونا ان الله لا يحب المسرفين اور مسلمانوں کو نفع پہنچانا بلا شبه محبوب شارع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلينفعه (رواہ مسلم عن جابر رضی اللہ عنہ)

”تم میں جس سے ہو سکے کہ اپنے بھائی مسلمان کو نفع پہنچائے تو پہنچائے۔“

اور مظہمات دینی کی تعظیم قطعاً مطلوب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ۔

و من يعظ شعائر الله فانها من تقوى القلوب

”جو خدا کے شعاروں کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہیں۔“

وقال اللہ تعالیٰ

و من يعظ حرمت الله فهو لك خير له عند ربه

”جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اس کے رب کے پاس۔“

اور قبور اولیائے کرام و عباد اللہ الصالحین بلکہ عام مقابر مونین ضرور مستحق ادب و تکریم ہیں والہذا ان پر بیٹھنا منوع، چلنا منوع، پاؤں رکھنا منوع، یہاں تک کہ ان سے تکمیل کا نامنوع۔ امام احمد و حاکم طبرانی منہ متدرب کبیر میں عمارہ بن خرم رضی اللہ عنہ بسند حسن راوی

رانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا علی قبر فقال يا صاحب القبر انزال من القبر لا تؤذى صاحب القبر

ولا يؤذيك

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر بیٹھے دیکھا۔ فرمایا اور قبر والے! قبر پر سے اتر آ۔ نہ تو صاحب قبر کو ایذا دے نہ وہ تجھے۔“

امام احمد کی روایت یوں ہے۔

لَمْ امْشِيْ عَلَى جَمْرَة او سِيف او اخْصَفْ نَعْلَى بَرْ جَلَى اَحَبِّ الِّى مِنْ اَنْ اَمْشِيْ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ

رواه ابن ماجہ عن عتبة بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسنہ جید

”یہ کہ میں آگ یا تلوار پر چلوں یا اپنا جوتا اپنے پاؤں سے گانھوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔“
یہ پانچ اصول شرعیہ ہیں۔ مسائل مسئولہ کی صور مختلفہ کے احکام انہیں اصول پرمی ہیں۔ قبر پر چراغ جلانے سے اگر اس کے معنی حقیقی مراد ہیں یعنی خاص قبر پر چراغ رکھنا تو مطلقاً ممنوع ہے اور اولیاء کرام کے مزارات میں اور زیادہ ناجائز ہے کہ اس میں بے ادبی و گستاخی اور حق میت میں تصرف و دست اندازی ہے۔ قینہ وغیرہ میں امام علامہ جمالی سے ہے۔ یاثم بو ط القبور لان سقف القبر حق المیت حدیث والمتخذین علیها المساجد و السرج کی حقیقت یہی ہے۔ علی القبر کے حقیقی معنی یہی ہیں کہ خاص قبر پر ہو۔ وہاذا کنارہ قبر میں مسجد بنانا ہرگز ممنوع نہیں بلکہ مزار بندہ صالح سے تبرک مقصود ہو تو محمود ہے مجع جمال انوار میں ہے۔

من اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جَوَارِ صَالِحٍ أَوْ صَلَى فِي مَقْبَرَةٍ قَاصِدًا بَهِ الْأَسْتِظْهَا رَبِّ رُوحٍ أَوْ وَصْلَ أَثَارَ أَوْ تَهْ

إِلَيْهِ لَا تَوْجِهُ نَحْوُهُ وَالْتَّعْظِيمُ لَهُ فَلَا حَرْجٌ وَفِيهِ الْأَيْرَى إِنْ مَرْقَدًا سَمِيعَلِيَّ الْصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ فِي الْحَجَرِ

المسجد الحرام والصلوة فيه افضل

”یعنی جو کسی نیک بندے کے قریب مزار میں مسجد بنائے یا مقبرہ میں اس ارادہ سے نماز پڑھے کہ میت کی روح سے استمد اور کے یا اپنی عبادت کا اثر برکات اس تک پہنچانا چاہیے نہ یہ کہ نماز میں اس کی طرف منہ کرے یا نماز سے اس کی تعظیم کا قصدر کئے تو اس میں کچھ مضاائقہ نہیں کیا نہیں دیکھتے کہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مزار پاک خود مسجد الحرام شریف میں حطیم مبارک ہے پھر اس میں نماز تمام مساجد سے افضل ہے۔“

یہ اس تقدیر پر ہے کہ حدیث مذکور کی صحت مان لی جائے۔ والافیہ باذام ضعیف و ان حسنہ الترمذی فقد عرف رحمہ اللہ تعالیٰ بالتساہل فیہ کما بیناہ فی مدارج طبقات الحدیث

اور اگر قبر سے جدار و شن کریں اور وہاں نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کے بیٹھا ہے نہ وہ قبر سر راہ واقع ہے نہ کسی معظم ولی اللہ یا عالم دین کا مزار ہے۔ غرض کسی منفعت و مصلحت کی امید نہیں تو ایسا چراغ جلانا ممنوع ہے کہ جب مطلقاً فائدے سے خالی ہوا اور بحکم اصل دوم ناجائز ہے۔ خصوصاً جب کہ اس کے ساتھ یہ جاہلانہ زعم ہو کہ میت کو اس چراغ سے روشنی پہنچ گی ورنہ اندر ہیرے میں رہے گا۔ کہ اسرا ف کے ساتھ اعتقاد بھی فاسد ہوا۔ والعياذ بالله تعالیٰ۔ اور اگر وہاں

مسجد ہے یا تلیان قرآن یا ذا کران رحمٰن کے لئے روشن کریں یا قبر سراہ ہو اور نیت یہ کی جائے کہ گزرنے والے دیھیں اور سلام و الیصال ثواب سے خود بھی نفع پائیں اور میت کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ یا وہ مزار ولی یا عالم دین کا ہے روشنی سے نگاہ عوام میں اس کا ادب و جلال پیدا کرنا مقصود ہے تو ہرگز منوع نہیں۔ بلکہ حکم چار اصول باقیہ مذکورہ مستحب و مندوب ہے۔ بشرطیکہ حد افراط پر نہ ہو۔
جمع الہمار میں ہے۔

ان کان ثم مسجد او غيره ینتفع فيه للتلاوة والذکر فلاباس بالسراج فيه

”اگر وہاں مسجد وغیرہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں اس چراغ سے نفع ہوتا ہو تلاوت اور ذکر کیلئے تو چراغ جلانے میں کوئی حرج نہیں۔“
امام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدی حدیقہ ندیہ میں فرماتے ہیں۔

هذا كله اذا خلامن فائدة واما اذا كان موضع القبور مسجدا او على طريق او كان هناك احد جالس او كان قبر ولى
من الاولىاء او عالم من محققين تعظيمها لروحه المشرقة على تراب جسده كاشراق الشمس على الارض اعلاما
للناس انه ولی ليتبرکوا به يدعوا الله تعالى عنده فيستجاب لهم فهو امر جائز لامنع منه والا عمالي بالنيات

”یعنی قبور میں شمعیں روشن کرنے کی ممانعت صرف اس حالت میں ہے کہ نفع سے بالکل خالی ہو ورنہ اگر موضع قبور میں مسجد ہو یا قبر را گھنڈر پر ہے یا وہاں کوئی بیٹھا ہے یا کسی ولی یا عالم المحقق کا مزار ہے اس کی روح مبارک اس کی خاک بدن پر اس طرح پر تو ڈال رہی ہے جیسے آفتاًب زمین پر اس کی تعظیم کے لئے شمعیں روشن کیں تاکہ لوگ جانیں کہ یہ ولی اللہ کا مزار ہے اس سے برکت حاصل کریں اور اس کے پاس اللہ عزوجل سے دعائیں کہ ان کی دعا قبول ہو تو یہ جائز بات ہے جس سے اصلاً ممانعت نہیں اور کام نیتوں پر ہے۔“
فقیر غفر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالہ طوال النور فی حکم السرچ علی القبور میں اس مسئلہ اللہ کو روشن تر کھا و باللہ التوفیق۔

انہیں اصول سے مزارات اولیائے کرام پر چادر ڈالنے کا بھی جواز ثابت ہے۔ عوام میں قبور عامہ مسلمین کی حرمت باقی نہ رہی۔ آنکھوں دیکھا ہے کہ بے تکلف ناپاک جوتے پہنے قبور مسلمین پر ڈوڑے پھرتے ہیں اور دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ کسی عزیز کی خاک عزیز زیر پا ہے۔ یا کبھی ہمیں بھی یونہی خاک میں سونا ہے۔ اور بارہا دیکھا کہ جہاں قبروں میں بیٹھ کر جو اکھیلے، ٹھش بکتے، قیقہ بگاتے ہیں۔ اور بعض کی یہ جرات کہ معاذ اللہ مسلمان کی قبر پر پیشاب کرنے میں باک نہیں رکھتے۔ فانا اللہ وانا اليه راجعون

ہذا در دنداں دین نے ادھر مزارات اولیائے کرام کو ان جراتوں سے محفوظ رکھنے ادھر جاہلوں کو ان کے ساتھ گستاخی کی آفت عظیم سے بچانے کے لئے مصلحت و حاجت شرعیہ سمجھی کہ مزارات طیبہ عام قبور سے ممتاز ہیں تاکہ عوام کی نظر میں ہبیت و عظمت پیدا ہو اور بے باکانہ بر تاؤ کر کے ہلاکت میں پڑنے سے باز رہیں۔ اس سے کم حاجت کے باعث علماء نے مصحف شریف کو سونے وغیرہ سے مزیں کرنا مستحسن سمجھا ہے کہ ظاہر میں اسی ظاہری زینت سے جھکتے ہیں اور غور کیجئے تو پوشش کعبہ معظمہ میں بھی ایک بڑی حکمت یہی ہے تو یہاں کہ نہ فقط قلت تعظیم بلکہ معاذ اللہ ان شدید بے حرمتیوں کا اندیشہ تھا۔ چادر ڈالنے روشنی کرنے امتیاز دینے قلوب عوام

میں وقعت لانے کی سخت حاجت ہوئی۔ اب اس سے منع کرنے والے یا تو سخت کچھ فہم و جاہل اور حالت زمانہ سے فرے عاقل ہیں یا وہی بے ادب محروم ہیں جن کے قلوب میں عظمت اولیاء سے خار ہے۔ والعياذ بالله رب العالمين۔ فقیر غفراللہ تعالیٰ لئے رسالہ مذکورہ میں ان مسائل کو آیت کریمہ ذلک ادنیٰ ان یعرفن فلا یوذین سے استنباط کیا ہے ولہم الحمد۔

سیدی علامہ محمد ابن عابدین شامی تفہیق الفتاوی الحامدیہ میں کشف النور عن اصحاب القبور تصنیف امام علامہ سیدی نابلسی قدس سرہ و نفعنا اللہ برکاتہ سے نقل فرماتے ہیں۔

لکن نحن الان نقول ان کان القصد بذالک التعظیم فی اعین العame حتی لا يحتقر و اصحاب هذا القبر الذى وضعت عليه الشاب والعمائم لجلب الخشوع والادب ولقلوب الغافلین الزائرين لان قلوبهم نافرة عند الحضور فی التادب بین يدی اولیاء اللہ تعالیٰ المدفونین فی تلك القبور كما ذکرنا من حضور روحانیتهم

المبارکة عند قبورهم فهو امر جائز لا ينبغي النهي عنه لان الاعمال بالنيات ولكل امری مانوی

لیکن ہم اس وقت میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے مقصود عوام کی نگاہ میں مزارات اولیاء کی تعظیم پیدا کرنی ہوتا کہ جس مزار پر کچڑے اور عمامے رکھے دیکھیں مزار ولی جان کر اس کی تحقیر سے باز رہیں اور تاکہ زیارت کرنے والے غافلوں کے دلوں میں خشوع و ادب آئے کہ مزارات اولیاء کے حضور حاضری میں ان کے دل ادب کے لئے نہم نہیں ہوتے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ مزارات کے پاس اولیائے کرام کی روحیں حاضر ہوتی ہیں تو اس نیت سے چادرؤالنا امر جائز ہے جس سے ممانعت نہ چاہئے اس لئے کہ اعمال نیتوں پر ہیں اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہے۔“

چادرؤں کے سبز و سرخ ہونے میں بھی حرج نہیں بلکہ رسمی ہونا بھی روا کردہ پہنچانیں البتہ باجے ناجائز ہیں۔ اور جب چادر موجود ہوا اور وہ ہنوز پرانی یا خراب نہ ہوئی کہ بد لئے کی حاجت ہو تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے۔ بلکہ جو دام اس میں صرف کریں ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے لئے محتاج کو دیں۔ ہاں جہاں معمول ہو کہ چڑھائی ہوئی چادر جب حاجت سے زائد ہو، خدام، مسائیں حاجت مندلے لیتے ہیں اور اس نیت سے ڈالے تو مضائقہ نہیں کہ یہ بھی تصدق ہو گیا۔

فاتحہ کا کھانا قبروں پر رکھنا تو یہی منع ہے جیسا چراغ پر رکھ کر جلانا۔ اور اگر قبر سے جدار کھیس تو حرج نہیں۔ والله تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین اس مسئلہ میں کہ بعض شخص اس طرح نام رکھتے ہیں۔ تاج الدین، مجی الدین، نظام الدین، علی جان، نبی جان، محمد جان، محمد نبی، محمد یاسین، غفور الدین، غلام علی، غلام حسین، غلام غوث، غلام جیلانی، ہدایت علی۔ پس اس طرح کے نام رکھنا جائز ہیں یا نہیں؟ مولوی عبدالحکیم صاحب لکھنؤی نے اپنے فتاویٰ میں ہدایت علی نام رکھنا ناجائز بتایا ہے۔ اس میں حق کیا ہے؟ بینوا توجروا

الجواب محمد نبی، احمد نبی، نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود ہیں۔ یہ الفاظ کریمہ حضور ہی پر صادق اور حضور ہی کو زیبای ہیں افضل صلووات اللہ واجل تسليمات اللہ علیہ و علی الہ دوسرے کے یہ نام رکھنا حرام ہیں کہ ان میں حقیقتاً دعائے نبوت نہ ہونا مسلم ورنہ خالص کفر ہوتا۔ مگر صورت ادعاء ضرور ہے اور وہ بھی یقیناً حرام مختدور ہے اور یہ یزعم کہ اعلام میں معنی اول مخصوص نہیں ہوتے نہ شرعاً مسلم نہ عرفان مقبول۔

معنی اول مراد نہ ہونے میں شک نہیں مگر نظر سے محض ساقط ہونا بھی غلط ہے۔ احادیث صحیحہ کثیرہ سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت اسماء جن کے معنی اصلی کے لحاظ سے کوئی برائی تھی تبدیل فرمادیئے۔ جامع ترمذی میں امام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہما سے ہے۔

ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ برے نام کو بدل دیتے۔“

سنن ابو داؤد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصی و عزیز و محفلہ و شیطان و حکم و عراب و جاپ و شہاب نام تبدیل فرمادیئے۔ قال ترکت اسنیدها للاختصار احرم کا نام بدل کر زرد رکھا۔ رواہ عن اسامہ بن اخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

عاصیہ کا نام جمیلہ رکھا۔ رواہ مسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
برہ کا نام زینب رکھا اور فرمایا۔

لاتزکوا انفسکم اللہ اعلم باهل البر منکم۔ رواہ مسلم عن زینب بنت ابی سلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اپنی جانوں کو آپ اچھا نہ بتاؤ۔ خدا خوب جانتا ہے کہ تم میں نیکو کارکون ہے۔

(برہ کے معنی تھے زن نیکوکار۔ اسے خودستائی بتا کر تبدیل فرمایا) اور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

انکم تدعون یوم القيمه باسمائكم واسماء ابايکم فاحسنوا اسماء کم رواه احمد و ابو داود عن ابی الدرداء

رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند جید

”بے شک تم روز قیامت اپنے اور اپنے والدؤں کے نام سے پکارے جاؤ گے تو اپنے نام اچھے رکھو۔“

اگر اصلی معنی بالکل ساقط انظر ہیں تو فلا نام اچھا فلاں براہونے کے کیا معنی اور تبدیل کیا وجہ اور خودستائی کہاں مسکی پر دلالت کرنے میں سب یکساں۔ معہذا انہیں لوگوں سے پوچھ دیکھئے کیا اپنی اولاد کا نام شیطان ملعون، رافضی، خبیث، خوک وغیرہ رکھنا گوارا کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو قطعاً معنی اصلی کی طرف لحاظ باقی ہے پھر کس منہ سے اپنے آپ اور اپنی اولاد کو نبی کہتے کہلواتے ہیں کیا کوئی مسلمان اپنایا اپنے بیٹے کا رسول اللہ، خاتم النبین یا سید المرسلین نام رکھنا روا رکھنے کے گا؟ حاشا و کلا۔ پھر محمد نبی، احمد نبی، نبی احمد کیونکر روا ہو گیا؟ یہاں تک کہ بعض خدانا ترسوں کا نام نبی اللہ سنائے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کیا رسالت ختم نبوت کا ادعاع حرام ہے اور نبی نبوت کا حلال؟ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے ناموں کو تبدیل کر دیں۔

یعنی پسند و خرد جاں فروز تاج شے بر سر ک لفظ دوز

عجیب نہیں کہ ایسی علیل تاویل، ذلیل تخيیل والے شدہ شدہ اللہ رب العالمین نام رکھنے لگیں کہ آخر علم میں اصلی معنی تو ملحوظ نہیں۔
والعياذ بالله رب العالمين

یونہی نبی جان نام رکھنا مناسب ہے۔ اگر جان ایک کلمہ جدا گانہ بنظر محبت زیادہ کیا ہو جائیں جیسا کہ غالب یہی ہے جب تو ظاہر کہ ظاہر ادعائے نبوت ہوا۔ اور اگر ترکیب مقلوب سمجھیں یعنی جان نبی تو یہ تزکیہ و خودستائی میں برہ سے ہزار درجہ زائد ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہ فرمایا کیونکہ پسند ہو سکتا ہے؟ یہاں تبدیل میں کچھ بہت حرج بھی نہیں۔ ایک ہڈھانے میں گناہ سے نجیج جائے گا اور اچھا خاصہ جائز نام پائے گا۔ محمد نبی، احمد نبی، نبی احمد۔ نبی جان کہا اور لکھا کیجئے۔ نبیہ بمعنی بیدار و ہوشیار ہے۔

یونہی نبیین وطنہ نام رکھنا منع ہے کہ وہ اسمائے الہیہ و اسمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں۔ کیا عجب کہ ان کے معنی وہ ہوں جو غیر خدا و رسول میں صادق نہ آ سکیں، تو ان سے احتراز لازم۔ جس طرح نامعلوم المعنی رقیہ منتر جائز نہیں ہوتا کہ مبادا کسی شرک و ضلال پر مشتمل ہو۔ امام ابو بکر ابن العربي کتاب احکام القرآن میں فرماتے ہیں۔

روى اشهب عن مالك لا يسمى احدىسين لانه اسم الله تعالى وهو كلام بديع و ذلك ان العبد يجوز له ان يسمى باسم الرب اذا كان فيه معنى منه كعالم و قادر و انما معنى مالك من التسمية بهذا الاسم لانه من الاسماء التي لا يدرى ما معناها فربما كان ذلك معنى ينفرد به الرب تعالى فلا ينبغي ان يقدم عليه من لا يعرف لما فيه من الخطأ فاقتضى النظر المنع منه

”اٹھب نے مالک سے روایت کیا کوئی ایک پیسین نام نہ رکھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور وہ بدیع کلام ہے۔ اور یہ بات یوں ہے کہ بندہ کیلئے جائز ہے کہ نام رکھے ساتھ نام رب تعالیٰ کے جب کہ اس میں سے معنی اس کے اندر پائے جائیں۔ جیسے عالم قادر۔ اور مالک نے اس نام سے منع اس لئے کیا ہے کہ یہ ایسے ناموں سے ہے جن کے معانی معلوم نہیں ہیں۔ غالباً اس کا معنی ایسا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ منفرد ہیں۔ پس جسے پہچانتا ہے ہواں کو اس پر اقدام نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ اس میں خطرہ ہے پس اس کے نظری ہونے کا تقاضا منع ہے۔“

علامہ شہاب الدین احمد خفاجی حنفی مصری شیم الریاض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں اسے نقل کر کے فرماتے ہیں۔ وہی کلام نقیص فقیر نے اس کے ہامش پر لکھا ہے۔

قد کان ظهر لى المَنْعِ عَنْ لَعِنِ هَذَا الْمَعْنَى لَكُنْ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ اسْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَدْرَى مَعْنَاهُ فَلَعْلَ لَهُ مَعْنَى لَا يَصْحُ فِي غَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَلَعْلَ هَذَا أَوَّلَى وَمَا تَقْدِيمَ لَانْ كَوْنَهُ اسْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَظْهَرَ وَأَشْهَرَ فَلَا يَكُونُ لَهُ مَعْنَى يَنْفَرِدُ بِهِ الرَّبُّ عَزَّوَجَلُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِعِينِهِ بِهِيَ حَالُ اسْمِ طَرْكَاهَا۔ والبيان البیان والدلیل الدلیل لفظ پاک محمدان میں شامل کردیتا ممانعت کی تلافی نہ کرے گا۔ کہ پیسین وطہ اب بھی نامعلوم المعنی ہی رہے اگر وہ معنی مخصوص بذات اقدس ہوئے تو محمد ملانا ایسا ہو گا کہ کسی کا نام رسول اللہ نہ رکھا محمد رسول اللہ رکھا۔ یہ کب حلال ہو سکتا ہے؟ وَهَذَا كَلْهَ ظَاهِرٌ جَدًا

یونہی غفور الدین بھی سخت فتح و شنج ہے۔ غفور کے معنی مثانے والا، چھپانے والا۔ اللہ عزوجل غفور ذنوب ہے۔ یعنی اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے ذنوب مثاثات عیوب چھپاتا ہے۔ تو غفور الدین کے معنی ہوئے دین کا مثانے والا۔ یہ ایسا ہوا جیسے شیطان نام رکھتا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمادیا۔ ہاں دین پوش، تقبیہ کوش۔ یہ ایسا ہوا جیسے راضی نام رکھنا۔ بہر حال شدید شاعت پر مشتمل ہے۔ اس سے تو عاصیہ نام بہت ہلاکا تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تغیر فرمایا کہ معاصی کا عرف اطلاق اعمال تک ہے اور دین پوشی کی بلا ملت و عقائد پر۔ والعياذ بالله رب العالمين حدیث میں ہے الفال موکل بالمنطق بعض برے ناموں کی تبدیل کا یہی نشانہ کما ارشد الیہ غیر ما حدیث ملا علی قاری مرقاۃ میں نقل فرماتے ہیں۔

ان الاسْمَاءِ تَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ ”نام آسمان سے اترتے ہیں۔“

یعنی غالباً۔ اسم و مسمی میں کوئی مناسبت غیب سے ملاحظہ ہوتی ہے۔ اہل تجربہ نے کہا ہے۔

مزن قال بد کار و رو حوال بد

اللهم احفظنا وارحمنا - فقیر نے پچشم خودا یے قبیع ناموں کو سخت براثر پڑتے دیکھا ہے۔ بھلے چنگے سنی صورت کو آج گرمیں دین پوش، تا حق کوش ہوتے پایا ہے۔

نسال اللہ العفو والغافیة. اللهم يا قادر يا رحمن يا عزیز يا غفور صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد واله و صحبه و ثبتنا علی دینک الحق الذی ارتضیتہ لا نیانک و رسک و ملائکتک حتی لائقک به سو عافنا من البلاء والبلوی والفتنه ظهر منها وما بطن وصل وسلم و بارک علی سیدنا محمد واله و اجمعین وارحم عجزنا وفاقتباهم يا ارحم الراحمین امین. والصلوة والسلام علی اشفیع الکریم واله و صحبه اجمعین والحمد للہ رب العلمین - امین

اور ایک سخت یہ ہوتی ہے کہ ایسے قبیع نام والے اپنے نام کے ساتھ حسب رواج نام پاک محمد ملا کر لکھتے کہتے اور اسی کی اوروں سے طمع رکھتے ہیں۔ اگر کوئی خالی ان کا نام بے نام اقدس لکھتے تو گویا اپنی تھارت جانتے اور آدھا نام لینا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسے بڑے معنی کے ساتھ اس نام پاک کا ملانا خودا س نام کریم کے ساتھ گستاخی ہے۔ یہ نکتہ ہمیشہ یاد رہے کہ ان امور کی طرف اسی کو التفات و تنبہ عطا فرماتے ہیں جسے ایمان و ادب سے حصہ و افیہ بخشنے ہیں ولہلہ الحمد۔

اس بنا پر فقیر کبھی جائز نہیں رکھتا کہ کلب علی، کلب حسن، کلب حسین، غلام حسن، غلام حسین، غلام جیلانی و امثال ذکر اسماء کے ساتھ نام پاک ملا کر کھا جائے۔ اللهم ارزقنا حسن الادب و نجنا من مورثات الغضب، امین۔

نظام الدین، مجی الدین، تاج الدین، اور اسی طرح وہ تمام نام جن میں مسمی کا معظم فی الدین بلکہ معظم علی الدین ہونا نکلے جیسے شمس الدین، نور الدین، فخر الدین، شمس الاسلام، مجی الاسلام، بدرا الاسلام، وغیرہ ذالک۔ سب کو علماء کرام نے سخت ناپسند رکھا اور مکروہ ممنوع رکھا۔ اکابر دین قدس اسرار ہم کہ امثال اسلامی سے مشہور ہیں یہ ان کے نام نہیں القاب ہیں کہ ان مقامات رفیعہ تک وصول کے بعد مسلمین نے توصیف انہیں ان لقبوں سے یاد کیا۔ جیسے شمس الائمه حلوائی فخر الاسلام بزوہ دی، تاج الشریعہ، صدر الشریعہ۔ یونہی مجی الحق والدین حضور پر نور سیدنا غوث اعظم۔ معین الحق والدین حضرت خواجہ غریب نواز۔ وارث النبی سلطان ابن حماد بن سخنی۔ شہاب الحق والدین عمر سہروردی۔ بہاؤ الحق والدین نقشبند، قطب الحق والدین بختیار حسن کا کی۔ شیخ الاسلام فرید الحق والدین مسعود۔ نظام الحق والدین سلطان الاولیاء محبوب الہی محمد فصیر الحق والدین چراغ دہلوی محمود وغیرہ ہم۔

رحمته اللہ علیہ و نفعنا ببرکاتہم فی الدنیا والدین

حضور نور النور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا لقب پاک مجی الدین خود روحانیت اسلام نے رکھا۔ جس کی روایت معروف و مشہور اور بحثۃ الاسرار شریف وغیرہ کتب ائمہ و علماء میں مذکورہ۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا تزکوا انفسکم۔ فصول علمی میں ہے لا یسمیہ بمناقیہ تزکیہ رواجخانی میں ہے۔

یو خدمن قولہ ولا بما فيه تزکیۃ المنع عن نحوم حی الدین و شمس الدین مع ما فیه من الکذب والف بعض المالکیۃ فی
المنع منه مولفا و صرح به القرطبی فی شرح الاسماء الحسنی و انشد بعضهم فقال: (۱) اوی الدین یستحبی من اللہ
ان یبری و هذا الله فخرو ذاک نصیر (۲) فقد کثرت فی الدين القاب عصبت هم مافی مراعی المنکرات حمیر (۳) و
انی اجل الدین عن عزه بهم واعلم ان الذنب فیه کبیر. و نقل عن الامام التنوی انه کان یکرہ من لقبه بمحی الدین و
یقول لا اجعل من دعائی به فی حل ومال الی ذلك العارف بالله تعالی الشیخ سنان فی كتابہ تبیین المحارم و اقام
الطاماء الکبری علی المتنین بمثل ذلك و انه من التزکیۃ المنھی عنها فی القرآن ومن الکذب قال و نظیرہ ما یقال
للمدرسين بالترکی آفندی وسلطانم و نحوہ. ثم قال فان قیل هذه مجازات صارت كالاعلام فخر جت عن التزکیۃ فی
الجواب ان هذا یردہ ما یشاهد من انه اذا نودی باسمہ العلم وجد علی من ناداه به فعلم ان التزکیۃ باقیۃ الخ

”مصنف کے قول لا بما فيه تزکیۃ سے معلوم ہوتا ہے منع مثل محی الدین و شمس الدین کے۔ علاوہ ازیں اس میں جھوٹ بھی ہے
اور بعض مالکی علماء نے ایسے ناموں کے منع میں ایک کتاب لکھی ہے اور قرطبی نے اس کی تصریح کی ہے شرح اسماء حسنی میں اور بعض
نے اس بارہ میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ پس کہا ہے ”میں دیکھتا ہوں دین کو کہ حیا کرتا ہے اللہ سے جو دکھایا جائے۔ حالانکہ یہ اس کیلئے
فخر ہے اور یہ اسی کیلئے نصیر یعنی مدگار ہے۔ تحقیق بہت ہوئے دین میں القاب اس کے مدگاروں کے۔ یہ لوگ ہیں جو برائیوں
کی رعایت میں گدھے ہیں۔ اور تحقیق دین کی موت ان جیسے لوگوں کے ساتھ اس کی عزت میں ہے اور جان لے کہ اس میں گناہ بڑا
ہے۔ اور امام نوویؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ محی الدین کے ساتھ اپنے ملقب ہونے کو ناپسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے جو شخص مجھے
اس لقب کے ساتھ پکارے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا اور اسی کی طرف مائل ہوئے شیخ سنان اپنی کتاب تبیین المحارم اور اقام
الطاماء الکبری علی متنین میں مثل اس کے اور یہ تحقیق یہ تزکیہ ہے جس سے قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے اور جھوٹ سے ہے اور کہ
مثل اس کے کہا وہ جو کہا جاتا ہے واسطے مدرسین کے ترکی میں آفندی وسلطانم اور اس کی مثل پھر کہا پس اگر کہا جائے یہ مجازات ہیں
جو اعلام کی طرح ہو گئے ہیں پس تزکیہ سے نکل گئے پس جواب یہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ اس بات کو رد کرتا ہے کیونکہ اگر ان اشخاص کو
ان کے اسماء اعلام سے پکارا جائے تو پکارنے والے پرغصہ کریں گے۔ پس معلوم ہوا کہ تزکیہ کے لئے باقی ہے۔ اخ“

سترہ نام کہ سائل نے پوچھئے ان میں سے یہی دس ناجائز و منوع ہیں۔ باقی سات میں حرج نہیں۔ علی جان، محمد جان کا جواز تو ظاہر
ہے کہ اصل نام علی و محمد ہے اور جان بنظر محبت زیادہ اور حدیث سے ثابت کہ محبوبان خدا انہیاء علیہم الصلوٰۃ والشاء کے اسماء
طیبہ پر نام رکھنا مستحب ہے جب کہ ان کے مخصوصات سے نہ ہو۔

حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

تسموا باسماء الانبیاء. رواه البخاری فی الادب المفرد و ابو داود النسائی عن ابی وہب الجشمی و لہ تتمہ والبخاری فی التاریخ بلفظ سموا عن عبد اللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و لہ تتمہ اخیری اور محمد و احمد ناموں کے فضائل میں تو احادیث کثیرہ عظیمہ جلیلہ وارد ہیں۔

حدیث ۱ صحیحین مند احمد و جامع ترمذی و سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ۔

حدیث ۲ صحیحین و ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔

حدیث ۳ مجمع کبیر طبرانی میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی ”میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو۔“

حدیث ۴ ابن عساکر و حافظ حسین بن احمد بن عبد اللہ بن بکیر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے راوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من ولد له مولد فسماه محمدا حبالي و تبرك كا باسمى كان هو و مولوده في الجنة

”جس کے لڑکا پیدا ہوا اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کیلئے اس کا نام محمد رکھے وہ اور اس کا لڑکا دنوں بہشت میں جائیں۔“ امام خاتم الکفایہ جلال الاملة والدین سیوطی فرماتے ہیں۔

هذا امثل حدیث ورد في هذا الباب و اسناده حسن. و نازعه تلميذه الشامي بماردہ العلامۃ الزرقانی فراجعه

”جس قدر حدیثیں اس باب میں آئیں یہ سب میں بہتر ہے اور اس کی سند حسن ہے۔“

حدیث ۵ حافظ ابو طاہر سلفی و حافظ بن بکیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت دو شخص حضرت عزت کے حضور کھڑے کئے جائیں گے۔ حکم ہو گا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے الہی! ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیا۔ رب عز و جل فرمائے گا۔

ادخال الجنۃ فانی الیت علی نفسی ان لا یدخل النار من اسمه احمد ولا محمد

”جنت میں جاؤ کہ میں نے حلف فرمایا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو وہ در زخم میں نہ جائے گا۔“

یعنی جب کہ مومن ہو۔ اور مومن عرف قرآن و حدیث اور صحابہ میں اسی کو کہتے ہیں جو سنی صحیح العقیدہ ہو کمانص علیہ الائمه فی التواضیح وغیرہ ورنہ بد مذہب ہوں کیلئے تو حدیثیں یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ جہنم کے کتے ہیں ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ بد مذہب اگر جبراً سودا اور مقام ابراہیم کے درمیان مظلوم قتل کیا جائے اور اپنے اس مارے جانے پر صابر و طالب ثواب رہے جب بھی اللہ عز وجل اس کی کسی بات پر نظر نہ فرمائے اور اسے جہنم میں ڈالے۔ یہ حدیثیں دارقطنی و ابن ماجہ و نیہقی و ابن الجوزی وغیرہ ہم نے

حضرت ابو امامہ وحدیفہ و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیس اور فقیر نے اپنے فتاویٰ میں متعدد جگہ لکھیں۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی وغیرہ گمراہوں کے کئے ان حدیثوں میں اصلاح بشارت نہیں، نہ کہ سید احمد خاں کی طرح کفار جس کا مسلک کفر قطعی کہ کافر پر تو جنت کی ہوا تک حرام ہے۔

حدیث ۶ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں حضرت نبیط بن شریط رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

قال اللہ تعالیٰ و عزتی و جلالی لا عذبت احداً سُمِّيَ باسمك في النار

”رب عزوجل نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جس کا نام تم حمارے نام پر ہو گا اسے دوزخ کا عذاب نہ دوں گا۔“

حدیث ۷ حافظ ابن بکیر امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

حدیث ۸ ولیٰ مندا الفردوس میں موقوفاً راوی کہ مولیٰ علی فرماتے ہیں۔

حدیث ۹ ابن عدی کامل اور ابو سعید نقاش سند صحیح اپنے مجسم شیوخ میں راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ما اطعم طعام على مائدة ولا جلس عليها وفيها اسمى الا وقد سوا كل يوم مرتين

”جس دستر خوان پر لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور ان میں کوئی محمد نام کا ہو وہ لوگ ہر روز دوبار مقدس کئے جائیں۔“

حاصل یہ کہ جس گھر میں ان پاک ناموں کا کوئی شخص ہو دن میں دو بار اس مکان میں رحمت الہی کا نزول ہو۔ والہذا حدیث امیر المؤمنین کے لفظ یہ ہیں۔

ما من مائدة وضعتم فحضر عليها من اسمه احمد او محمد او لقدس الله ذلك المنزل كل يوم مرتين

حدیث ۱۰ ابن سعد طبقات میں عثمان عمری سے مرسل ار اوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ما ضر احدكم لو كان في بيته محمد و محمدان و ثلاثة

”تم میں کسی کا کیا فقصان ہے اگر اس کے گھر میں ایک محمد یاد و محمد یا تین محمد ہوں۔“

والہذا فقیر غفران اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بیٹوں بھیجوں کا عقیقہ میں صرف محمد نام رکھا۔ پھر نام اقدس کے حفظ آداب اور باہم تمیز کے لئے عرف جدا مقرر کئے۔ بحمد اللہ تعالیٰ فقیر کے یہاں پانچ محمداب موجود ہیں۔ **سلمهم اللہ تعالیٰ وعافاہم والی مدارج الكمال رقاہم** اور پانچ سے زائد اپنی راہ گئے۔ **جعلهم اللہ لنا اجراؤ ذخرا و فرطا برحمته و بعزة اسم محمد**

www.alahazrat.net حدیث ۱۱ طرافقی وابن الجوزی امیر المؤمنین مرتفعی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنی سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ما اجتمع قومٌ قطٌ فی مشورۃ و فیہم رجلٌ اسْمَهُ مُحَمَّدٌ لَمْ يَدْخُلُهُ فی مشورۃِهِمْ الْأَلْمَ بِهِ
”جب کوئی قوم کسی مشورے کے لئے جمع ہوں اور ان میں کوئی شخص محمد نام ہو اور اسے اپنے مشورے میں شریک نہ کریں ان کیلئے
اس مشورے میں برکت نہ رکھی جائے۔“

حدیث ۱۲ طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

منْ وَلَدْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادُ فَلَمْ يَسْمُّ أَحَدًا مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ فَقَدْ جَهَلَ

”جس کے تین بیٹے پیدا ہوں اور وہ ان میں کسی کا نام محمد نہ کھے ضرور جاہل ہے۔“

حدیث ۱۳ حاکم و خطیب تاریخ اور دیلی مند میں امیر المؤمنین مولیٰ علی رضی اللہ عنہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اذَا سَمِيْتُ الْوَلَدَ مُحَمَّدًا كَرْمُوهُ وَ اوسْعُوا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ وَ لَا تَقْبِحُو لَهُ وَجْهًا

”جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لئے جگہ کشادہ کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو۔ یا اس پر
برائی کی دعا نہ کرو۔“

حدیث ۱۴ بزار مند میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اذَا سَمِيْتُ مُحَمَّدًا فَلَا تَضْرِبُوهُ وَ لَا تَحْرِمُوهُ

”جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اسے نہ مارو نہ محروم کرو۔“

www.alahazrat.net
حدیث ۱۵ فتاویٰ امام شمس الدین سخاوی میں ہے ابوشعیب حرانی نے امام عطا (تابع جلیل الشان استاد، امام الائمه سیدنا امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ) سے روایت کی ہے۔

من اراد ان یکون حمل زوجہ ذکر افليضع یده علی بطنہار و یقل ان کان ذکر افقد سمیتہ محمدًا فانہ یکون ذکرا جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہوا سے چاہئے اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکر افقد سمیتہ محمدًا اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ ان شاء اللہ العزیز لڑکا ہی ہوگا۔
امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

ما کان فی اهل بیت اسم محمد لا کثرت برکتہ۔ ذکرہ المنادی فی شرح التیسیر تحت الحدیث العاشر

والزرقانی فی شرح المواہب

جس گھروالوں میں کوئی محمد نام کا ہوتا ہے اس گھر کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔
بہتر یہی ہے کہ صرف محمد یا احمد نام رکھے۔ اس کے ساتھ جان وغیرہ اور کوئی لفظ نہ ملائے کہ فضائل تھا انہیں اسماے مبارکہ کے وارد ہوئے ہیں۔

غلام علی، غلام حسین غوث، غلام جیلانی اور ان کے امثال تمام جن میں اسماے محبوبان خدا کی طرف اضافت لفظ غلام سے ہو غلام سے ہو سب کا جواز بھی قطعاً بدیہی ہے۔ فقیر غفران اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاویٰ میں ان ناموں پر ایک فتویٰ قدرے مفصل لکھا اور قرآن و حدیث اور خود پیشوا یاں وہابیہ کے اقوال سے ان کا جواز ثابت کیا۔ اللہ عز وجل فرماتا ہے۔

ویطوف علیہم غلمان لهم کانهم لو لمکنون

”ان پران کے غلام گشت کرتے ہوں گے گویا وہ موتی ہیں محفوظ رکھے ہوئے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لا یقولن احد کم عبدی اللہ ولکن لیقل غلامی هذَا مختصر رواه مسلم عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ

”ہرگز تم میں کوئی اپنے مملوک کو یوں نہ کہہ کے میرا بندہ۔ تم سب خدا کے بندے ہو۔ ہاں یوں کہہ کے میرا غلام۔“

وہابیہ کے شرک ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ خود قرآن و حدیث میں بھرے ہوتے ہیں۔ خدا اور رسول تک ان شرک دوستوں کے حکم شرک سے محفوظ نہیں۔ والعياذ بالله رب العليمین مزہ یہ ہے کہ لفظ غلام کی اسماے الہیہ جل وعلا کی طرف اضافت خود منوع ہے۔ اللہ کا غلام نہ کہا جائے گا کہ غلام کے معنی حقیقی پس ہیں۔ والہذا عبدی کو شفتتا عربی میں غلام اردو میں چھوکرا کہتے ہیں۔ سیدی علامہ عارف بالله عبد الغنی نابلسی قدس سرہ القدسی حدیقة ندیہ میں زیر حدیث مذکور فرماتے ہیں۔

(ولکن لیقل غلامی وجاريٰ و فتائی و فتاتی) مراعاة لجانب الادب في حق الله تعالى لانه يقال عبد الله

وَامَةُ اللَّهِ وَلَا يُقَالُ غَلامُ اللَّهِ وَجَارِيَةُ اللَّهِ وَلَا فَتِيَةُ اللَّهِ اهْ بَاخْتَصَارٍ

سبحان اللہ! یہ عجب شرک ہے جو خود حضرت عزت کیلئے روانہ ہیں، بلکہ اس کے غیرہی کے لئے خاص ہے۔ مگر ہے یہ کہ وہابیہ کے دین فاسد میں محبوبان خدا کا نام ذرا اعزاز و تکریم کی لگاہ سے آیا اور شرک نہ منہ پھیلایا۔ پھر چاہے وہ بات خدا کیلئے خاص ہو نادر کنار خدا کیلئے جائز بلکہ متصورہی نہ ہو۔ آخر نہ دیکھا کہ ان کے پیشوائے تقویۃ الایمان میں قبر پر شامیانہ کھڑا کرنا مورچھل جھلن شرک بتا دیا اور اسے صاف صاف ان باتوں میں جو خدا نے اپنی تعظیم کے لئے خاص کی ہیں گناہیا۔ ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم آخر نہ سنا کہ ان کے طائفہ غیر مقلدان کے اب نئے پیشواد مصدقیق حسن خان قنوجی بھوپالی آنجمنی اپنے رسائل کلمۃ الحق میں لکھ گئے ہیں۔

چو غلام آفتاہم ہم ازافتاہ گویم

خدا کی شان! غلام محمد، غلام علی، غلام حسن، غلام غوث تو معاذ اللہ شرک و حرام اور غلام آفتاب ہوتا یوں جائز و بے ملام۔ حالانکہ ترجمہ کیجئے تو جیسا فارسی میں غلام آفتاب ویسا ہی عربی میں مشرکین عرب کا نام عبدش، ہندی میں کفار ہندو کا نام سورج داس۔ زبانیں مختلف ہیں اور حاصل ایک۔ ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم

ہدایت علی کا جواز بھی ویسا ہی ظاہر و باہر جس میں اصلاً عدم جواز کی بُنیہیں۔ وہابیہ خذلہم اللہ تعالیٰ کہ محبوبان خدا کے نام سے جلتے ہیں آج تک ان کے کبرانے بھی اس میں کلام نہ کیا۔ البته مولوی عبدالحی صاحب لکھنؤی کے مجموعہ فتاویٰ جلد اول طبع اول صفحہ ۲۶۲ میں اس نام پر اعتراض دیکھا گیا اول کلام میں تو صرف خلاف اولیٰ تھہرا یا تھا، آخر میں ناجائز و گناہ قرار دے دیا۔ حالانکہ یہ محض غلط ہے۔ اس کا خلاصہ عبارت یہ ہے۔

استفتاء

کسرے نام خود ہدایت علی می داشت بایہام اسمائے شرکیہ تبدیل نمود و ہدایت العلی نہاد۔ شخص برا آن معارض شد کہ لفظ ہدایت مشترک است بین معنیین اراۃ الطریق و ایصال الی المطلوب و هکذا لفظ علی بغیر الف ولام مشترک است بین اسمائے الہیہ و حضرت علی کرم اللہ وجہہ مجیب گفت درین صورت تائید من ست۔ چہ ہر گاہ لفظ ہدایت و علی مشترک شد بین معنیین پس چهار احتمال می شود یکے ازان از ہدایت معنی اول و از علی اللہ جل شانہ۔ دوم از ہدایت معنی ثانی و از علی اللہ جل جلالہ۔ سوم از ہدایت معنی اول و از علی حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ چہارم از ہدایت معنی ثانی و از علی حضرت علی پس سہ احتمال اول خالی از ممانعت شرعیہ ہستند۔ البته رابع خالی از ممنوعیت نیست چہ در جملہ اسمائے شرکیہ مفہوم می شود۔ پس ہراسم کہ دائرة شود بین اسمائے شرکیہ وعدمه احتراز ازان لابدی ست بلکہ واجب

www.alahazrat.net
واگر کسے بر اسم متنازع فیہ قیاس نموده بر عبد اللہ شرک ثابت کندي یا علی گفتن ممانعت نماید قیاس او

صحیح ست یا نہ بینوا توجروا

کسی شخص کا نام ہدایت علی تھا۔ بوجہ وہم اسماء شرکیہ کے نام تبدیل کیا اور ہدایت علی رکھ لیا۔ ایک شخص نے اس پر اعتراض کیا کہ لفظ ہدایت مشترک درمیان دو معنوں کے ہے۔ ایک معنی ہے راہ دکھانا اور دوسرا معنی ہے مطلوب تک پہنچانا۔ اور اسی طرح لفظ علی بغیر الف لام کے مشترک ہے۔ درمیان اسماء الہبیہ کے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے۔ مجیب نے کہا اس صورت میں میری تائید ہے کیونکہ جب لفظ ہدایت اور علی دو معنوں میں مشترک ہوئے پس چار احتمالات بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہدایت سے مراد معنی اول ہو اور علی سے اللہ جل شانہ دوسرا یہ کہ ہدایت سے مراد معنی ثانی اور علی سے مراد اللہ جل شانہ۔ تیسرا یہ کہ ہدایت سے مراد معنی اول اور علی سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ چوتھا یہ کہ ہدایت سے مراد معنی اول اور علی سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ پس پہلے تین احتمالات ممانعت شرعیہ سے خالی ہیں۔ البتہ چوتھا احتمال ممنوعیت سے خالی نہیں کیونکہ یہ اسماء شرکیہ کے زمرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ پس جو اسم دائرہ ہو درمیان شرکیہ اور غیر شرکیہ میں اس سے بچنا ضروری ہے۔ بلکہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اسم متنازع فیہ پر قیاس کرتا ہو عبد اللہ پر شرک ثابت کرے یا علی کہنے سے روکے تو کیا اس کا قیاس صحیح ہے یا نہ؟ بیان کرو اجرد یہ جاؤ گے۔ وہی ہے سیدھی راہ دکھانے والا۔
لفظ علی کہ از اسمائے الہبیہ ست الف لام بر ان زائد می شود برائے تعظیم چنانچہ در الفضل والنعماں وغيرہ بر لفظ علی کہ از اسمائے مرتضی ست لام داخل نمی شود۔ بناء علیہ هدایت العلی اولی ست از هدایت علی چہ در اولی اشتباه اضافت هدایت یسونے علی مرتضی یست و در صورت ثانیہ بسبب اشتراک لفظ هدایت بحسب استعمال و اشتراک لفظ علی اشتباه امر ممنوع موجود و در اسامی از همچو اسم کہ ایهام مضمون غیر مشروع ساز داحتراز لازم۔ بهمین سبب علماء از تسمیہ عبد النبی وغیرہ منع ساخته اندو اما در عبد اللہ وغیرہ پس ایهام از امر غیر مشروع نیست۔ و همچنین دریا علی هر گا مقصود ندانے پروردگار باشد نزاعی نیست۔ حرره الحسنات عبد الحی

لفظ علی جو کہ اسمائے الہبیہ سے ہے اس پر تعظیم کیلئے الف لام زائد ہوتا ہے جیسا کہ الفضل اور النعماں وغيرہ لفظ علی جب کہ حضرت مرتضی کا نام ہواں پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ اس پر ہدایت علی نام رکھنا بہتر ہے۔ کیونکہ ہدایت علی نام رکھنے میں اشتباه اضافت ہدایت کا حضرت مرتضی کی طرف نہیں ہے اور ہدایت علی نام رکھنے میں بسبب اشتراک لفظ ہدایت کے باعتبار استعمال کے اور بوجہ اشتراک لفظ علی کے امر ممنوع کا اشتباه موجود ہے اور ناموں میں ایسے نام جن سے ابہام مضمون غیر مشروع کا ہو بچنا لازم ہے۔ اسی لئے علماء نے عبد النبی وغیرہ نام رکھنے سے منع کیا ہے۔ لیکن عبد اللہ وغیرہ پس ان میں غیر مشروع کا ابہام نہیں اور اسی طرح یا علی کہننا جب کہ اس سے مقصود ندانے پروردگار ہو کوئی نزاع نہیں۔

اقوال یہ جواب سخت عجب عجائب ہے۔ یہساوک ہز لابل یساوی ہز لال۔

او لا اس تمام کلام مخلل النظام کا معنی ہی سرے سے پادر ہوا ہے منوع ایہام ہے نہ مجرد احتمال ولو ضعیفا بعیداً۔ ایہام و احتمال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایہام میں تبادر درکار ہے۔ ذہن اس معنی منوع کی طرف سبقت کرے نہ یہ کہ شقوق تحلیله عقلیہ میں کوئی شق معنی منوع کی بھی نکل سکے۔ تلخیص میں ہے۔

الایہام ان یطلق لفظ له معنیان قریب و بعيد و براد بالبعد

”ایہام یہ ہے کہ ایک لفظ بولا جائے جس کے دو معنی ہوں قریب اور بعید اور مراد بعید معنی ہو۔“

علامہ سید شریف قدس سرہ الشریف کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں۔

الایہام و يقال له التخييل ايضا وهو ان يذكر لفظ له معنیان قریب و غریب فإذا سمع الانسان سبق الى فهمه القریب و مراد المتكلم الغریب و اكثر المتشابهات من هذا الجنس و منه قوله تعالى والسموات مطويت بيمنه ”ایہام کو تخييل بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی لفظ ذکر کیا جائے جس کے دو معانی ہوں۔ ایک قریب الفہم، ایک بعید عن الفہم پس جس وقت انسان اس لفظ کو سنے اس کے فہم کی طرف قریب معنی سبقت کر لے اور مراد متكلم کی معنی بعید ہو اور اکثر متشابهات اسی جنس سے ہیں۔ اور اسی قسم سے ہے فرمان اللہ تعالیٰ کا اور آسمان لپیٹھے ہوئے ہیں اس کے داہنے ہاتھ میں۔“

مُجْرِد احتمال اگر موجب منع ہو تو عالم میں کم کوئی کلام منع و طعن سے خالی رہے گا۔ زید آ گیا اٹھا بیٹھا۔ عمر و نے کھایا پیا کھانا۔ مجیب صاحب نے سوال دیکھا، جواب لکھا وغیرہ وغیرہ سب افعال اختیار یہ کی اسناد دو معنی کو متحمل۔ ایک یہ کہ زید و عمر و مجیب نے اپنی قدرت ذاتیہ مستقلہ تامہ سے یہ افعال کئے۔ دوسرا قدرت عطا سیہ ناقصہ قاصرہ سے۔ اول قطعاً شرک ہے۔ لہذا ان اطلاقات سے احتراز لازم ہو جائے گا۔ اور یہ بد اہتا قطعاً اجماعاً باطل ہے۔ فاضل مجیب نے بھی عمر بھرا پنے محاورات روزانہ میں ایسے ایہماں شرک برتنے اور ان کی تصانیف میں ہزار در ہزار ایسے شرک بالا ایہام بھرے ہوں گے۔

جانے دیجئے! نماز میں و تعالیٰ جد ک تو شاید آپ بھی پڑھتے ہوں گے۔ جد کے دوسرا مشہور معروف بلکہ مشہور تر معنی یہاں کیسے صریح شد یہ کفر ہیں۔ عجب کہ اتنے بڑے کفر کا ایہام جان کر اسے حرام نہ مانا تو بات وہی ہے کہ ایہام میں تبادر و سبقت و اقربیت درکار ہے اور وہی منوع ہے، نہ مجرد احتمال۔ یہ فائدہ واجب الحفظ ہے کہ آج کل بہت جہلا ایہام و احتمال میں فرق نہ کر کے ورط غلط میں پڑتے ہیں۔

ثانیاً ایسی ہی جکتہ تراشیاں ہیں تو صرف ہدایت علی پر کیوں الزام رکھیے۔ مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے نام پاک علی کو اس سے سخت ترشیح کہئے۔ وہاں تو چار احتمالوں سے ایک میں تو آپ کو شرک نظر آیا تھا، یہاں برابر کامعااملہ نصفانصف کا حصہ ہے۔ علی کے دو معنی

www.alahazrat.net
ہیں۔ علوٰۃٰتی کہ بالذات للذات متعالی عن الاضافات ہو۔ دوسرا اضافی کہ خلق کیلئے ہے۔ اول کا اثبات قطعاً شرک تو علی ہی ایہام شرک میں ہدایت علی سے دوناً ثہرے گا۔ ولا یقول به جاہل فضلاً عن فاضل۔

ثانیاً ایک علی ہی کیا جس قدر اسماے مشترکہ فی اللفظ بین الماقن والخلوق ہیں جیسے رشید و حمید و جمیل و جلیل و کریم و علیم و رحیم و حلیم وغیرہ۔ سب کا اطلاق عباد پر ویسا ہی ایہام شرک ہو گا جو ہدایت علی کے ایہام سے دوچند رہے گا۔ حالانکہ خود حضرت عزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں کسی کو دونام اپنے اسمائے حسنی سے عطا فرمائے اور حضور پنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے طیبہ میں تو سائٹھ سے زیادہ آئے کما فصلہ العالماء فی المواهب وغیرہ ہا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانام پاک حاشر بتایا۔ صحابہ و تابعین و ائمہ دین میں کتنے اکابر کا نام مالک تھا۔ ان کے ایہاموں کو کہئے۔ درجتاً وغیرہ معتمدات میں تصریح کی کہ ایسے نام جائز ہیں اور عباد کے حق میں دوسرے معنی مراد لئے جائیں گے نہ وہ جو حضرت حق کیلئے۔ جاز التسمیہ بعلی و رشید وغیرہ هما من الاسماء المشترکة و یراد فی حقنا غیر ما یراد فی حق اللہ تعالیٰ۔ کیوں نہیں کہتے کہ ایسے نام بوجہ اشتراک ناجائز ہیں کہ دوسرے معنی شرک کا احتمال باقی ہے۔

ولا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظيم

رابعہ سائل نے اپنی جہالت سے صرف عبد اللہ میں شرک سے سوال کیا تھا۔ حضرت مجیب نے اپنی بیانات سے وغیرہ بھی بڑھادیا کہ اپنے نام نامی کو ایہام شرک سے بچالیں مگر جناب کی ولیل سلامت ہے تو اس ایہام سے سلامت بخیر ہے۔

عبد الحجی میں دو جزوں کے دو دو معنی۔ ایک عبد مقابل الله و دوم مقابل آقا۔ قال اللہ تعالیٰ۔

وانکحوا لا يامی منکم والصلحین من عبادکم واماکم

دیکھو حق سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے غلاموں کو ہمارا عبد فرمایا۔ یونہی ایک جی اسہم الہی کہ حیات ذاتیہ از لیہ ابدیہ واجب سے مشمرا و دوسرا من و تو زید عمر و سب پر صادق۔ جس سے یہ آیتہ کریمہ تخریج الحی من الممیت وغیرہ ہا مظہر۔ اب اگر عبد بمعنی اول اور جی بمعنی دوم لیجئے قطعاً شرک ہے۔ وہی چار صورتیں ہیں اور وہی ایک صورت پر شرک موجود۔ پھر عبد الحجی ایہام شرک سے کیونکر محفوظ؟ اس سے بھی احتراز لازم تھا۔

بعینیہ یہی تقریر مولوی عبد الحکیم صاحب کے نام میں جاری ہو گی۔ ملاحظہ ہو کہ تحقیق و تدقیق کہاں تک پہنچی؟ نسال اللہ السلامہ فقیر کے نزدیک ظاہر آیہ پھر کتی ہوئی برہان حضرت مجیب کو جناب سائل کے فیض سے پہنچی۔ سائل نے ذکر کی مجیب نے بغور کے قبول کر لی۔ ورنہ ان کا ذہن شاید ایسی ولیل ذلیل علیل کلیل کی طرف ہرگز نہ جاتا۔ جس سے خود ان کا نام نامی بھی عادم الجواز و لازم الاحتراز قرار پاتا۔

www.alahazrat.net خامساً یا علی کو فرمایا جاتا ہے کہ جب مقصود نہ ای معمود تو نزاع مفقود۔ جی کیا وجہ یہاں بھی صاف دوسرا احتمال موجود۔ اپنا قصد نہ ہونا ایہام و احتمال کانا کافی کب ہو سکتا ہے ایہام تو کہتے ہی وہاں جہاں وہ معنی موہم مراد متكلّم نہ ہوں۔ تلمیح و تعریفات کی عبارتیں ابھی سن چکے۔ اور اگر قصد پر مدار و اعتماد ہے تو ہدایت علی پر کیا ایراد ہے؟ وہاں کب معنی شرک مقصود مراد ہے۔

سادساً علی پر الف لام لانا کب ایسے عالمگیر ایہام شرک سے نجات دے گا۔ علی علام پر لام نہ آتا ہی صفتہ پر تو قطعاً آسکتا ہے اور یقیناً صفات مشترک کے سے ہے تو احتمال اب بھی قائم اور احتراز لازم بلکہ سراجیہ و تاتار خانیہ و مخ الغفار وغیرہ ہا سے تو ظاہر کہ اعلیٰ بالام نام رکھنا بھی روایہ۔ رد المحتار میں ہے۔

فی التاتار خانیہ عن السراجیہ التسمیۃ باسم یوجد فی کتاب اللہ تعالیٰ کالعلیٰ والکبیر والرشید والبدیع
جائزة الخ و مثله فی المسخ عنها و ظاهره الجواز و لو معرفة بال

”تاتار خانیہ اور سراجیہ میں ہے نام رکھنا ساتھ اس نام جو کتاب اللہ میں پائے جاتے ہیں جیسے علی، کبیر، رشید، بدیع جائز ہیں الخ۔ اور اس کے مثل مسخ میں سراجیہ سے نقل کیا اور ظاہرہ اس کا جواز ہے اگرچہ معرف بالف لام ہی ہو۔“
سابعاً جب گفتگو احتمال پر چل رہی ہے تو معنین الصالی المطلوب و اراءت طریق میں تفرقہ بالطل۔ ایصال و ارائت و معنی خلق و تسبب پر مشتمل بمعنی خلق دونوں شخص بحضرت احادیث ہیں۔ کیا ارائت بمعنی خلق رویت غیر سے ممکن ہے اور بمعنی تسبب دونوں غیر کے لئے حاصل ہیں؟ کیا انبیاء سے ایصال بمعنی سیست فی الوصول نہیں ہوتا۔ فطاح التفرقة و راح الشفشه ہاں یوں کہتے کہ ادھر علی مشترک ادھر ہدایت خلق و تسبب دونوں میں مستعمل یوں چار احتمال ہوئے۔ مگر اب یہ مصیبت پیش آئے گی کہ جس طرح ہدایت بمعنی خلق غیر خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ بمعنی محض تسبب حضرت عزت جل جلالہ کی طرف نسبت نہیں پاسکتی۔ ورنہ معاذ اللہ اصل خالق و معطی دوسرا مٹھرہ گا، اور اللہ عز وجل صرف سبب و واسطہ وسیلہ، اس کا پایہ شرک سے بھی اونچا جائے گا کہ وہاں تو تسویہ تھا یہاں اللہ سبحانہ پر تفصیل دنیا قرار پائے گا۔ علی پر لام لا کراول کا علاج کر لیا اس دوم کا کہ اس سے بھی سخت تر ہے علاج کدھر سے آئے گا؟ اب ایک نیا لام گھڑ کر ہدایت پر داخل کیجئے کہ وہ معنی خلق میں متین ہو جائے اور احتمال تسبب اٹھ کر ایہام شک و بدتر از شرک را نہ پائے۔

ثامناً ایک ہدایت کیا جتنے افعال مشترکہ الاطلاق ہیں سب میں اسی آفت کا سامنا ہو گا جیسے احسان و انعام، اذلال و اکرام، تعلیم و افہام، تعذیب و ایلام، عطا و منع، اضرار و نفع، قہر و قتل، نصب و عزل وغیرہ ہا کہ مخلوق کی طرف نسبت کیجئے تو معنی خلق موہم شرک اور خالق کی طرف تو معنی تسبب مشترک فر بہر حال مفر کدھر اگر کہنے خالق عز وجل کی طرف نسبت ہی دلیل کی کافی ہے کہ معنی خلق مراد ہیں۔ ہم کہیں گے مخلوق کی جانب اضافت ہی برہان و افی ہے کہ معنی تسبب مقصود ہیں۔ ولہذا علمائے کرام نے تصریح فرمائی کہ

امثال ابنت الربيع البقل و حکم علی الدهر میں ذائل کا موحد ہونا ہی قرینہ شافی ہے کہ اسناد مجاز عقلی ہے۔

تاسعاً آپ نے (با آنکہ اسمائے الہیہ تو قیفیہ ہیں اور خصوصاً آپ بہت جگہ صرف نہ وارد ہونے نہ منقول ہونے کو جھٹ ممانعت جانتے ہیں) حق سچانہ کا نیا نام مصوب ایجاد فرمایا ہر جواب کی ابتداء ہو المصوب سے ہوتی ہے یہ کب احتمال شفیع سے خالی ہے۔ تصویب جس طرح تھیک بتانے کو کہتے ہیں یونہی سر جھکانے کو اور مثلاً جو سر جھکائے بیٹھا ہوا سے مصوب اور دونوں معنی حقیقی ہیں تو آپ کے طور پر اس کلمہ میں ایہام تجسم ہے اور تجسم کفر و ضلال عظیم ہے۔

عاشرًا جب مولیٰ علیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی طرف اضافت ہدایت کا اشتباہ امر منوع کا اشتباہ اور موجب لزوم احتراز ہے تو بالقصد اس جناب ہدایت مآب کی طرف اضافت ہدایت کس درجه سخت منوع و مفترض الاحتراز ہوگی۔ یہاں مولیٰ علیٰ کو ہادی کہنا گرام ہو گیا۔ حالانکہ یہ احادیث صریحہ واجماع جبیع ائمہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے۔ شاید یہ غذر کیجئے کہ ہدایت بمعنی خلق کا اشتباہ موجب منع تھا۔ اس معنی پر اضافت قصد یہ ضرور گرام بلکہ ضلال تام ہے نہ بمعنی تسبیب کہ جائز و معمول اہل اسلام ہے مگر یہ وہی عذر معمولی ہے جس کا رد گزر چکا۔ کیا جب مولیٰ علیٰ کی طرف اضافت کا اصلًا قصد ہی نہ ہواں وقت تو بوجہ اشتراک معنی مولیٰ علیٰ کی جانب ہدایت بمعنی خلق کی اضافت کا اشتباہ ہوتا ہے اور جب بالقصد خود حضرت مولیٰ علیٰ ہی کی طرف اضافت مراد ہو تو اب وہ اشتراک معنی جاتا رہتا اور اشتباہ نہیں پاتا۔ اگر مانع اشتباہ مخلوق کا اس معنی کے لئے صالح نہ ہونا ہے تو صورت عدم قصد میں کیوں مانع نہیں۔ اور اگر باوصف عدم صلوح اشتباہ قائم رہتا ہے تو صورت قصد میں کیوں واقع نہیں۔

حادی عشر نہ صرف امیر المؤمنین علیٰ بلکہ انبیائے کرام و رسول عظام و خود حضور پر نور سید الانام علیہ وآلہ وسلم افضل الاصولات و السلام کی طرف اضافت ہدایت اصلًا روانہ رہے گی کہ بوجہ احتمال معنی دوم ایہام شرک ہے۔ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہنا بھی گرام ہو گیا۔ اور قرآن عظیم و صحاح احادیث واجماع امت بلکہ ضروریات دین کے خلاف ہے۔

ثانی عشر خود جناب مجیب نے اپنے فتاویٰ جلد سوم صفحہ ۸۶ میں اس لزوم احتراز کا رد صریح فرمادیا۔ ادعائے ایہام کا فیصلہ یوں دیا۔ فرماتے ہیں۔

سوال عبدالنبي یا مانند آن نام نہادن درست ست یا نہ؟

جواب اگر اعتقاد ایں معنی ست کہ ایں کس کہ عبدالنبي نام دارد

بنده نبی ست عین شرک است۔ و اگر عبد بمعنی غلام مملوک ست آنهم خلاف واقع است۔ و اگر مجازاً عبد بمعنی مطیع و منقاد گرفته شود مضائقہ ندارد۔ لیکن خلاف اول است۔ روی مسلم عن ابی

هر بیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا یقولن احد کم عبدی و امتی۔
کلکم عباد اللہ کل نساء کم اماء اللہ ولکن لیقل غلامی و جاریتی فتائی و فتائی۔ انتہی۔

اقوال قطع نظر اس کے کہ یہ جواب بھی بوجوہ مخدوش ہے۔ اولاد عبد و بندہ میں سوائے اختلاف زبان کے کوئی فرق نہیں ایک درسرے کا پورا ترجمہ ہے۔ عبد و بندہ دونوں عربی و عجمی۔ دونوں زبانوں میں اللہ و خدا، مولیٰ و آقا دونوں کے مقابل یوں جاتے ہیں تو عبد بمعنی بندہ کو مطلقاً عین شرک کہہ دینا ایسا ہی ہے کہ کوئی کہدے عین سے مراد عین ہے تو غلط ہے اور چشمہ مقصود ہو تو صحیح۔

حضرت مولوی قدس سرہ المحتوى شریف میں حدیث شرائے بلاں رضی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہ انہیں خرید لیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمیں شریک نہ کیا۔ اس پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی۔

گفت ما دو بندگان کوئے تو!

کر دوش آزاد ہم بروئے تو!

لا جرم جو تفصیل عبد میں ہے وہی بندہ میں۔

ثانیاً عبد بمعنی بندہ بمعنی مملوک میں یہ تفرقہ کہ اول شرک اور ثانی خلاف واقع ہے۔ محض بے اصل و ضائع ہے مملوک بھی ملک ذاتی حقیقی و ملک عطائی مجازی دونوں کو مستعمل اور اول میں قطعاً شرک حاصل اور بندہ بھی مقابل خدا و خواجہ دونوں مستعمل اور ثانی سے یقیناً شرک زائل۔

ثالثاً آپ نے تو عبد بمعنی مملوک کو خلاف واقع یعنی کذب پھر اکر اس ارادہ کو شرک سے اتار کر گناہ مانا مگر ائمہ دین و اولیائے معتمدین و علمائے مستندین قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم اجمعین اس اعتقاد کو کمال ایمان مانتے اور اس سے خالی کو حلاوت ایمان سے بے بہرہ جانتے ہیں حضرت امام اجل عارف باللہ سیدی سہل بن عبد اللہ تستری رضی اللہ عنہ پھر امام اجل قاضی عیاض شفاسُریف پھر امام احمد قسطلانی مواہب لدنی شریف یہ نقل اور تذکیرہ کیا۔ پھر علامہ شہاب الدین خفاجی مصری شیم الریاض پھر علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی شرح مواہب میں شرح اتفیر افرماتے ہیں۔

من لم ير ولاية الرسول عليه في جميع احواله ولم ير نفسه في ملكه لا يذوق حلاوة سنته
جو ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اوالی اور اپنے آپ کو حضور کا مملوک نہ جانے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت سے اصلاً خبردار

رابعاً مولانا عبدالعزیز صاحب تحفہ اثنا عشریہ میں نقل فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ زبور شریف میں فرماتا ہے۔

یا احمد فاضت الرحمة علی شفتیک من اجل ذلک ابارک علیک فتقلد السیف فان بھاء ک و
حمدک الغالب (الی قوله الامم یخیرون تحک کتاب حق جاء اللہ به من الیمن والتقدیس من جبل
فاران او املاک الارض من تحمید احمد و تقدیسه و ملک الارض و رقاب الامم۔

اے احمد تیرے لبوں پر رحمت نے جوش مارا میں اس لئے تجھے برکت دیتا ہوں۔ تو اپنی تواریخ مائل کر کہ تیری چمک اور تیری تعریف
ہی غالب ہے۔ سب اتنیں تیرے قدموں میں گریں گی۔ پچھی کتاب اللہ لا یا برکت و پاکی کے ساتھ مکہ کے پہاڑ سے۔ بھرگئی زمین
احمد کی حمد اور اس کی پاکی بولنے سے۔ احمد مالک ہوا ساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا (صلی اللہ علیہ وسلم)
کیا زبور پاک کے ارشاد کو بھی معاذ اللہ خلاف واقع کہا جائے گا۔

خامساً امام احمد مسنده میں بطريق ابی عشر البراء ثنی صدقۃ بن طیسلة ثنی معن بن ثعلبة المازنی والحسی بعد
ثانی الاعشی المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد اللہ بن احمد زوائد السند میں بطريق عوف بن کہمہس بن الحسن
عن صدقۃ بن طیسلة۔ الخ اور امام جعفر طحاوی شرح معانی الآثار میں بطريق ابی عشر المذکور نحو روایۃ احمد
سندا و متنا۔ ابن خیثہ ابن شاذین بہذا الطريق و بغیرہ۔ اور بغوی و ابن السکن و ابن ابی عاصم بطريق الجنید بن امین بن
ذرورة بن نصلة ابن طریف بن بھصل الحرما مازی عن ابیه عن جدہ نصلة حضرت آشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی
کہ خدمت اقدس حضور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بعض اقارب کی ایک فریاد لے کر حاضر ہوئے اور اپنی منظوم عرضی مسامح
قدیسہ پر عرض کی جس کی ابتداء اس مصرع سے تھی۔

یاماںک الناس و دیان العرب ”اے تمام آدمیوں کے مالک اور اے عرب کے جزا اوسزادینے والے۔“
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیک ان کی فریاد سن کر رفع شکایت فرمادی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کا مالک کہنا آپ کے گمان میں معاذ اللہ کذب تھا تمام آدمیوں کا مالک بتانا۔ یا مالک الناس کہہ کر
حضور کو ندا کرنا عیاذ اللہ سنکھوں مہا سنکھوں کذب کا مجموعہ ہوگا۔ حالانکہ یہ حدیث جلیل شہادت دے رہی ہے کہ صحابی نے حضور کو
مالک تمام بشر کہا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول و مقرر رکھا۔

سادساً بات یہ ہے کہ آپ کے خیال شریف میں مالک و مملوک کے یہی معنی تھے کہ زید عمر و کوتا نے کے کچھ ٹکلوں یا چاندی
کے چند ٹکڑوں پر خریدے۔ جبھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالکیت کو خلاف واقع فرمادیا۔ حالانکہ یہ مالکیت سخت پوچ لچر، محض
بے وقعت بے قدر ہے کہ جان در کنار گوشت پوست پر بھی پوری نہیں۔ پچھی کامل مالکیت وہ ہے کہ جان و جسم سب کو محيط اور جن و

بشرط کو شامل ہے، یعنی اولی بالنصرت ہونا کہ اس کے حضور کسی کو اپنی جان کا بھی اصلاً اختیار نہ ہو۔ یہ مالکیت حق صادقة محیط شاطئ تامہ کاملہ حضور پر نور مالک الناس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخلافت کبریاء عز و علام تمام جہان پر حاصل ہے۔ قال اللہ تعالیٰ۔
”نبی زیادہ مالک و مختار ہے تمام اہل ایمان کا خود ان کی جانوں سے۔“

النبي اولی بالمؤمنين من انفسهم

وقال اللہ تبارک و تعالیٰ

ما كان لمؤمن ولا مومنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من بعض الله و

رسوله فقد ضل ضلالا مبينا

نہیں پہنچتا کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کو جب حکم کر دیں اللہ و رسول کسی بات کا کہ انہیں کچھ اختیار رہے اپنی جانوں کا اور جو حکم نہ مانے اللہ و رسول کا تو وہ صریح گمراہ ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

انا اولی بالمؤمنين من انفسهم. رواه احمد والبخاری و مسلم والنمسائی و ابن ماجہ عن ابی هریرۃ رضی

الله تعالیٰ عنه

اگر یہ معنی مالکیت جناب مجیب کے خیال میں ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مالکیت کو خلاف واقع نہ جانتے اور خود اپنی جان اور سارے جہان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک مانتے۔ اور اس سے زائد مرتبہ حق حقائق ہے۔ جس کے سننے کو گوش شنوں بھجنے کو دل بینادر کار ہے۔

وما اوتیتم من العلم الاقليلا
وفوق كل ذي علم عليم

ولا يلقها الا الذين صبروا ولا يلقها الا ذو حظ عظيم

سابعاً حدیث مسلم مغض بمحل مذکور ہوئی۔ حدیث میں تعلیم تواضع و نقی تکبیر اور آقاوں کو ارشاد ہے کہ اپنے غلاموں کو عبد نہ کہو۔ نہ یہ کہ غلام بھی اپنے کو مولیٰ کا عبد یاد و سرے ان کو ان کے عبید نہ کہیں۔ یہ ہے قرآن کہ ہمارے غلاموں کو ہمارا عبد فرمرا ہے۔ آیت عنقریب گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (رواہ احمد)

”مسلمان پر اپنے عبد اور اپنے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں۔“

والسنة عن ابی هریرۃ رضی الله تعالیٰ عنه

فقہ کا محاورہ عامہ و ائمہ صدر اول سے آج تک مستمر ہے۔

خود مولوی مجیب صاحب اپنے رسالہ نفع المفتقی مسائل متعلقہ جمعہ میں فرماتے ہیں۔

ان اذن المولی عبده لها یتخیر۔ وہیں ہے۔ وللمولی منع عبده۔

عجب ہے کہ زید و عمرو بلکہ کسی کافر و مشرک کے غلام کو اس کا عبد کہنے پر حدیث وارد نہ ہو اور رسول اللہ کے غلاموں کو ان کا عباد کہنے پر مخترض ہو۔

اور سنئے تو سہی! امام ابو حذیفہ اسحاق بن بشیر فتوح الشام اور حسن بن بشران اپنے فوائد میں ابن شہاب زہری وغیرہ ائمہ تابعین سے راوی کہ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں برمنبر فرمایا۔

قد کنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکنت عبده و خادمه

”میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا۔ تو میں حضور کا عبده حضور کا خدمتی تھا۔“

نیزان بن بشران امامی اور ابو الحمد و هقان جزء حدیثی اور ابن عساکر تاریخ دمشق اور لالکائی کتاب السنۃ میں افضل تابعین سیدنا سعید بن الحسیب بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی جب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ منبراً طہر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا۔ حمد و درود کے بعد کہا۔

ایہا الناس، انی قد علمت انکم کتنم تونسون منی شدة و غلظة ذلک انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنت عبده و خادمه

”لوگو! میں جانتا ہوں کہ تم مجھ میں سختی و درشتی پاتے تھے اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں حضور کا عبده حضور کا بندہ اور حضور کا خدمت گا ر تھا۔“ (الحدیث)

اب تو ظاہر ہوا کہ حدیث مسلم کو اس محل سے اصلاً تعلق نہیں۔ ذرا وہابی صاحب بھی اتنا سن رکھیں کہ یہ حدیث نقیس جس میں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ کہہ رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجمع عام زیر منبر حاضر ہے۔ سب سنتے اور قبول کر رہے ہیں۔

جناب شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے بھی ازالۃ الخطا میں بحوالہ ابو حذیفہ و کتاب مستطاب الریاض الفضلہ فی مناقب العشراۃ میں استناداً ذکر کی اور مقرر رکھی۔ امیر المؤمنین کو جس طرح بجم ترویج تراویح معاذ اللہ گمراہ بدعتی لکھ دیا یہاں عیاذ باللہ مشرک کہہ دیجئے۔ اور آپ کے اصول مذہب نامہذب پر ضرور کہنا پڑے گا۔ مگر صاحبو ذرا سوچ سمجھ کر شاہ ولی اللہ صاحب کا دامن بھی اسی پھر کے تلے دبا ہے۔

یوں نظر دوڑے نہ برقچی تان کر
اپنا بیگانہ ذرا پچان کر!

ولاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم

خیر! بات دور پہنچی۔ لفاظ عبد و بنده کی تحقیق نام و تفصیل احکام فقیر کی کتاب مجری معظم شرح اسیر اعظم میں ملاحظہ ہو۔ یہاں یہ گذارش کرنی ہے کہ مولوی مجیب صاحب کے اس فتویٰ نے اس ادعائے ایہام کا کام تمام کر دیا۔
عبدالنبی میں جناب کے نزدیک تین احتمال تھے۔ ایک شرک ایک کذب ایک صحیح۔ تو ناجائز احتمال جائز سے دونے تھے۔ بایں ہم اس کا حکم صرف خلاف اولی فرمایا جو ممانعت و کراہت تحریکی درکنار کراہت تنزیہ کو بھی مستلزم نہیں۔ ہر مستحب کا ترک خلاف اولی ہے مگر مطلقاً مکروہ تنزیہ نہیں۔ رد المحتار بحر الرائق سے ہے۔

لایلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة ذلا بدلها من دليل خاص
اسی میں تحریر الاصول سے ہے۔

خلاف اولی مالیس فيه صیغة نہی کترک صلوة الضحى بخلاف المکروه تنزیہا
توہدايت علی جس میں چار احتمالوں سے صرف ایک باطل ہے۔ یعنی جائز احتمالات ناجائز سے تگنے ہیں۔ یہ کس طرح خلاف اولی
درکنار مکروہ تنزیہ سے بھی گزر کر لازم الاحتراز ہو گیا؟ اربعہ کے حساب سے تو اسے خلاف اولی کا نصف بھی نہ ہونا چاہئے تھا۔
بلکہ ۸/۳ یعنی مباح مساوی الطرفین سے اگر سیر بھر دوری پر خلاف اولی کہا جائے توہدايت علی میں صرف ذریثہ پاؤ ہو گی۔
اس لئے کہ ۳/۲:۱:۲:۱ مجهول۔ پس ۲/۳=۳/۸

خیر! یہ حساب تو ایک طیب قلوب ناظرین تھا۔ حق یہ ہے کہ ہدايت علی میں اصلاً کوئی وجہ کراہت تنزیہ کی بھی نہیں لزوم احتراز تو
بڑی چیز ہے۔ اور فی الواقع ہر ادنی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ عبدالنبی سے ہدايت علی کو نسبت ہی کیا ہے۔ جب وہ صرف خلاف
اولی ہے تو اسے خلاف اولی کہنا بھی محض بے جا ہے۔ کلام یہاں کثیر ہے اور جس قدر مذکور ہوا طالب حق کیلئے کافی۔

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل۔ والله سبحانه و تعالى اعلم

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرح متنیں اس مسئلہ میں کہ موسم سرما میں زوال کس وقت ہوتا ہے اور موسم گرم میں کس وقت؟ اگر موسم سرما میں زوال بحساب قمری بارہ بجے سے پہلے چوخن نماز ظہر پڑھے گا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب مدل ارقام فرمائیے۔ بینوا توجروا

الجواب وہوپ گھری سے تو ایسا ہی ہے کہ زوال ہمیشہ ٹھیک بارہ بجے ہوتا ہے۔ نہ کبھی پیشتر ہوتا ہے نہ بعد۔ مگر گھریوں کے اعتبار سے وقت بلدی صرف چار دن ۱۱۶ اپریل، ۱۵ جون، ۲۵ ستمبر، ۲۵ دسمبر کے سوا کسی دن ٹھیک بارہ بجے زوال نہیں ہوتا۔ گھریوں کی چال روزانہ ایک سی ہوتی ہے اور آفتاب کی چال کبھی ایک سی نہیں۔ اون ۳ جولائی سے ہیض ۳ جنوری تک تیز ہوتی ہے کہ ہر روز پہلے دن سے زیادہ قوس قطع کرتا ہے۔ اور روزانہ زیادت بھی یکساں نہیں بلکہ آئندہ زیادت پہلی زیادت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہیض پر اگر غایت سرعت پر پہنچتا ہے۔ پھر ہیض ۳ جنوری سے اون ۳ جولائی تک چال ست ہوتی ہے کہ ہر روز پہلے دن سے کم قوس قطع کرتا ہے اور روزانہ کی بھی ایک سی نہیں بلکہ ہر آئندہ کی پہلی کی سے کم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اون پر پہنچ کر نہایت درنگ ہو جاتا ہے۔ پھر وہی دورہ آغاز پاتا ہے اور اس سبب سے کہ ہندوستان میں عام طور پر ریلوے وقت رانج ہے۔ یہ چاروں بھی برابری کے باقی نے رہے۔ بلکہ بلا دشوقی میں بقدر تقاضہ طولیں تمام تعدادیلات ناقص ہوں گی۔ اور بلا دشوقی میں تمامی تعدادیلات اسی قدر بڑھ جائیں گی۔ مثلاً بریلی کے لئے اگر خاص شہر کا وقت دیا جائے تو بلاشبہ یہی چاروں برابری کے ہوں گے۔ جن میں زوال جیسی گھری اور وہوپ گھری دونوں سے ٹھیک ۱۲ بجے ہوگا۔ اور اگر ریلوے سے وقت دیا جائے تو بقدر تقاضہ طولیں ۱۲ سینکنڈ ۱۲ منٹ ہے تعامی تعدادیلات زائد ہو جائیں گی۔ تواب چار دن برابری کی جن میں دونوں وقتوں سے زوال ٹھیک ۱۲ بجے تھا ۱۲ سینکنڈ ۱۲ منٹ پر ہوگا۔ علی ہذا القیاس

تعیم نفع کیلئے ایک جدول نصف النہار حقيقی و شروع وقت ظہر بریلی بحذف سینکنڈ کہ ایک زمانہ کے لئے کار آمد ہو ریلوے وقت سے دیا جاتا ہے کہ اس وقت وہی رانج ہے ان وقتوں سے اگر ۱۲ منٹ کم کر دیں تو اصلی وقت بریلی کا ہوگا۔

رامپور و دیگر بلا دشوقی کے لئے بھی یہ نقشہ بہ حسب زیادتی یا کمی وقت بریلی متوافق نقشہ جات رمضان المبارک معدل کر لینے سے ایک زمانہ تک کے لئے ابتدائی وقت ظہر معلوم کرنے کا ایک اعلیٰ درجہ کا آله ہوگا۔ نماز ظہر میں گھریوں کے ۱۲ بجے کا کچھ اعتبار نہیں اگر نصف النہار کے بعد نماز پڑھی، ہو گئی اور قبل پڑھنے سے نماز نہ ہوگی۔ ۲۸ نومبر کو بریلی میں ریلوے نائم سے ٹھیک ۱۲ بجے نصف النہار ہے۔ پھر بعد کو ہوا کرے گا یہاں تک کہ کیم فروری کو ۱۲ ات ۲۶ منٹ پر ہو کر گھٹنا شروع ہوگا، حتیٰ کہ ۸ مئی کو ۱۲ ات ۸ منٹ پر ہوگا۔ پھر بڑھنا شروع ہوگا یہاں تک ۱۵ جولائی کو ۱۲ ات ۱۸ پر ہوگا۔ پھر گھٹتے گھٹتے اکتوبر کو ٹھیک ۱۲ بجے ہو کر گھٹتا یہاں تک ۱۲ بجے سے پہلے وقت ہو

جائے گا۔ یہاں تک ۱۲۲ اکتوبر کو مستہب نقصان اسی ۵۶ منٹ پر آ کر بڑھنا شروع ہوگا اور ۲۸ نومبر کو پھر ہیک ۱۲ بجے زوال ہوگا۔ تو یہ اکتوبر سے ۲۸ نومبر تک جس شخص نے ٹھیک ۱۲ بجے یا کچھ پہلے مگر نصف النہار کے بعد نماز پڑھ لی نماز ہو گئی۔ ہاں جس نے وقت سے پہلے پڑھی اس کی نہ ہوئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۴۳ ارجمندی الاول ۱۳۳۷ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے اور ایمان کامل کیسے ہوتا ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہربات میں سچا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا ایمان ہے، جو اس کا مقرر ہے اسے مسلمان جانیں گے جب کہ ان کے کسی قول یا فعل یا حال اللہ کا انکار یا تکذیب یا توہین نہ پائی جائے۔ اور جس کے دل میں اللہ و رسول جل و علا صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ تمام علاقوں پر غالب ہو، اللہ و رسول کے محبوں سے محبت رکھے۔ اگرچہ اپنے دشمن ہوں اور اللہ کیلئے دے۔ جو کچھ روکے اللہ کیلئے روکے۔ اس کا ایمان کامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من احباب لله و ابعض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الایمان۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

علمائے اہل سنت و جماعت کی خدمت میں گذارش ہے کہ آج کل اکثر سنی فرقہ باطلہ کی صحبت میں رہ کر چند مسائل سے بدعقیدہ ہو گئے ہیں۔ اگرچہ حضور کی تصانیف کثیرہ میں ہر قسم کے مسائل موجود ہیں۔ لیکن احقر کی نگاہ سے یہ مسئلہ نہیں گذر اس واسطے اس کی زیادہ ضرورت ہوئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نسبت زید کہتا ہے کہ وہ لاپچی شخص تھے۔ یعنی نے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اکرم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ سے لڑ کران کی خلافت لے لی اور ہزار ہاصحابہ کو شہید کیا۔

بکر کہتا ہے کہ میں ان کو خطاط پر جانتا ہوں کہ ان کو امیر نہ کہتا چاہئے۔

عمرو کا یہ قول ہے کہ وہ اجلہ صحابہ میں سے ہیں ان کی توہین کرنا گمراہی ہے۔

ایک اور شخص جو اپنے آپ کو سی المذہب کہتا ہے اور کچھ علم بھی رکھتا ہے۔ (حق یہ ہے کہ وہ زاجاہل ہے) وہ کہتا ہے کہ سب صحابہ اور خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ و حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ (نعوذ باللہ منها) لاپچی تھے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل مبارک رکھی ہوئی تھی اور وہ اپنے اپنے خلیفہ ہونے کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔

ان چاروں شخصوں کی نسبت کیا حکم ہے؟ اور ان کو سنت جماعت کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور حضور کا اس مسئلہ میں کیا مذہب ہے؟

جواب مدلل عام فہم ارجام فرمائیے۔ بینوا توجروا

الجواب اللہ عزوجل نے سورۃ حدیید نے صحابہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسمیں فرمائیں۔ ایک وہ کہ قبل فتح مکہ مشرف بامسلم ہوئے اور راہ خدا میں مال خرچ کیا جہاد کیا۔ دوسرا وہ کہ بعد۔ پھر فرمایا۔ وکلا وعد اللہ الحسنی دونوں فریق سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان فرماتا ہے۔ اولنک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتہت انفسهم خلدون ۝ لا يحزن لهم الفزع الاكبير و تتلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ۝ وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ اس کی بھنک تک نہ سینیں گے اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ قیامت کی وہ سب سے بڑی گھری انہیں غمگین نہ کرے گی فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ عزوجل بتایا ہے تو جو کسی صحابی پر طمعہ کرے اللہ واحد قہار کو جھلاتا ہے۔ اور ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کاذبہ ہیں ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں۔ رب عزوجل نے اسی آیت میں اس کا منہ بھی بند فرمایا کہ دونوں فریق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرمادیا واللہ بماتعملون خبیر ”اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرو گے۔“ بایں ہمہ میں تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا۔ اس کے بعد جو کوئی بکے اپنا سر کھائے خود جہنم میں جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح

شفائے امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں۔

ومن یکون یطعن فی معاویة فذاک من کلاب الهاویة

”جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرے وہ جہنمی کتوں سے ایک کتا ہے۔“

ان چار شخصوں میں عمر و کا قول سچا ہے زید و بکر جھوٹے ہیں اور چوتھا شخص سب سے بدتر خبیث رافضی تمہاری ہے۔ امام کا مقرر کرنا ہر ہم سے زیادہ ہم ہے۔ تمام انتظام دین و دنیا اسی سے متعلق ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ انور اگر قیامت تک رکھا رہتا اصلًا کوئی خلل متحمل نہ تھا۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجسام طاہرہ بگڑے نہیں۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد انتقال ایک سال کھڑے رہے سال بھر بعد فتن ہوئے۔ جنازہ مبارکہ جھرہ ام المؤمنین صدیقہ میں تھا جہاں اب مزار انور ہے اس سے باہر لے جانا نہ تھا۔ چھوٹا سا جھرہ اور تمام صحابہ کو اس نماز اقدس سے مشرف ہونا ایک ایک جماعت آتی اور پڑھتی اور باہر جاتی۔ دوسری آتی۔ یوں یہ سلسلہ تیسرا دن ختم ہوا۔ اگر تین برس میں ختم ہوتا تو جنازہ اقدس تین برس یوں ہی رہنا تھا کہ اس وجہ سے تاخیر فتن اقدس ضروری تھا۔ ابلیس کے نزدیک یہ اگر لائق کے سبب تھا تو سب سے سخت تر الزام امیر المؤمنین مولی علی پر ہے یہ تو لاچھی نہ تھے۔ اور کفن فتن کا کام گھروالوں سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ یہ کیوں تین دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ انہوں نے رسول کا یہ کام کیا ہوتا۔ پچھلی خدمت بجالائے ہوتے تو معلوم ہوا کہ اعتراض ملعون ہے اور جنازہ انوار کا جلد فتن نہ کرنا ہی مصلحت دینی تھا جس پر علی مرتضی اور سب صحابہ نے اجماع کیا۔

جسم بداندیش کہ برکنده باد عیوب نماید بہ نگاہش ہنز!

یہ خبشا خذلہم اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو ایذا نہیں دیتے بلکہ اللہ و رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے۔

من اذاهم فقد اذانی ومن فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك الله ان يأخذه

جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار کرے۔ والعياذ بالله تعالیٰ۔ والله تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

کیا حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ زید کچھ روپیہ دھقانوں کو فصل سے پہلے اس شرط پر تقسیم کر دیتا ہے کہ جس وقت روپیہ دیا اس وقت گندم خواہ کوئی غلہ ۱۰ اما / کا تھا اور اس نے ۱۲ اما / فی روپیہ نرخ ٹھہرا کر روپے دے دیا۔ اب فصل پر خواہ کوئی نرخ کم و بیش ۱۲ اما / سے فروخت ہو لیکن وہ فی روپیہ ۱۲ اما / کے حساب نہ لے لے گا۔ بکر کہتا ہے کہ تو نے سود لیا۔ کیونکہ نرخ سے زیادہ ٹھہرالیا۔

الجواب یہ صورت بیع سلم کی ہے۔ اگر اس کے سب شرائط پائے گئے تو بلاشبہ جائز ہے اور کسی طرح سود نہیں اگرچہ دس سیر کی جگہ دس من قرار دے۔ ہاں اگر جرہ ہے تو حرام ہے اگر دس سیر کی جگہ سیر ہی بھر لے۔ لقوله تعالیٰ الا ان تكون تجارة عن تراض منکم اور اگر بیع رضامندی سے ہوئی مگر شرط رہ گئی۔ مثلاً غلہ کی جنس یا نوع یا صفت یا وزن کی تعین نہ ہوئی یا وہ چیز ٹھہری جو اس وقت سے وقت وعدہ تک ہر وقت بازار میں موجود نہ رہے گی۔ یا معیار مجہول رکھی یا اسی جا سے میں روپیہ تمام و کمال ادا نہ کر دیا تو ضرور حرام و سود ہے اگرچہ نرخ بازار سے کچھ زیادہ نہ ٹھہرا۔ اور اگر خریدم و فروختم کا مضمون درمیان نہ آیا۔ مثلاً اس نے کہا کہ ۱۲ سیر لیں گے۔ اس نے کہا دوں گا۔ تو یہ نہ سود نہ حرام نہ اس کے لئے کسی شرط کی حاجت نہ اسے اس پر مطالہ پہنچے۔ اس کی خوشی پر ہے چاہے دے یا نہ دے کہ یہ سرے سے بیع ہی نہ ہوئی نہ ا وعدہ ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کیا حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ زید نے بکر سے دس روپیہ اس شرط پر مانگے کہ میں فصل پر گندم ۱۵/۱ ماکے دوں گا۔ اور خالد نے بکر سے دس روپیہ اس شرط پر مانگے کہ جو نرخ بازار فصل پر ہو گا اسی نرخ سے دس روپیہ کے گندم دوں گا۔ بکرنے کہا کہ میرے پاس اس وقت روپیہ نہیں ہے۔ تم دونوں شخص دس روپیہ کے گندم جو اس وقت دس سیر کا نرخ ہے لے جاؤ۔ دونوں شخص رضامندی سے گندم حسب شرائط بالا لے گئے اور فروخت کے لئے دس روپیہ اپنے صرف میں لائے۔ اب زید کو فصل پر فی روپیہ ۱۵ من گندم حسب وعدہ اور خالد کو فی روپیہ ۱۲/۱ ماگندم نرخ بازار دینا ہوئے۔ یہ بیع جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر بکر خالد کو حسب شرائط بالا یعنی فصل پر نرخ ہو گا دوں گا دیتا تو جائز ہوتا یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب یہ صورت حرام قطعی اور خالص سود ہے۔ ڈھائی من گھبیوں جو اس نے دیئے ان سے زیادہ لینا حرام حرام۔ اور اگر روپیہ دیتا تو اس میں دو صورتیں تھیں۔ روپیہ قرض دیتا اور یہ شرط ٹھہرایتا کہ ادا کے وقت گھبیوں دینا تو شرط باطل تھی زید و خالد پر صرف اتنا روپیہ ادا کرنا تھا۔ اور اگر گھبیوں کی خریداری کرتا اور روپیہ پیشگی دیتا تو یہ صورت بیع سلم کی تھی۔ اگر اس کے شرائط پر آئے جاتے جائز ہوتی ورنہ حرام۔ **والله تعالیٰ اعلم**

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ شہر میں بہت جگہ نماز جمعہ ہوتی ہے تو ہر وہ مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہے جامع مسجد ہے اور جامع مسجد ہے اور جامع مسجد کی فضیلت رکھتی ہے یا وہی ایک مسجد جو متصل قلعہ کے جامع مسجد مشہور ہے؟ اور شہر میں بہت جگہ جمعہ ہونے میں کچھ ممانعت تو نہیں ہے؟ اور جمعہ میں کم از کم کتنے آدمی ہوں جو جمعہ ہو سکے؟ اور زیادہ ثواب شہر کی کس کس مسجد میں ہے؟
بینوا توجروا

الجواب جامع مسجد وہی ایک ہے۔ شہر میں متعدد جگہ جمعہ ہونے کی ممانعت نہیں۔ جمعہ کے لئے کم سے کم امام کے سواتین آدمی ہوں۔ مگر جمعہ و عیدین کا امام ہر شخص نہیں ہو سکتا۔ وہی ہو گا جو سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب یا اس کا ماذون اور ان میں کوئی نہ ہو تو بضرورت جسے عام نمازی امام جمعہ مقرر کر لیں۔ جمعہ کا زیادہ ثواب جامع مسجد میں ہے۔ مگر جب کہ دوسری مسجد کا امام اعلم و افضل ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ایک کی تعریف کیا ہے؟ اور وہ کون کون لفظ ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اور پھر اس کو اپنے نکاح میں کیسے لاسکتا ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب طلاق تین قسم ہے۔ رجعی، باسن، مغاظہ۔ رجعی وہ جس سے عورت فی الحال نکاح سے نہیں نکلتی۔ عدت کے اندر اگر شوہر رجعت کر لے وہ بدستور اس کی زوجہ رہے گی۔ ہاں عدت گذر جائے اور رجعت نہ کرے تو اس وقت نکاح سے نکلے گی پھر بھی برضائے خود نکاح کر سکتے ہیں۔

باسن وہ جس سے عورت فی الفور نکاح سے نکل جاتی ہے۔ ہاں برضائے خود نکاح کر سکتے ہیں۔ عدت کے اندر خواہ بعد۔ مغاظہ وہ کہ عورت فوراً نکاح سے نکل بھی گئی اور اب کبھی ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک حلال نہ ہو۔ یہ تین طلاقوں سے ہوتا ہے۔ خواہ ایک ساتھ دی ہوں خواہ برسوں کے فاصلہ سے۔

رجعی دی ہوں یا باسن۔ بعض رجعی بعض باسن طلاق کے سینکڑوں لفظ ہیں۔ بعض سے رجعی پڑتی ہے بعض سے باسن بعض سے مغاظہ۔ رجعی و باسن کے تقریباً دو لفظ ہم نے اپنے فتاوے میں ذکر کئے۔ والله تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و خلیفہ مسلمین مسائل ذکر میں۔

(۱) صاحب نصاب راجح وقت کے لئے روپیہ سے ہو سکتا ہے؟

(۲) کیا نوٹ اور روپیہ کا ایک ہی حکم ہے؟ نوٹ تو چاندی سونے سے عیحدہ کاغذ ہے۔

(۳) فیصدی زکوٰۃ کا کیا دینا ہوتا ہے؟

(۴) جس شخص کے پاس روپیہ نہ ہوا اور سونے چاندی کا زیور روز مرہ پہنچ کا بقدر نصاب ہو گیا اس کو اس زیور میں زکوٰۃ دینا ہوگی؟

(۵) جس روپیہ میں زکوٰۃ پہلے سال دے دی اور باقی روپیہ بدستور دوسرے سال تک رکھا رہا۔ اب دوسرے سال آنے پر کیا پھر اسی روپیہ میں سے جس میں پہلے سال زکوٰۃ دے چکا ہے دینا ہوگی؟

(۶) فطرہ کے گندم بریلی کے وزن سے فی کس کتنے ہونے چاہیں؟

(۷) جو شخص روزہ رکھے یا نے رکھے بالغ یا نابالغ سب کا فطرہ دینا واجب ہے؟

(۸) جو شخص بوجہ ضعیفی کے روزہ نہ رکھ سکے اس کو فی روزہ کتنی خوراک مسکین کو دینا ہوگی؟ وہ مسکین روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار؟

بینوا توجروا

الجواب

(۱) نصاب انگریزی راجح روپوں سے چھپن روپے ہے۔

(۲) نوٹ اور روپیہ کا ایک حکم نہیں ہو سکتا۔ روپیہ چاندی ہے کہ پیدائشی ثمن ہے اور نوٹ کاغذ ہے اصطلاحی ثمن ہے۔ تجب تک چلے اس کا حکم پیسوں کے مثل ہے کہ وہ بھی اصطلاحی ثمن ہے۔

(۳) زکوٰۃ ہر نصاب و نصیب پر چالیسوں حصہ ہے اور نہ ہب صاحین پر نہایت آسان حساب اور فقراء کے لئے نافع یہ ہے کہ فیصدی ڈھائی روپے۔

(۴) بے شک۔

(۵) دس برس رکھا رہے ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی جب تک نصاب سے کم نہ رہ جائے۔ یہ اس لئے کہ جب پہلے سال کی زکوٰۃ نہ دی دوسرے سال اس قدر کامدیوں ہے تو اتنا کم کر کے باقی پر زکوٰۃ ہوگی۔ تیسرا سال اگلے دونوں برسوں کی زکوٰۃ اس پر دین ہے تو مجموع کم کر کے باقی پر ہوگی۔ یونہی اگلے سب برسوں کی زکوٰۃ ملا کر کے جو بچے اگر خود یا اس کے اور مال زکوٰۃ سے مل کر نصاب ہے تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں۔

(۶) اٹھنی بھراو پر پونے دو سیر۔

(۷) اپنا صدقہ واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کا اگرچہ ایک ہی دن کی ہو۔ اور بالغ اولاد یا زوجہ صاحب نصاب ہوں تو ان کا صدقہ ان پر ہے۔ نہ ہوں تو کسی پر نہیں۔ غرض اس سے کسی حال اس کا مطالبہ نہیں۔ ہاں ان کے اذن سے ان کی طرف سے دے دے تواحسان ہے۔

(۸) فی روزہ وہی اٹھنی بھراو پر پونے دو سیر گھیوں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۳۰ ۱۰ رمضان المبارک ۱۴۳۷ھ

کیا فرمان ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ آج کل عموماً بہت لوگ مساجد میں دینیوی باتیں کرتے بلکہ بعض بعض بے باک تو قہقہہ آپس میں دل گلی کرتے ہیں اور مسجد کا کوئی ادب نہیں سمجھتے کہ یہ خانہ خدا ہے ان کے واسطے کیا حکم ہے؟ اور مسجد میں باتیں کرنے کی نہمت اور خاموش رہنے کی بھلانی مع حدیث شریف بیان فرمائی جائے تاکہ ایسے لوگ عبرت حاصل کریں۔

الجواب مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو ایسا کھاتی ہے جیسا آگ لکڑی کو۔ اور مسجد میں ہنسنا قبر میں اندر ہیرے لاتا ہے۔ اس کی حدیثیں بارہ بیان ہوئیں مگر کون سنتا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کیا قول ہے علمائے حقانی کا مسئلہ ذیل میں کہ ناجائز روپیہ یعنی سود و شراب و رشوت وغیرہ اگر نیک کام، مسجد، مدرسہ، چاہ، نیاز، فاتحہ، عرس وغیرہ میں لگایا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ اور جو شخص اس مسجد میں نماز، مدرسہ میں علم اور چاہ کا پانی اور فاتحہ عرس کا کھانا کھائے تو جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر اسی روپیہ و خیرات کیا جائے اور امید و ثواب رکھی جائے تو کیا حکم ہے؟ ایسے روپیہ کو کسی شرعی حیلہ جائز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ حیلہ کیا ہے؟ بینوا توجووا۔

الجواب حرام روپیہ کسی کام میں لگانا جائز نہیں، نیک کام ہوں یا اور سوا اس کے کہ جس سے لیا اسے واپس دے۔ یا فقیروں پر تصدق کر دے بغیر اس کے کوئی حیلہ اس کے پاک کرنے کا نہیں۔ اسے خیرات کر کے جیسا پاک مال پر ثواب ملتا ہے اس کی امید رکھتے تو سخت حرام ہے بلکہ فقہاء نے کفر لکھا ہے۔ ہاں جو شرع نے حکم دیا کہ حقدار نہ ملے تو فقیروں پر تصدق کر دے۔ اس حکم کو مانا تو اس پر ثواب کی امید کر سکتا ہے۔ مسجد مدرسہ وغیرہ میں بعضیہ روپیہ نہیں لگایا جاتا بلکہ اس سے اشیاء خریدتے ہیں۔ خریداری میں اگر یہ نہ ہوا ہو کہ حرام دکھا کر کہا کہ اس کے بد لے فلاں چیز دے۔ اس نے دی اس نے قیمت میں زر حرام دیا تو جو چیز خریدیں وہ خبیث نہیں ہوتی۔ اس صورت میں فاتحہ عرس کا کھانا جائز ہے اور اکثر یہی صورت ہوتی ہے۔ مسجد میں نماز، مدرسہ میں تحصیل علم جائز ہے۔ اور کنویں کا پانی توہ طرح جائز ہے اگرچہ اس میں وہ نادر صورت پائی گئی ہو کہ خباثت آئی تو اینہوں مسالہ میں نہ کمزین کے پانی میں۔ والله تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذفب احمد رضا

کیا حکم ہے اہل شریعت کا کہ ملازمت چنگی کی جائز ہے یا نہیں؟ اور حاکم وقت کو اس کا روپیہ تحصیل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ روپیہ رعایا سے تحصیل کرنا رعایا ہی کی آسائش کے واسطے روشنی سڑک وغیرہ کے کام میں لگادیتے ہیں۔ اور چنگی کا محصول چرانا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا

الجواب نیک نیت سے۔ چنگی کی نوکری تحصیل وصول کی جائز ہے۔ نص علیہ فی الدر وغیره من الاسفار. الخ چوری یعنی دوسرے کا مال معصوم بے اس کے اذن کے اس سے چھپا کرنا حق لینا کسی کو بھی جائز نہیں۔ اور جائز نوکری میں نوکر کا خلاف قرارداد کرنا غدر ہے اور غدر مطلقاً حرام ہے۔ نیز کسی قانونی جرم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو بلا ذلت و بلا کیلئے پیش کرنا شرعاً بھی جرم ہے۔ کما استفید من القرآن المجید والحدیث رہا کہ حکام وقت کو اس کا تحصیلنا شرعاً کیسا ہے؟ نہ حکام کو اس بحث ہے نہ سائل حاکم۔ والله تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذہب احمد رضا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کفار کس قسم کے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی تعریف کیا ہے؟ اور صحبت کون سے کفار کی سب سے زیادہ مضر ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب اللہ عزوجل ہر قسم کے کفر و کفار سے بچائے کافر و قسم ہے۔ اصلی و مرتد۔ اصلی وہ جو شروع سے کافر اور کلمہ اسلام کا منکر ہے۔ یہ دو قسم ہے۔ مجاہر و منافق۔ مجاہر وہ کہ علی الاعلان کلمہ کا منکر ہو۔ اور منافق وہ کہ بظاہر کلمہ پڑھتا اور دل میں منکر ہو۔ یہ قسم حکم آخرت میں سب اقسام سے بدتر ہے۔

ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار

”بے شک منافقین سب سے نیچے طبقہ وزن خ میں ہیں۔“

کافر مجاہر چار قسم ہے۔ اول، دہریہ کہ خدا ہی کا منکر ہے۔ دوسرم، مشرک کہ اللہ عزوجل کے سوا اور کو بھی معبدو اور واجب الوجود جانتا ہے جیسے ہندو بت پرست کہ بتوں کو واجب الوجود تو نہیں مگر معبدو مانتے ہیں۔ اور آریہ خود پرست کہ روح و مادہ کو معبدو تو نہیں مگر قدیم و غیر مخلوق جانتے ہیں دونوں مشرک ہیں۔ اور آریوں کو موحد سمجھنا سخت باطل۔ سوم، جبوی آتش پرست۔ چہارم، کتابی یہود و نصاریٰ کہ دہریہ نہ ہوں۔ ان میں اول تین قسم کے ذبیحہ مردار اور ان کی عورتوں سے نکاح باطل۔ اور قسم چہارم کی عورت سے نکاح ہو جائے گا اگرچہ ممنوع و گناہ ہو۔ کافر مرتد وہ کہ کلمہ گو ہو کر کفر کرے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مجاہر و منافق۔ مرتد مجاہر ہو کہ پہلے مسلمان تھا پھر علانية اسلام سے پھر گیا۔ کلمہ اسلام کا منکر ہو گیا چاہے دہریہ ہو جائے یا مشرک یا جبوی کتابی کچھ بھی ہو۔ مرتد منافق وہ کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے اور پھر اللہ عزوجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی توہین کرتا ہے یا ضروریات دین میں کسی شے کا منکر ہے۔ جیسے آج کل کے وہابی، رافضی، قادیانی، نیجیری، چکڑالوی، جھوٹے صوفی کہ شریعت پر ہنستے ہیں۔ حکم دنیا میں سب سے بدتر مرتد ہے۔ اس سے جزی نہیں لیا جا سکتا اس کا نکاح کسی مسلم، کافر، مرتد اس کے ہم مذہب ہوں یا مخالف مذہب، غرض انسان حیوان کسی سے نہیں ہو سکتا جس سے ہو گا محض زنا ہوگا، مرتد مرد ہو یا عورت۔

مرتدوں میں سب سے بدتر مرتد منافق ہے۔ یہی ہے وہ کہ اس کی صحبت ہزار کافر کی صحبت سے زیادہ مضر ہے کہ یہ مسلمان بن کر کفر سکھاتا ہے۔ خصوصاً وہابیہ دیوبندیہ کہ اپنے آپ کو خاص اہل سنت و جماعت کہتے حنفی بنخنثی، چشتی نقشبندی بنخنثی، نمازو زوہہ ہمارا سا کرتے، ہماری کتابیں پڑھتے پڑھاتے اور اللہ رسول کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ سب سے بدتر زہر قاتل ہیں۔ ہوشیار، خبردار، مسلمانو! اپنادین و ایمان بچائے ہوئے۔ فاللہ خیر حافظا و هو ارحم الراحمین۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

کیا حکم ہے علمائے اہل سنت و جماعت کا اس مسئلہ میں مسجد کے اندر سوال کرنا اپنے یا غیر کے واسطے اور سائل کو دینا اس کے یا غیر کے واسطے جائز ہے یا نہیں؟

الجواب یہ جو مسجد میں غل مچاتے رہتے ہیں، نمازوں کی نمازوں میں خلل ڈالتے ہیں لوگوں کی گرد نیں پھلا نگتے ہوئے صفوں میں پھرتے ہیں مطلقاً حرام ہے۔ اپنے لئے مانگیں خواہ دوسرے کے لئے حدیث میں ہے۔

جنبو مساجد کم صبيانکم و مجانينكم ورفع اصواتكم

”مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں اور بلنداً وازوں سے بچاؤ۔“

رواه ابن ماجہ عن وائلہ بن الاسقع و عبدالرزاق عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث میں ہے۔

من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم

”جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گرد نیں پھلانگیں اس نے جہنم تک پہنچنے کا اپنے لئے پل بنایا۔“

(رواه احمد الترمذی و ابن ماجہ عن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

اور اگر یہ باتیں نہ ہوں جب بھی اپنے لئے مسجد میں بھیک مانگنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من سمع رجلا يشد في المسجد ضالة فليقل لا اداها الله اليك فان المساجد لم تبين لهذا

”جو کسی کو مسجد میں اپنی کی چیز دریافت کرتے سنے اس سے کہہ اللہ تجھے وہ چیز نہ ملائے مسجدیں اس لئے نہ بنیں۔“

(رواه احمد و مسلم و ابن ماجہ عن ابی هریثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

جب اتنی بات منع ہے تو بھیک مانگنی خصوصاً کثر بلا ضرورت بطور پیشہ کہ خود ہی حرام ہے یہ کیونکر جائز ہو سکتی ہے۔ والہذا ائمہ دین نے فرمایا ہے جو مسجد کے سائل کو ایک پیشہ دے وہ ستر پیسے را خدا میں اور دے کہ اس پیسے کے گناہ کا کفارہ ہوں۔ اور دوسرے محتاج کے لئے امداد کوہنا یا کسی دینی کام کے لئے چندہ کرنا جس میں نہ غل نہ شور، نہ گردن پھلانگنا، نہ کسی کی نمازوں میں خلل یہ بلاشبہ جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ اور بے سوال کسی محتاج کو دینا بہت خوب اور مولیٰ علیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے ثابت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عَنْهُ بِمَحْمُدِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ آج کل لوگ خیرات اس قسم کی کرتے ہیں کہ چھتوں اور کٹھوں پر سے روٹیاں اور نکڑے روٹیوں کے اول سکٹ وغیرہ پھینکتے ہیں ورصدہ آدمی ان کو لوٹتے ہیں۔ ایک کے اوپر ایک گرتا ہے اور بعض کے چوتھا لگ جاتی ہے اور وہ روٹیاں زمین میں گر کر پاؤں سے روندی جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات غلیظ نالیوں میں بھی گرتی ہیں۔ اور رزق کی سخت بے ادبی ہوتی ہے اور یہی حال شربت کا ہے کہ اوپر سے آبخوروں میں وہ لوٹ چکا جاتی ہے کہ آدھا آبخورہ بھی شربت کا نہیں رہتا اور تمام شربت گر کر زمین پر بہتا ہے۔ ایسی خیرات اور لنگر جائز ہے؟ یا بعید رزق کے بے ادبی کے گناہ ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب یہ خیرات نہیں، شرور وسیمات ہے۔ نہ ارادہ وجہ اللہ کی یہ صورت ہے بلکہ ناموری اور دکھاوے کی، اور وہ حرام ہے۔ اور رزق کی بے ادبی اور شربت کا ضائع کرنا گناہ ہیں وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ۔

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

کیا فرماتے ہیں علمائے حقانی اس مسئلہ میں کہ جس مسجد میں درخت امروہ، بیلہ، گلاب وغیرہ ہوا اور بوجہ تعمیر ہونے مجرہ غسل خانہ کے ان درختوں کو کاٹا جائے۔ تو کوئی شخص ان درختوں کو کھوکر اپنے مکان میں لگا سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرے یہ کہ پیال یا لڑسی موسم سرما میں جو مسجدوں میں ڈالی جاتی ہے اور بعد گذر جانے موسم سرما کے اس نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ تو جو شخص اس پیال یا لڑسی یا چٹائی کہنس جو قابل پھینک دینے کے ہواں کو اپنے صرف میں مثل پانی گرم کرنے کے لاسکتا ہے یا نہیں؟ تیرے یہ کہ منڈر یا فصیل مسجد جس پر وضو کرتے ہیں یا اذان دیتے ہیں وہ مسجد کے حکم میں ہے؟ کیا مثل مسجد کے بات وغیرہ کرنے کی وہاں بھی ممانعت ہوگی؟ بینوا تو جروا

الجواب ان درختوں کو مسجد کے واجبی و مناسب قیمت پر مول لے کر لگا سکتا ہے۔ پیال یا چٹائی بیکار شدہ کہ پھینک دی جائے لے کر صرف کر سکتا ہے فصیل مسجد بعض باتوں میں حکم مسجد میں ہے۔ مختلف بلا ضرورت اس پر جا سکتا ہے۔ اس پر تھوکنے یا ناک صاف کرنے یا کوئی نجاست ڈالنے کی اجازت نہیں۔ بیہودہ باتیں قبیلے سے ہنسنا وہاں بھی نہ چاہئے۔ اور بعض باتوں میں حکم مسجد میں نہیں۔ اس پر اذان دیں گے، اس پر بیٹھ کر وضو کر سکتے ہیں۔ جب تک مسجد میں جگہ باقی ہواں پر نماز فرض میں مسجد کا ثواب نہیں۔ دنیا کی جائز قلیل بات جس میں نہ چپکش ہو، نہ کسی نمازی یا ذاکر کی ایذا، اس میں حرج نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

كتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بعض لوگ بعد فن کر دینے میت کے حافظ قرآن کو اس کی قبر پر واسطے تلاوت سوم تک یا کچھ کم و بیش بخاتے ہیں اور وہ حافظ اپنی اجرت لیتے ہیں۔ پس اس طرح کی اجرت دے کر قبروں پر پڑھوانا چاہئے یا نہیں؟ بینوا تو جروا

الجواب تلاوت قرآن عظیم پر اجرت لینا حرام ہے اور حرام پر استحقاق عذاب ہے نہ کہ ثواب پہنچے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حافظ کو اتنے دنوں کے لئے معین داموں پر کام کاج کے لئے نو کر کھلیں۔ پھر اس سے کہیں ایک کام یہ کرو کہ اتنی دیر قبر پر پڑھ آیا کرو۔ یہ جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبہ

عبدالمذبب احمد رضا

عنی عنه بِمُحَمَّدِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بعض لوگ بیمار آدمی کے ساتھ کھاتے ہوئے پر ہیز کرتے ہیں اور اس مریض کا کپڑا نہیں پہنتے اور کہتے ہیں بیماری ایک آدمی کی دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے۔ آیا حدیث میں اس کی کوئی ممانعت آئی ہے یا نہیں؟

الجواب یہ جھوٹ ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو اڑ کر لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عددي بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ اور فرماتے ہیں فمن اعدی الاول اس دوسرے کو تو پہلے کی اڑ کر لگی اس پہلے کو کس کی لگی۔ جس مریض کے بدن سے نجاست نکلتی اور کپڑوں کو لگتی ہو۔ جیسے تر خارش یا معاذ اللہ جذام میں اس کا کپڑا نہ پہنا جائے۔ نہ اس خیال سے کہ بیماری لگ جائے گی نجاست سے احتیاط کے لئے۔ اور جہاں یہ نہ ہو کپڑا پہننے میں حرج نہیں۔ یونہی ساتھ کھانے میں، جب کہ ایمان قوی ہو کہ اگر معاذ اللہ تقدیر الہی اسے وہی مرض ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ ساتھ کھانے یا اس کا کپڑا پہننے سے ہو گیا۔ ایسا نہ کرتا تو نہ ہوتا۔ اور اگر ضعیف الایمان ہے تو وہ ان مرض والوں سے بچے جن کی نسبت متعدد ہونا عوام کے ذہن میں جما ہوا ہے جیسے جذام وال العیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ بچتا اس خیال سے نہ ہو کہ بیماری لگ جائے گی۔ کہ یہ تو مردود و باطل ہے۔ بلکہ اس خیال سے کہ عیاذ باللہ اگر تقدیر الہی کچھ واقع ہوا تو ایمان ایسا قوی نہیں کہ شیطانی و سوسہ کی مدافعت کرے۔ اور جب مدافعت نہ ہو سکی تو فاسد عقیدہ میں بستا ہونا ہوگا۔ لہذا احتراز کرے۔ ایسوں کو حدیث میں ارشاد ہوا فرعون المجدوم کما تفر من الاسد ”جذام سے بھاگ جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

كتب

عبدالمذبب احمد رضا

عنی عنه بِمُحَمَّدِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

علمائے اہل سنت و جماعت کی خدمت میں گذارش ہے کہ ۱۱ ربیع الآخر ۱۴۲۸ھ کو میں مسجد اشیش جنکشن پر نماز ظہر پڑھنے گیا (کیونکہ اس چوکی پر میری تعیناتی تھی) مرزا صاحب امام مسجد نے بعد اذان ظہر صلوٰۃ کی۔ ایک صاحب محمد نبی احمد ساکن سنجل نے کہایہ جو آپ نے صلوٰۃ کی یہ بدعت ہے۔ بعد گفتگو کے وہ صاحب بہت تیز ہوئے اور کہا تمام شہروں میں گیا مگر یہ طریقہ جو آپ کے یہاں ہے نہیں دیکھا۔ مرزا صاحب نے کہا میں عالم نہیں ہوں جو آپ کو سمجھاؤں۔ اگر آپ اس مسئلہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ہمراہ شہر میں چلنے، وہاں کے عالم آپ کا اطمینان کر دیں گے۔ اس پر وہ راضی نہ ہوئے اور بدعت بدعت کرتے رہے اور کہا کہ کسی صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں یہ صلوٰۃ نہ تھی۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ اکثر شہروں میں مثل را مپور وغیرہ کے بعد نماز صلوٰۃ ہوتی ہیں اور ہمارے سردار رسول اکرام نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام سمجھنے کو آپ بدعت کہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں یہ مدرسہ و سرائے وغیرہ نہیں تھی ان کو بھی آپ بدعت کہتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ یہ بدعت مباح ہے میں نے کہا صلوٰۃ بدعت حسنہ ہے جس ثواب ہم اہل سنت ہی کی قسمت میں اللہ عزوجل نے لکھ دیا ہے اور منکر اس ثواب سے محروم ہیں۔ اب گذارش یہ ہے کہ صلوٰۃ کب سے جاری ہے؟ اور اس کی قدر تے تفصیل مع دلائل اور ایسا شخص جو ہمارے سردار معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام سمجھنے کو بدعت کہے گراہی ہے یا کیا؟ بینوا تو جروا

الجواب آپ ٹھیک جواب دیا اور جس امر کا اللہ عزوجل قرآن عظیم میں مطلق حکم دیتا ہوا ورخودا پنے ملائکہ کا فعل بتاتا ہوا سے بدعت کہہ کر منع کرنا نہیں وہابیوں کا کام ہے۔ اور وہابیہ گراہنہ ہوں گے تو ابھی بھی گراہنہ ہو گا کہ اس کی گراہی ان سے بلکی ہے۔ وہ کذب کو اپنے لئے بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی لئے اس نے الاعباد کو منہم المخلصین استثناء کر دیا تھا یہ اللہ عزوجل پر جھوٹ کی تہمت رکھتے ہیں۔ قاتلهم اللہ انی یوفکون صلوٰۃ بعد اذان ضرور مستحسن ہے۔ سائر ہے پانچ سو بر سے زائد ہوئے بلاد اسلام حریم شریفین ومصر و شام وغیرہ میں جاری ہے۔ درجتار میں ہے۔ والتسليم بعد الاذان حدث فی ربع الآخر ۷۸۱ سبع مائے واحدی و ثمانیں فی عشاء لیلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعد عشر سنین حدث فی الكل الا مغرب ثم فيها مرتین. وهو بدعة حسنة قول البدع امام سخاری ہے۔ والصوب انه بدعة حسنة یو جر فاعله۔ والله تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

کیا حکم ہے اہل شریعت کا کہ تمبا کو کھانا حرام ہے یا مکروہ؟ جو لوگ تمبا کو پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ اگر تمبا کو پان کھا کر تلاوت قرآن عظیم و دیگر وظائف درود شریف وغیرہ پڑھیں تو کیسا ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب بقدر ضرر و اختلال حواس کھانا حرام ہے۔ اور اس طرح کہ منه میں بوآ نے لگے بار کھا کے کلیوں سے خوب منه صاف کر دیں کہ بوآ نے نہ پائے تو خالص مباح ہے۔ بوکی حالت میں کوئی وظیفہ نہ چاہئے۔ منه اچھی طرح صاف کرنے کے بعد ہو۔ اور قرآن عظیم تو حالت بدبو میں پڑھنا اور بھی سخت ہے۔ ہاں جب بدبو نہ ہو تو درود شریف و دیگر وظائف اس حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ منه میں پان یا تمبا کو ہو اگرچہ بہتر صاف کر لینا ہے۔ لیکن قرآن عظیم کی تلاوت کے وقت ضرور منه بالکل صاف کر لیں۔ فرشتوں کو قرآن عظیم کا بہت شوق ہے اور عام ملائکہ کو تلاوت کی قدرت نہ دی گئی۔ جب مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے فرشتہ اس کے منه پر منه رکھ کر تلاوت کی لذت لیتا ہے۔ اس وقت اگر منه میں کھانے کی کسی چیز کا گاؤ ہوتا ہے فرشتہ کو ایذا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

طیبوا افواهکم بالسواك فان افواهکم طريق القرآن

”اپنے منه مسوک سے سترے کرو کہ تمہارے منه قرآن عزیز کارستہ ہیں۔“

رواه السنجری من الابانته بعض الصحابة رضى الله عنهم بسنده حسن

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اذا قام احدكم يصلى من الليل فليستك ان احدكم اذا قرأ في صلاته وضع ملک فاه على فيه ولا يخرج من فيه شيئا لادخل فم الملك. (رواه البيهقي في الشعب و تمام في فوائد و الضياء في المختار عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما وهو حديث صحيح

”جب تم میں کوئی تہجد کواٹھے مسوک کر لے کہ جونماز میں تلاوت کرتا ہے فرشتہ اس کے منه پر اپنا منه رکھتا ہے جو اس کے منه سے لکھتا ہے فرشتہ کے منه داخل ہوتا ہے۔“

دوسری حدیث میں ہے۔

لیس شئ اشد علی الملک من ربع الشمر ماقام عبد الی صلوة قط الا الشم فاه ملک ولا يخرج من فيه اية الا يدخل في في الملك

”فرشته پر کوئی چیز کھانے کی بو سے زیادہ سخت نہیں۔ جب کبھی مسلمان نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کا منہ اپنے میں لے لیتا ہے جو آیت اس کے منہ سے نکلتی ہے فرشتہ کے منہ میں داخل ہوتی ہے۔“

والله تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عُضُّ عَنْهُ بِمُحَمَّدِنَ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسئلہ ۴۱ / جمادی الاولی شریف ۱۳۳۸ھ

علمائے اہل سنت کی خدمت میں گذارش ہے مسلمان پڑوی کا کیا حق ہے؟ اگر کافر یا رافضی یا وہابی کسی مسلمان کے پڑوی ہوں تو ان کا بھی وہی حق ہو گا جو مسلمان کا ہے؟ بینوا توجروا

الجواب مسلمان پڑوی کے بہت حق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الله تعالیٰ عنہما بسنند صحيح

”جبریل مجھ سے پڑوی کے حق کی تاکید یہ بیان کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے ترکہ کا وارث کر دیں گے۔“ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

حق الجار علی جارہ ان مرض عدته و ان مات شیعته و ان استقرض ک اقرضته و ان اعورستہ و ان اصحابہ خیر ہناته و ان اصابتہ مصیبة عزیزہ ولا ترفع بناک فوق بنائه فتسد علیہ الریح ولا توذیہ بریح قدر ک الا ان تعزف له منها۔ (رواه الطبرانی فی الکبیر عن معاویہ بن حیدر القشیری رضی اللہ عنہ

ترجمہ

ہمارے کامہ سائے پر حق یہ ہے کہ (۱) یماری پڑے تو تو اس کے پوچھنے کو جائے اور (۲) مرے تو اس کے جنازہ کو جائے اور (۳) وہ تجوہ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے (۴) اور اس کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اسے چھپائے (۵) اور اسے کوئی

www.alahazrat.net بھلائی پنچ تو تو اے مبارکباد دے (۶) اور کوئی مصیبت پڑے تو اے دلا سادے (۷) اور اپنی دیوار اس کی دیوار سے اتی اوپنچی نہ کر کے اس کے مکان کی ہوار کے (۸) اور اپنی دیچھی کی خوشبو سے اسے ایذا نہ دے مگر یہ کہ اس کھانے میں سے اسے بھی حصہ دے (یعنی تو امیر ہے اور وہ غریب اور تیرے یہاں عمدہ کھانے پکتے ہیں، خوشبو اسے پنچے گی۔ وہ ان پر قادر نہیں اس سے ایذا اپائے گا۔ لہذا اس میں سے اسے بھی دے کہ وہ ایذا خوشی سے مبدل ہو جائے)۔

رافضی وہابی کا کوئی حق نہیں کہ وہ مرتد ہیں۔ نہ کسی کافر غیر ذمی کا اور یہاں کے سب کافر ایسے ہی ہیں۔ ان کے بارے میں صرف اتنا ہی ہے کہ ان کے غدر و بد عہدی جائز نہیں۔ **والله تعالیٰ اعلم**

كتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عُضُّ عَنْهُ بِمُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسئلہ ۴۲ / جمادی الاولی شریف ۱۳۳۸ھ

راہبران دین و مفتیان شرع متین کا کیا حکم ہے کہ نیاز فاتحہ میں کیا فرق ہے؟ اور نیاز فاتحہ دینے کا مستحب طریقہ۔ اور یہ کہ جس کی نیاز یا فاتحہ دلائی جائے اس کو ثواب کس طریقہ سے پہچائے؟ اور سوائے اس کے اور مسلمانوں کو کس طرح کہہ کر ثواب پہنچائے؟
بینوا توجروا

الجواب مسلمانوں کو دنیا سے جانے کے بعد جو ثواب قرآن مجید کا تنہایا کھانے وغیرہ کے ساتھ پہنچاتے ہیں عرف میں اسے فاتحہ کہتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اولیائے کرام کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں اسے تعظیماً نذر نیاز کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ و آیۃ الکرسی اور تین باریا گیا رہ بار سورہ اخلاص، اول آخر ۳-۳ یا زائد بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کرے کہ الہی! میرے اس پڑھنے (اور اگر کھانا کپڑا وغیرہ بھی ہوں تو ان کا نام بھی شامل کرے اور اس پڑھنے اور ان چیزوں کے دینے پر) جو ثواب مجھے عطا ہوا سے میرے عمل کے لاکن نہ دے، اپنے کرم کے لاکن عطا فرم۔ اور اسے میری طرف سے فلاں ولی اللہ مثلاً حضور پر نور سیدنا غوث اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذر پہنچا، اور ان کے آباء کرام اور مشائخ عظام واولاد امجاد و مریدین و حسین اور میرے ماں باپ اور فلاں اور فلاں اور سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روز قیامت تک جتنے مسلمان ہو گزرے یا موجود ہیں یا قیامت تک ہوں گے سب کو۔ **والله تعالیٰ اعلم**

كتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عُضُّ عَنْهُ بِمُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیا حکم ہے علمائے اہل سنت کا کہ خضاب کا لگانا جائز ہے یا نہیں۔ بعض علماء جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ بینوا تو جروا

الجواب سرخ یا زرد خضاب اچھا ہے اور زرد بہتر اور سیاہ خضاب کو حدیث میں فرمایا کافر کا خضاب ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کامنہ کا لا کرے گا۔ یہ حرام ہے جواز کا فتویٰ باطل و مردود ہے۔ ہمارا مفصل فتویٰ اس بارے مدت کا شائع ہو چکا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عُضُّ عَنْهُ بِمُحَمَّدِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رہبران دین و مفتیان شرع متنین کیا فرماتے ہیں کہ ذبیح راضی و وہابی اور قادریانی کا جائز ہے یا نہیں جب کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے؟ اور کافر اہل کتاب عیسائی یہودی کے ذبیح کا کیا حکم ہے جب کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں؟ اور مسلمان عورت بھی ذبح کر سکتی ہے یا نہیں جب کہ کوئی مردمکان میں نہ ہو؟ بینوا تو جروا۔

الجواب عورت کا ذبیح جائز ہے جب کہ ذبح صحیح طور پر کر سکے۔ یہودی کا ذبیحہ حلال ہے جب کہ نام الہی عزوجلالہ کے ذبح کرے۔ یونہی اگر کوئی واقعی نصرانی ہونہ نیچری دہریہ جیسے آج کل کے عام نصاریٰ ہیں۔ کہ نیچری کلمہ گو مدعا اسلام کا ذبیحہ تو مردار ہے نہ کہ مدعا نصرانیت کا راضی تیراںی، وہابی دیوبندی، وہابی غیر مقلد، قادریانی، چکڑالوی، نیچری، ان سب کے دینی محض نجس و مردار حرام قطعی ہیں۔ اگرچہ لاکھ بار نام الہی لیں اور کیسے ہی متقی پرہیز گار بنتے ہوں کہ یہ سب مرتدین ہیں۔ ولا ذبیحہ لمرتد۔ ہاں غیر تیراںی یعنی تفضیلہ کا ذبیحہ حلال ہے جب کہ ضروریات دین سے نہ کسی شے کا خود منکر ہونہ اس کے منکر راضی وغیرہ کو مسلمان جانتا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عُضُّ عَنْهُ بِمُحَمَّدِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیا حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ ایک شخص را مپوری نے کمترین سے کہا کہ تم اعلیٰ حضرت سے دریافت کرنا کہ میں نہ علماء کی زبانی سنائے کہ کافر کتابی سے نکاح جائز ہے اور رافضی تبرائی، قادریانی سے حرام بلکہ خالص زنا ہے۔ تو کیا رافضی، وہابی، قادریانی کافر کتابی سے بدتر ہیں؟ رافضی تو خلافے کرام کو تبرائی کر اور وہابی تو ہیں۔ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قادریانی دعویٰ نبوت سے کافر ہوئے۔ لیکن کلمہ گواور باقی افعال مثل نماز روزہ وغیرہ تو مسلمانوں کی طرح ہیں لیکن کافر کتابی تو سرے سے نہ حضور اکرم نبی معلم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نہ نماز روزہ اور سب ضروریات دین کے منکر ہیں۔ اگر رافضی، وہابی، قادریانی سے نکاح ناجائز ہے تو کافر کتابی سے بد درجہ اولیٰ ناجائز ہونا چاہئے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر مرد مسلمان ہو تو اس گمان پر رافضیہ، وہابیہ، قادریانیہ سے نکاح کرے کہ یہ میری محكوم رہے گی۔ میں سمجھا کہ جس طرح ہو سکے گا مسلمان کرلوں گا تو کیا حکم ہے؟ بیتوں اتو جروا۔

الجواب اگر مسئلہ ۳۲ کو دیکھتے اس کا جواب واضح ہو جاتا۔ احکام دنیا میں سب سے بدتر مرتد ہے اور مرتدوں میں سب سے خبیث تر مرتد منافق۔ رافضی، وہابی، قادریانی، نیچری، چکڑالوی کلمہ پڑھتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے، نماز وغیرہ افعال اسلام بظاہر بجالاتے، بلکہ وہابی وغیرہ قرآن و حدیث کا درس دیتے لیتے اور دیوبندی کتب فقہ کے ماننے میں بھی شریک ہوئے بلکہ چشتی، نقشبندی وغیرہ بن کر پیری مریدی کرتے اور علماء و مشائخ کی نقل اتارتے اور بایس ہمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کرتے یا ضروریات دین سے کسی شے کا انکار کہتے ہیں۔ ان کی اس کلمہ کوئی وادعائے اسلام اور افعال و اقوال میں مسلمانوں کی نقل اتارنے ہی نے ان کو انجث و اضر اور ہر کافر صلی یہودی، نصرانی، بت پرست، جموں سب سے بدتر کر دیا کہ یہ آ کر پٹئے، دیکھ کر لئے، واقف ہو کر اوندھے۔

قال اللہ تعالیٰ

ذلک بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ۵

یہ اس کا بدله ہے کہ وہ ایمان لا کر کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کردی گئی تواب ان کو اصل سمجھنہ رہی۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

- کیا فرماتے ہیں علمائے احتجاف اس مسئلہ میں کہ زید چند طریقہ سے صراحتی کرتا ہے۔
- روپیہ کا کل نامہ چاندی کا دیتا ہے۔
 - کل نامہ گلٹی کا۔
 - پورے سولہ آنے پیسے۔
 - چاندی گلٹی پیسے ملے ہوئے مگر سولہ آنے دیتا ہے۔
 - ہر چہار طریقہ مذکورہ بالا میں ایک پیسہ کم۔
 - اسی طریقہ سے نوٹ کا نامہ دیتا ہے۔ یا تو ہر طریقہ میں پورا نامہ، یا ہر ایک میں ایک ایک پیسہ کم۔
 - اور ۱۰۰ انلوں کے ۹۹ روپیہ بھی فروخت کرتا ہے اور خیریدنے والے خوشی سے لے جاتے ہیں۔ آیا یہ سب طریقے جائز؟ ہیں یا ناجائز؟ بینوا توجروا

الجواب دونوں طرف نری چاندی ہوتے دو باتیں فرض ہیں۔ دونوں کائنے کی تول ہموزن ہوں اور دونوں دست بدست اسی جلسہ میں ادا کی جائیں۔ باائع مشتری کو دے مشتری باائع کو۔ ان میں سے جو بات کم ہوگی حرام ہے۔ اور اگر ایک طرف روپیہ ہے اور دوسرا طرف نری چاندی نہیں، گلٹ یا پیسے یا نوٹ ہیں۔ یا روپیہ سے کم چاندی باقی پیسے یا گلٹ نوٹ۔ یا ایک طرف نوٹ ہے اور دوسرا طرف چاندی یا گلٹ یا پیسے یا نوٹ تو صرف ایک بات لازم ہے کہ ایک طرف کا قبضہ ہو جائے۔ اگر بیچ و شراؤ کی اور نہ باائع نے مشتری کو بیچ نہ مشتری نے باائع کو شمن تو حرام ہے اور ایک طرف کا قبضہ ہو جائے تو جائز۔ اگرچہ دوسرا طرف سے ابھی نہ ہو۔ اور اس صورت میں پیسے دو پیسے خواہ زائد کی کمی یا سو کا نوٹ ایک روپیہ، یا ایک روپیہ کا سور و پیہ کو بر ضامنی بیچنا سب جائز ہے۔ یہ سب صورتوں کا جواب ہو گیا۔ یہ احکام بیع میں ہیں۔ اگر روپیہ یا گلٹ یا پیسے یا نوٹ قرض دیئے اور یہ ٹھہرالیا کہ ایک پیسہ زائد لیا جائے گا تو حرام قطعی اور سود ہے۔ قال اللہ تعالیٰ واحل اللہ الیع و حرم الربوا۔ والله تعالیٰ اعلم

كتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

مسئلہ ۴۷ ۱۵/ رب المجب اه ۱۳۳۸

کیا حکم ہے علمائے اہل سنت و جماعت کا کہ دیپہات میں اکثر یہ رواج ہے کہ مسلمان بکرے کو ذبح کر کے چلا جاتا ہے۔ باقی گوشت پوست سب ہندو چک بنا کر فروخت کرتے ہیں۔ ایسا گوشت مسلمانوں کو کھانا چاہئے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب حرام ہے کافر کا یہ کہنا کہ یہ وہی بکرا ہے جو مسلمان نے ذبح کیا تھا مسموع نہیں اذلا قول لہ فی الدیانات۔ ہاں اگر وقت ذبح سے وقت خریداری تک مسلمان کی نگاہ سے غائب نہ ہوا ہو۔ کوئی نہ کوئی مسلمان جب سے اب تک اسے دیکھتا رہا ہو جس سے اس پر اطمینان ہے کہ یہ وہی جانور ہے جو مسلمان نے ذبح کیا تھا تو خریداری جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم
كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ پھممدن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۴۸ ۲۸/ رب المجب اه ۱۳۳۸

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ والدین کا بھی اولاد کے اوپر کچھ حق ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب والدین کا حق اولاد پر اتنا ہے کہ رب عز وجل نے اپنے حقوق عظیمہ کے ساتھ گناہ ہے:

ان اشکر لی ولوالدیک

”حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔“ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ پھممدن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۴۹ کیا حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ رافضیوں کی مجلس میں مسلمانوں کو جانا اور مرثیہ سننا، ان کی نیاز کی چیز لینا، خصوصاً آٹھویں محرم کہ جبکہ ان کے یہاں حاضری ہوتی ہے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ محرم میں بعض مسلمان ہرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور سیاہ کپڑوں کی بابت کیا حکم ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب جانا اور مرثیہ سننا حرام ہے۔ ان کی نیاز کی چیز نہ لی جائے۔ ان کی نیاز نیاز نہیں اور وہ غالباً نجاست سے خالی نہیں ہوتی۔ کم از کم ان کے ناپاک قلتین کا پانی ضرور ہوتا ہے اور وہ حاضری سخت ملعون ہے اور اس میں شرکت موجب لعنت۔ محرم میں سیاہ اور سبز کپڑے علامت سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ خصوصاً سیاہ کہ شاعر رافضیان لام ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم
کتبہ

عبدالمذفب احمد رضا

عُضُّ عَنْهُ بِمُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسئلہ ۵۰ ۱۱/ محرم الحرام ۱۳۳۸ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و خلیفہ مسلمین مسائل ذیل میں:

- ۱۔ بعض اہل سنت و جماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے اور نہ جھاڑو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بعد فتن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔
- ۲۔ ان دس دن میں کپڑے نہیں اتارتے۔
- ۳۔ ماہ محرم میں کوئی بیاہ شادی نہیں کرتے۔
- ۴۔ ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے۔۔۔ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بینوا توجرا

الجواب پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ اور چوتھی بات جہالت ہے۔ ہر مہینے میں ہر تاریخ ہرروٹی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذفب احمد رضا

عُضُّ عَنْهُ بِمُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین مفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی سید صاحب سر پر بال اس طرح رکھیں کہ وہ کاکل یا گیسو کہے جا سکیں۔ تو ایسے بال ان سید صاحب کو بڑھانا جائز ہیں یا نہیں؟ سنایا ہے کہ امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گیسو تھے جو شانوں پر لٹکتے تھے۔

الجواب شانوں تک گیسو جائز ہیں بلکہ سنت سے ثابت ہیں۔ اور شانوں سے نیچے بال کرنا عورتوں سے خاص اور مردوں کو حرام ہے۔ قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعن اللہ تعالیٰ المت شبہن بالنساء۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذہب احمد رضا

عُضُّ عَنْهُ بِمُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیا حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ امامت کس کس شخص کی جائز ہے اور کس کس کی ناجائز اور مکروہ؟ اور سب سے بہتر امامت کس شخص کی ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب قرأت غلط پڑھتا ہو جس سے معنی فاسد ہوں، یا وضو یا غسل صحیح نہ کرتا ہو، یا ضروریات دین سے کسی چیز کا منکر ہو، جیسے وہابی، رافضی، غیر مقلد، نیچری، قادریانی، چکڑالوی وغیرہ ہم۔ ان کے پیچھے نماز باطل محض ہے۔ اور جس کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلیہ کہ مولیٰ علی کو شیخین سے افضل بتاتے ہیں رضی اللہ عنہم یا تقسیقیہ کہ بعض صحابہ کرام مثل امیر معاویہ و عمر و بن عاص و ابو موسیٰ اشعری و مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم کو برآ کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بکراہت شدیدہ تحریمہ مکروہ ہے۔ کہ انہیں امام بنانا حرام، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ، اور جتنی پڑھی ہوں، سب کا پھیرنا واجب۔ اور انہیں کے قریب ہے فاسق معلن۔ مثلاً ڈاڑھی منڈا، یا خشناشی رکھنے والا، یا کتر و اکر حد شرع سے کم کرنے والا، یا کندھوں سے نیچے عورتوں کے سے بال رکھنے والا، خصوصاً وہ جو چوٹی گندھوائے اور اس میں موباف ڈالے، یا ریشمی کپڑا پہنے، یا مغرق ٹوپی، یا ساڑھے چار ماشہ سے زائد کی انگوٹھی یا کئی گنگ کی انگوٹھی یا ایک گنگ کی دو انگوٹھی اگر چہل کر ساڑھے چار ماشہ سے کم وزن کی ہوں یا سودخوار یا ناق و یکھنے والا۔ ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اور جو فاسق معلن نہیں، یا قرآن عظیم میں وہ غلطیاں کرتا ہے جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یا ناپینا یا جاہل یا غلام یا ولد الزنا یا خوبصورت امرد یا جذامی یا برص والا جس سے لوگ کراہت و نفرت کرتے ہوں اس قسم کے لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے کہ پڑھنی خلاف اولیٰ اور پڑھ لیں تو حرج نہیں۔ اگر یہی قسم اخیر کے لوگ حاضرین میں سب زائد مسائل نماز طہارت کا علم رکھتے ہوں

تو انہیں کی امامت اولیٰ ہے۔ بخلاف ان سے پہلی دو قسم والوں سے اگرچہ عالم تبحر ہو وہی حکم کراہت رکھتا ہے مگر جہاں جمعہ یا عیدین ایک ہی جگہ ہوتے ہوں اور ان کا امام بدعتی یا فاسق معلم ہے اور دوسرا امام نہ مل سکتا ہو وہاں ان کے پیچھے جمعہ و عیدین پڑھ لئے جائیں۔ بخلاف قسم اول مثل دیوبندی وغیرہم، کہ نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کے پیچھے نماز نماز۔ بافرض وہی جمعہ یا عیدین کا امام ہو اور کوئی مسلمان امامت کے لئے نہ مل سکے تو جمعہ و عیدین کا ترک فرض ہے جمعہ کے بد لے ظہر پڑھے اور عیدین کے کچھ عوض نہیں۔ امام اسے کیا جائے جو سی تحریک العقیدہ، صحیح الطہارت، صحیح القراءۃ ہو، مسائل نمازو طہارت کا عالم غیر فاسق ہو۔ نہ اس میں کوئی ایسا جسمانی یا روحانی عیب ہو جس سے لوگوں کو تشریف ہو۔ یہی اس مسئلہ کا اجمالی جواب اور تفصیل موجب تطویل و اطناب، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ

عبدالالمذنب احمد رضا

عن عَنْهُ بِمُحَمَّدِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسئلہ ۵۳ کیم صفر ۱۴۳۹ھ

کیا ارشاد ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ عورت پر مرد کے اور مرد پر عورت کے کیا حق ہیں؟

الجواب مرد پر عورت کا حق نان و نفقة دینا، رہنے کو مکان دینا، مہروقت پر ادا کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کا برداشت اور کھانا، اسے خلاف شرع باقتوں سے بچانا۔ قال تعالیٰ:

”اور ان کے ساتھ اچھی گذران کرو۔“ **وعاشروهن بالمعروف**

وقال تعالیٰ:

يَا يَهَا الَّذِينَ امْنَوْا قَوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اهْلِيْكُمْ نَارًا

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ اور اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔“

اور عورت پر مرد کا حق امور متعلقہ زوجیت میں اللہ و رسول کے بعد تمام حقوق حتیٰ کہ ماں باپ کے حق سے زائد ہے۔ ان امور میں اس کے احکام کی اطاعت، اس کے ناموس کی غنہداشت عورت پر فرض اہم ہے بے اس کے اذان کے محaram کے سوا کہیں نہیں جا سکتی اور محaram کے یہاں بھی ماں باپ کے یہاں آٹھویں دن، وہ بھی صح سے شام تک کے لئے اور بہن بھائی، پچھا، ماموں، خالہ، پھوپھی کے یہاں سال بھر بعد۔ اور شب کو کہیں نہیں جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”اگر میں کسی کو کسی غیر خدا کے سجدہ کا

حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو بوجدہ کرے۔" اور ایک حدیث میں ہے "اگر شوہر کے نھنوں سے خون اور پیپ بہہ لرائیں کی ایڑیوں تک جسم بھر گیا ہوا اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اسے صاف کرے تو اس کا حق ادا نہ ہو گا۔" واللہ تعالیٰ اعلم۔

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۵۴ ۲۹ صفر ۱۳۳۹ھ

حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ بعض لوگ نگنے سر نماز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ جل شانہ، کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے اور نماز میں کسی طرح کی کراہت تو نہ ہو گی؟ بینوا توجروا

الجواب اگر بہ نیت عاجزی نگنے سر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۵۵ ۶ ربیع الاول شریف ۱۳۳۹ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جس جانور کو ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی پہلی دفعہ میں اس کی گردن اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئی، اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کی کھال اس کے سر سے کچھ لگی رہی تو کیا حکم ہے؟

الجواب دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کیا حکم ہے علمائے اہل سنت کا اس مسئلہ میں کہ چنوں پر جو سوم کی فاتحہ کے قبل کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے ان کے کھانے کو بعض شخص مکروہ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قلب سیاہ ہوتا ہے آیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو ان کو کیا کرنا چاہئے؟ اسی طرح فاتحہ کے کھانے کو جو عام لوگوں کی ہوتی ہے کہتے ہیں۔ ایک موضع میں ان سوم کے پڑھے ہوئے چنوں کو مسلمان اپنا اپنا حصہ لے کر مشرک چماروں کو دے دیتے ہیں وہاں تیکی رواج ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ لہذا ان کلمہ طیبہ کے پڑھے ہوئے چنوں کو مشرک چماروں کو دینا چاہئے یا نہیں۔

بینوا توجروا

الجواب یہ چیزیں غنی نہ لے، فقیر لے۔ اور وہ جوان کا منتظر رہتا ہے ان کے ملنے سے خوش ہوتا ہے، اس کا قلب سیاہ ہوتا ہے۔ مشرک یا چمار کو ان کا دینا گناہ، گناہ، گناہ۔ فقیر لے کر خود کھائے اور غنی لے ہی نہیں۔ اور لے لئے ہوں تو مسلمان فقیر کو دے۔ یہ حکم عام فاتحہ کا ہے نیاز اولیائے کرام طعام موت نہیں، وہ تمک ہے۔ فقیر و غنی سب لیں جبکہ مانی ہوئی نذر بطور شرعی نہ ہو۔ شرعی نذر پھر غیر فقیر کو جائز نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین اس مسئلہ میں کہ زید نوحؐ میں گاؤں کشی کرتا ہے اور ہر ایک ذبیحہ پر دوپیے ایک ایک آنہ لیتا ہے اور وہی زید امامت بھی کرتا ہے اور گاہ گاہ اجرت ذبیحہ میں گوشت بھی لیتا ہے۔ اب علمائے دین فرمائیں کہ ذبیحہ پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس کا امامت کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور بعض شخص کہتے ہیں کہ گوشت کھانا کسی آیت حدیث سے ثبوت نہیں بعض شخص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں گاؤں کو ذبح کرا کر اور اس کا گوشت پکوا کر اس میں اپنی انگشت مبارک ترکر کے چوں لیا ہے۔ سو یہ بھی تب کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دن کا فاقہ تھا۔ جب سے گوشت کھانا لوگوں نے اپنے مزے کی خاطر جاری کر لیا ہے اب جناب قبلہ سے امیدوار ہوں کہ اس کا پورا پورا ثبوت مع آیت و حدیث شریف کے تحریر فرمائے اور عطا فرمائیں۔ بینوا تو جروا۔

الجواب ذبح پر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں لانہ لیس بمعصیۃ ولا واجب متیعین علیہ ہاں یہ ٹھہرانا کے ذبح کرتا ہوں۔ اس میں اتنا گوشت اجرت میں لوں گایا ناجائز ہے۔ لانہ کفیز الطحان جو جائز ذبح پر جائز اجرت لے۔ اس کے پیچھے نماز میں اس وجہ سے کوئی حرج نہیں۔ اس کی امامت درست ہے۔ جب کہ کوئی مانع شرعی نہ رکھتا ہو۔ گوشت کھانا بلاشبہ قرآن و حدیث و اجماع امت سے ثابت ہے۔

قال الله تعالى فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير و قال الله تعالى فمنها ركوبهم و منها يأكلون و قال الله تعالى و مالكم الاتا كلوا مماد كر اسم الله عليه وہ بے سرو یا حکایت جو کسی نے بیان کی محس کذب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۲۰

عبدالمذف احمد دضا

عَفْ عَنْهُ مُحَمَّدُنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے شجرہ خوانی دام تزویر ہے۔ اور اس پر بھارتستان مولانا جامی سے یہ عبارت نقل کرتا ہے۔

از حضرت سید بہاؤ الدین صاحب نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پر سید ند۔ کہ از حضرت شجرہ ثناچیت فرموند کے از شجرہ خوانی بجائے نرسد۔ پس خدائے عزوجل را بیگانگی می شناسیم۔ وہمہ انبیاء واولیاء ایمان آریم۔ و مقدم سلسلہ شیشم۔ یہ قول صحیح ہے یا غلط؟

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت جناب کا شجرہ کیا ہے جناب نے ارشاد فرمایا کہ صرف شجرہ خوانی سے کوئی کسی مقام پر نہیں پہنچتا پس ہم اللہ تعالیٰ کو بے مثیت کے ساتھ پہچانتے ہیں اور تمام انبیاء اور اولیا پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی ایک سلسلہ کے ہم پابند نہیں ہیں۔

الجواب یہ قول محسن باطل ہے۔ اور اس میں ہزارہا اولیائے کرام پر حملہ ہے اور بھارتستان سے جو عبارت نقل کی ہے۔ ساختہ ہے اس میں شجرہ خوانی یا شجرہ کا لفظ کہیں نہیں۔ اور پس خدائے عزوجل سے آخر تک ساری عبارت اپنی طرف سے بڑھائی ہوئی ہے۔ بھارتستان میں نہیں۔ شجرہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بندے کے اتصال کی سند ہے۔ جس طرح حدیث کی اسناد میں امام عبد الرشید بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اولیاء و علماء و محدثین و فقهاء سب کے امام ہیں فرماتے ہیں:

لولا الاسناد لقال في الدين من شاء ماشاء

اگر سند کا سلسلہ نہ ہوتا تو جو شخص چاہتا دین میں اپنی مرضی کی بات کرتا پھرتا۔

شجرہ خوانی سے متعدد فوائد ہیں۔

اوّلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے اتصال کی سند کا حفظ۔

دوم صالحین کا ذکر کہ موجب نزول رحمت ہے۔

سوم نام بنا م اپنے آقایان نعمت کو ایصال ثواب کہ ان کی بارگاہ سے موجب نظر عنایت ہے۔

چہارم جب یہ اوقات سلامت میں ان کا نام لیوار ہے گا۔ وہ اوقات مصیبت میں اس کے دشیر ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

تعرف الى الله في لرخاء يعرفك في الشدة

”آرام کی حالت میں خدا کو پہچان وہ تجھے سختی میں پہچانے گا۔“

حسن۔ والله تعالى اعلم

كتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ پمحمدن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۵۹

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں مسجد کے اندر کھانا پینا جائز ہے۔ یا مکروہ۔ یا حرام؟ کیا وہ شخص جو نفل اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو۔ کھاپی سکتا ہے۔ یا نہیں؟ اگر کھاپی سکتا ہے تو کیا کچھ ذکر الہی کرنے کے بعد۔ یا داخل ہوتے ہی فوراً کھاپی سکتا ہے؟ بینوا توجروا

الجواب مسجد میں ایسا کھانا پینا کہ مسجد میں گرے۔ اور مسجد آسودہ ہو۔ مطلقاً حرام ہے۔ مختلف ہو یا غیر مختلف اسی طرح ایسا کھانا جس سے نماز کی جگہ گھرے۔ اور اگر یہ دونوں باقی نہیں تو غیر مختلف کو مکروہ۔ اور مختلف کو مباح۔ کہ اگر واقعی اسے اعتکاف منظور ہی تھا جب تو نیت کرتے ہی معاً کھاپی سکتا ہے۔ اور اگر اعتکاف کی نیت اس لئے کی۔ کہ کھانا پینا جائز ہو جائے۔ تو پہلے کچھ ذکر الہی کرے پھر کھائے۔

كتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ پمحمدن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متن اس مسئلہ میں کہ زید نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ اور اس کی حیات میں اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کیا۔ نکاح دوم جائز ہے۔ یا ناجائز؟ اور ان دونوں عورتوں سے جوازاد ہوگی۔ وہ کیسی ہوگی؟ اور زید کا متروکہ پانے کی مستحق ہے۔ یا نہیں؟ اور یہ دونوں عورتیں مہر پانے کی مستحق ہیں۔ یا نہیں؟ بیسو اتو جروا

الجواب زوجہ جب تک زوجیت یا عدت میں ہے اس کی بہن سے نکاح حرام قطعی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِن تَجْمَعُوا إِنَّ الْأَقْرَبَينَ۔ اس سے جوازاد ہوگی۔ شرعاً اولاً حرام ہے مگر ولد الزنا نہیں۔ اسے ولد حرام بمعنی ولد الزنا کہنا جائز نہیں۔ جب تک اس دوسری کو ہاتھ نہ لگایا تھا پہلی حلال تھی۔ اس وقت تک کے جماع سے جو پہلی سے ہوئی۔ ولد حلال ہے۔ اور بعد کے جماع سے جو اولاد ہو۔ بھی شرعاً اولاً حرام ہے۔ مگر ولد الزنا نہیں دونوں عورتوں کی سب اولادیں کہ زید سے ہوئیں۔ زید کا ترکہ پائیں گی۔ کہ نسب ثابت ہے۔ ہاں زوجہ ثانیہ ترکہ نہ پائے گی۔ نکاح فاسد ہے۔ دونوں عورتیں مہر کی مستحق ہیں۔ پہلی مطلقاً اور دوسری اس صورت میں کہ حقیقتاً اس سے جماع کیا ہو۔ فقط خلوت کافی نہیں پھر بھی اپنا پورا مہر پائے گی۔ اور دوسری مہر مثل اور جو مہر بندھا تھا۔ ان دونوں میں سے جو کم ہو وہ پائے گی۔ درختار میں ہے:

**يجب مهر المثل في نكاح فاسد وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود و مثله تزوج الاختين
معاون نكاح الاخت في عدة الاخت اهش بالوطء لا بغيرة كالخلوط ولم يزد مهر المثل على المسمى
لرضاه بالخط ولو كان دون المسمى لزم مهر المثل**

”واجب ہوگا مہر مثلى نکاح فاسد میں یعنی وہ نکاح جس میں شرائط صحیح نکاح میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے مثلاً گواہ اور اسی طرح ہے دو بہنوں کا اکٹھا نکاح اور ایک بہن کی عدت میں دوسری بہن کا نکاح اس مذکورہ بالا صورت میں مہر و طئی کرنے سے واجب ہوگا طئی کے بغیر خلوت وغیرہ سے مہر لازم نہیں ہوگا اور مہر مثل مہر مسکی پرزائد بھی نہ ہو کیونکہ کی پر عورت راضی ہو چکی ہے اور اگر یہ مہر مسکی سے کم ہو تو مہر مثلى لازم ہوگا۔“ ہدایہ باب النکاح الرقيق میں ہے:

بعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل كالنسب و وجوب المهر والعدة

”بعض مقاصد نكاح فاسد میں حاصل ہیں جیسے ثبوت نسب اور وجوب مهر اور عدت۔“

درختار میں ہے:

يستحق الارث بنكاح صحيح فلا توات بفاسد ولا باطل اجماعاً و الله سبحانه و تعالى اعلم

”آدمی مستحق و راثت صحیح نکاح سے ہی ہوگا پس نکاح فاسد اور باطل سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں ہو سکتا اجماعاً۔“

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بِمَحْمُدِنَ الْمُصْطَفَیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أحكام شریعت ﴿ حصہ دوم ﴾

مسئلہ ۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کا قول ہے وقت مغرب بہت قلیل ہے اسی وجہ سے چھوٹی سورۃ مغرب میں پڑھتے ہیں اور بعد و سنت و نفل کے مغرب کا وقت نہیں رہتا یا پانچ، چھ منٹ اور رہتا ہے۔ عمر و کہتا ہے نماز مغرب اول وقت پڑھنا اور چھوٹی سورۃ کا پڑھنا یہ سب مستحب ہے۔ مغرب کا وقت جب تک سرخی شفق کی رہتی ہے باقی رہتا ہے، بلکہ آدھ گھنٹے سے زائد رہتا ہے لہذا گذارش ہے کہ وقت مغرب کی پہچان کہ کب تک رہتا ہے اور کتنی دیر رہتا ہے اور زید و عمرو کے قول کی تصدیق اور یہ کہ سرخی کے بعد جو سفیدی رہتی ہے اگر اس وقت کوئی شخص نماز مغرب ادا کرے تو جائز ہے یا نہیں اور بلا کراہت کس وقت تک پڑھنا جائز ہے؟

الجواب زید کا قول مخفض غلط ہے اس نے اپنی طبیعت سے یہ بات گھری ہے جبکہ تو وہ شک کی حالت میں ہے خود بھی کہتا ہے نہیں رہتا پھر کہتا ہے پانچ یا چھ منٹ اور رہتا ہے یہ سب اس کے باطل خیالات ہیں جن کو شرعی معاملات میں استعمال کرنا حرام ہے بلکہ مغرب کا وقت اس سفیدی کے ذوبنے تک رہتا ہے جو عرضًا یعنی جانب مغرب میں شامل جنوب اس فیدہ صبح کی طرح پھیلی ہوتی ہے اس کے بعد جو سفیدی نہ جنوب شامل بلکہ آسمان میں اوپر کی طرف کو طولاً صبح کاذب کی طرح باقی رہے اس کا اعتبار نہیں۔ غروب آفتاب سے اس سفیدی ذوبنے تک جو عرضًا پھیلی ہوتی ہے۔ اس بلاد میں کم از کم ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ وقت ہوتا ہے اور زائد سے زائد ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ، ۱۸ سے ۳۵ منٹ تک وقت بدلتا رہتا ہے کہ بعض دنوں میں سفیدی ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ بعض دنوں میں ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ بعض میں ۱۲۰ اسی طرح ۳۵ منٹ بعد غروب ہوتی ہے۔ رواۃ تحقیق قول ماتن الشفق هو الحمرة عندهما و به قالت الثالثة والیه رجع الامام فرمایا: والمتحقق فی الفتح باه لا یساعدہ روایة ولا درایة الخ و قال تلميذه العلامۃ قاسم فی تصحیح القدوری ان رجوعه لم یثبت لما نقله الكاففة من لدن الائمة الثالثة الی الیوم من حکایۃ القولین و دعوی عمل عامة الصحابة بخلافه خلاف المنقول قال فی الاختیار الشفق البیاض وهو مذهب الصدیق الخ۔ ہاں مغرب کی نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے اور بلا عذر دور کعون کے قدر دریگانہ مکروہ تنزیہ یعنی خلاف اولی ہے درحقیقت میں ہے والمستحب التعلیل فی المغرب مطقا و تاخیر قدر رکعتین یکرہ تغزیہ۔ اور بلا عذر راتی دیر گانہ جس میں کثرت سے ستارے ظاہر ہو جائیں مکروہ تحریکی و گناہ ہے اسی میں والمغرب الی اشتباک النجوم امی کثرتها کرہ تحریماً الابعذر۔ والله تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۹ کیا حکم ہے علمائے اہل سنت و جماعت کا مسائل ذیل میں:

- (الف) زیور نقریٰ یا طلاقی روزانہ پہنا جاتا ہو یا رکھا رہے کیا دنوں پر زکوٰۃ ہے؟
- (ب) حساب قیمت کا جس وقت زیور بنایا تھا وہ رہے گا یا نرخ بازار جو بروقت دینے زکوٰۃ کے ہو؟
- (ج) جو روپیہ تجارت میں مثلاً پارچہ یا کرایہ وغیرہ خرید لیا ہے اس پر زکوٰۃ کس حساب سے دینا ہوگی؟
- (د) فی صدی کیا زکوٰۃ کا دینا ہوگا؟
- (۵) زکوٰۃ کار و پیسہ کافر، مشرک، وہابی، رافضی، قادریانی، وغیرہ کو دینا چاہئے یا نہیں؟
- (و) زکوٰۃ کا دینا اولیٰ کس کو ہے، بھائی، بہن والدین جو صاحب نصاب نہ ہوں ان کو دینا چاہئے یا نہیں؟
- (ذ) چھین روپیہ جس شخص کے پاس ہوں صاحب نصاب ہے اب وہ زکوٰۃ کا کیا دے؟
- (ح) قربانی کس پر ہے اور واجب ہے یا فرض؟
- (ط) آج کل ہندوستان میں گائے کی قربانی کو بعض مسلمان مشرکوں کی خوشنودی کے لئے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بکری کی قربانی کرو تو کس کی قربانی کی جائے؟ بینوا توجروا۔

الجواب

- (الف) زیور مطلقاً زکوٰۃ ہے ہر وقت پہنے رہیں خواہ بھی نہ پہنیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
- (ب) سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی زکوٰۃ میں دی جائے جب تو نرخ کی کوئی حاجت ہی نہیں وزن کا چالیسوائی حصہ دیا جائے گا، ہاں! اگر سونے کے بدے چاندی یا چاندی کے بدے سونا دینا چاہیں تو نرخ کی ضرورت ہو گی نرخ بنانے کے وقت کا معترہ ہو گا نہ وقت ادا کا اگر سال تمام سے پہلے یا بعد ہو بلکہ جس وقت یہ مالک نصاب ہوا تھا وہ ماہ عربی وہ تاریخ اور وہ وقت جب عود کریں گے اس پر زکوٰۃ کا سال تمام ہو گا۔ اس وقت کا نرخ لیا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
- (ج) سال تمام پر بازار کے بھاؤ سے جو اس مال تجارت کی قیمت ہے اس کا چالیسوائی حصہ دینا ہو گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
- (د) آسانی اسی میں ہے کہ فی صد ڈھائی روپے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
- (۵) ان کو دینا حرام ہے اور اگر ان کو دے زکوٰۃ ادا نہ ہو گی۔ واللہ تعالیٰ۔
- (و) یہ جن کی اولاد میں ہے جیسے ماں باپ دادا، دادی نانا، نانی اور جو اس کی اولاد ہیں جیسا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بھائی بہن اگر مصرف زکوٰۃ ہوں تو ان کو دینا سب سے افضل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
- (ذ) چھین (۵۶) روپیہ کا چالیسوائی حصہ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

www.alahazrat.net
(ح) صاحب نصاب جو اپنی حوانج اصلیہ سے فارغ چھپن روپیہ کے مال کا مالک ہواں پر قربانی واجب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
(ط) مشرکوں کی خوشنودی کے لئے گائے کی قربانی بند کرنا حرام حرام ختم حرام اور جو بند کرے گا جہنم کے عذاب شدید کا مستحق ہوگا اور روز قیامت مشرکوں کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں جس شخص کے ذمہ نماز قضاویں یا بارہ یا چودہ سال کی ہو۔ وہ شخص کس طریقہ سے نماز قضا پھیرے جو طریقہ آسان ہو اقسام فرمائیے مع نیت و ترک کہ نماز و تر قضا پڑھی جائے گی یا نہیں۔ جواب عام فہم ہو۔ بینوا توجروا۔

الجواب قضاہ روز کی نماز کی بیس رکعتیں ہوتی ہیں دو فرض فجر کے چار ظہر چار عصر تین مغرب چار چار عشاء کے اور تین و تر، اور قضا میں یوں نیت کرنی ضرور ہے۔ ”نیت کی میں نے سب میں پہلی یا سب میں پچھلی فجر کی جو مجھ سے قضا ہوئی یا پہلی یا پچھلی ظہر کی جو مجھ سے قضا ہوئی اور ابھی تک میں نے اسے ادا نہ کیا“۔ اسی طرح ہر نماز میں کیا کرے اور جس پر قضا نمازیں کثرت سے ہیں وہ آسانی کیلئے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر کوع اور ہر سجدہ میں تین تین بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف ایک ایک بار کہے مگر یہ ہمیشہ ہر طرح کی نماز میں یا درکھنا چاہئے کہ جب آدمی کوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کرے اس وقت کوع سے سراہائے اسی طرح سجدہ میں۔ ایک تخفیف کثرت قضاویں کیلئے یہ ہو سکتی ہے دوسری تخفیف یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ تین بار کہہ کر کوع کر لے مگر وتروں کی تینوں رکعت میں الحمد اور سورہ دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ تیسری تخفیف یہ کہ پچھلی التحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ اللهم صلی علی محمد و اللہ کہہ کر سلام پھیر دے چوتھی تخفیف یہ کہ وتروں کی تیسری رکعت میں دعا قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک یا تین بار ربی اغفو لی کہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴ کیا حکم ہے شرع مطہر کا اس مسئلہ میں کہ تین بھائی حقیقی ایک مکان میں رہتے تھے پچھلے عرصہ کے بعد تین قطعے ہو گئے دو مکانوں کا دروازہ ایک ہی رہا اور تیسرے قطعے کا دروازہ علیحدہ دوسری جانب کو بنایا گیا مگر اس مکان میں ایک کھڑکی پچھلے دونوں قطعوں میں آمد و رفت کے واسطے رہی جس کے باعث سے تینوں بھائیوں کے مکان ایک ہی سمجھے جاتے ہیں۔ اس تیسرے قطعے یعنی کھڑکی والے مکان کے ساکن کا انتقال ہو گیا تو مرحوم کی بی بی ایام عدت میں اس کھڑکی سے پچھلے دونوں قطعوں میں جا سکتی ہے یا نہیں اور پچھلے دونوں قطعوں کے مالک بھی مرحوم ہی تھے۔ بینوا توجروا۔

الجواب جب کہ میت کا مکان سکونت وہ تھا عورت اس میں عدت پوری کرے اور کھڑکی دو مکانوں کو ایک نہیں کر سکتی۔ واللہ تعالیٰ واعلم۔

مسئلہ 5

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید نے نکاح کیا بعد رخصت کے یہ معلوم ہوا کہ عورت امراض سخت میں بنتا ہے اور اولاد کی اس سے قطعاً نا امیدی ہے اور کاروبار خانہ داری سے بالکل مجبور ہے۔ دوسال تک زید نے اپنی عورت کا علاج کیا مگر کچھ افاق نہیں ہوا مجبوراً زید نے دوسرا کیا۔ زوجہ اولیٰ کے والدین نے اپنی لڑکی کو اپنے مکان پر روک لیا اور زید کے بیہاں بھیجنے سے انکار کیا چند بار زید اپنی بی بی کے لینے کے واسطے گیا اور بہت خوشامد کی مگر زوجہ اولیٰ کے والدین کسی طرح رضا مند نہیں ہوئے زید اس کے بلا نے کی کوشش میں ہے ایسی حالت میں زید کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب اگر یہ صورت واقعہ میں زید کا قصور کیا ہے اس کے پیچھے نماز بے تکلف روا ہے اگر اور شرائط امامت رکھتا ہے قال

الله تعالیٰ لاتزرروا زرة وزرا خرى. والله تعالیٰ اعلم (سورہ النجم ۳۸)

مسئلہ 6 کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید ایک بازاری عورت طوائف کا بیٹا ہے بچپن سے زید کی طبیعت علم کی طرف مائل تھی حتیٰ کہ وہ عالم ہو گیا نماز اس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے یا نہیں کیونکہ اس کے والد کا پتہ نہیں کہ کون تھا۔ بینوا توجروا۔

الجواب نماز جائز ہونے میں کلام نہیں بلکہ جب وہ عالم ہے اگر عقیدے کا سنی ہوا کوئی وجہ اس کے پیچھے منع نماز کی نہ ہو تو وہی امامت کا مستحق ہے جب کہ حاضرین میں اس سے زیادہ کسی کو مسائل نمازو طہارت کا علم نہ ہو کما فی الدر المختار وغیره من الاسفار والله تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ 7 کیا حکم ہے شریعت مطہر کا اس میں کہ دعوت طعام کوئی سنت ہے اور کس دعوت طعام سے انکار کرنا اور قبول نہ کرنا گناہ ہے بالتفصیل ارشاد ہو۔ بینوا توجروا۔

الجواب دعوت ولیر کا قبول کرنا سنت موکدہ ہے جب کہ وہاں کوئی معصیت مثل مزاییر وغیرہ نہ ہو۔ نہ کوئی مانع شرعی ہو اور اس کا قبول وہاں جانے میں ہے کھانے نہ کھانے کا اختیار ہے۔ باقی عام دعوتوں کا قبول افضل ہے جب کہ نہ کوئی مانع ہونے کوئی اس سے زیادہ اہم کام ہو اور خاص اس کی کوئی دعوت کرے تو قبول نہ کرنے کا اسے مطلقاً اختیار ہے رد المحتار میں ہے:

دُعَى إِلَى وَلِيْمَةٍ هِيَ طَعَامُ الْعِرْسِ وَقِيلَ الْوَلِيْمَةُ اسْمُ لِكُلِّ طَعَامٍ وَفِي الْهِنْدِيَّةِ عَنِ التَّمَرِ تَاشِيَ اخْتَلَفَ فِي اجَابَةِ الدُّعَوِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَاجِةٌ لَا يَسْعُ تَرْكَهَا وَقَالَ الْعَامَةُ هِيَ سَنَةٌ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَجِيبَ إِذَا كَانَتْ وَلِيْمَةً وَالْأَفْهَمُ مَحِيرٌ وَالْأَجَابَةُ أَفْضَلُ لَانِ فِيهَا ادْخَالُ السُّرُورِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ وَإِذَا اجَابَ فَعَلَ مَا عَلَيْهِ أَكْلُ الْأَلْفَهُ وَمَحِيرٌ وَالْأَجَابَةُ أَفْضَلُ لَانِ فِيهَا ادْخَالُ السُّرُورِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ وَإِذَا اجَابَ فَعَلَ مَا عَلَيْهِ أَكْلُ الْأَلْفَهُ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَأْكُلْ لَوْ غَيْرَ صَائِمٍ وَفِي الْبَنَاءِ اجَابَةُ الدُّعَوَةِ سَنَةٌ وَلِيْمَةٌ وَاغْيِرُهَا وَامَادُوْهُ يَقْعُدُ بِهَا النَّظَارُ وَأَنْشَاءُ الْحَمْدِ أَوْ مَا اشْبَهَهُ فَلَا يَنْبَغِي اجَابَتْهَا لَا سِيمَا أَهْلُ الْعِلْمِ أَهْلُ مَلْخَصِهِ وَفِي الْأَخْتِيَارِ وَلِيْمَةُ الْعِرْسِ سَنَةٌ

قدیمة ان لم يجدها اثم و جفالانه استهزاء المضييف اه و مقتضاها انها سنة موکدة بخلاف غيرها و صرح شراح الهدایة بانها قربة من الواجب وفى التاتار خانية عن الينا بيع لو دعى الى دعوته فالواجب الا اجابة ان لم يكن هناك معصية ولا بدعة والامتناع اسلم فى زماننا الا اذا علم يقينا ان لا بدعة ولا معصية اه والظاهر حمله على غير الوليمة لما مر تامل اه والله تعالى اعلم.

مسئلہ ۸ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسائل ذیل میں:

(الف) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج برائق پر سوار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا ہے کہ روز قیامت جب کہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے ہر ایک مسلمان کی قبر پر اسی طرح ایک ایک برائق بھیجوں گا جیسا کہ آج آپ کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ یہ ضمون صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ کتاب معارج النبوة سے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔

(ب) کتاب معارج النبوة کسی کتاب ہے اور اس کے مصنف عالم اہل سنت معتبر محقق تھے یا نہیں۔

(ج) طوائف جس کی آمد نی صرف حرام پر ہے اس کے یہاں میلاد شریف پڑھنا اور اس کی اسی حرام آمد نی کی منگائی ہوئی شیرینی پر فاتحہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔

(د) مجلس میلاد شریف میں بعد بیان میلاد شریف کے ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعات کر بلا پڑھنا جائز ہیں یا نہیں؟

(۵) خاتون جنت بتول زہرا رضی اللہ عنہما کی نسبت یہ بیان کرنا کہ روز مجشروہ بہمنہ سروپا ظاہر ہوں گی اور امام حسین رضی اللہ عنہ و امام حسن رضی اللہ عنہ کے خون آلوہ اور زہر آلوہ کثیرے کا ندھر پرڈالے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو جنگ احمد میں شہید ہو گیا تھا ہاتھ میں لئے ہوئے بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گی اور عرش کا پایا پکڑ کر ہلاکیں گی اور خون کے معاوضہ میں امت عاصی کو بخشوائیں گی صحیح یا نہیں؟

(و) مجلس میلاد شریف پڑھنے کے لئے بیشتر ثہرا لینا کہ ایک روپیہ دو تو ہم پڑھیں گے اور اس سے بھی اس سے پیشگی بطور بیغانہ یا سائی جمع کر لینا جائز ہے یا نہیں؟

(ف) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شب مراج عرشی الہی پر نعلیین مبارک تشریف لے جانا صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ کے حضور حاضر ہونا کہنا چاہئے نہ کہ تشریف لے جانا مولف یعنی محدث نعلیین عرش پر جانا ۲۲ مؤلف)

(ح) رافضیوں کے یہاں محرم میں ذکر شہادت و مصابیب شہدائے کربلا و سوز خوانی و مرثیہ مصنفہ انہیں و دیر پڑھنا جائز ہیں یا نہیں؟

(ط) بیان کیا جاتا ہے کہ شب معراج حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدین رضی اللہ عنہما کا اعذاب دکھایا گلیا اور ارشاد باری ہوا کہ اے حبیب یا مال باپ کو بخشوں لے یا امت کو آپ نے ماں باپ کو چھوڑا امت اختیار کی صحیح ہے یا نہیں؟

(ی) زید با وجود اطلاع پانے جوابات سوالات مذکورالصدر کے اگر اپنے قول و افعال مذکورہ بالا سے بازنہ آئے اور تائب نہ ہو اور ان جوابات کو جھوٹا تصور کرے اور یہی بیانات اور طریقے جاری رکھ تو اس سے مجلس شریف پڑھوانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب

(الف) بے اصل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(ب) سنی واعظ تھے۔ کتاب میں رطب و یابس سب کچھ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(ج) اس مال کی شرینی پر فاتحہ کرنا حرام ہے مگر جب کہ اس نے مال بدل کر مجلس کی ہوا اور یہ لوگ جب کوئی کار خیر کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں اس کے لئے کوئی شہادت کی حاجت نہیں اگر وہ کہے کہ میں نے قرض لے کر یہ مجلس کی ہے اور وہ قرض اپنے مال حرام سے ادا کیا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا کما نص علیہ فی الہندیہ وغیرہا۔ بلکہ اگر شرینی اپنے مال حرام ہی سے خریدی اور خریدنے میں اس پر عقد و نقد جمع نہ ہوئی یعنی حرام روپیہ دکھا کر اس کے بد لے خرید کرو ہی حرام روپیہ دیا اگر ایسا نہ ہو تو مذہب مفتی بہ پرده شرینی بھی حرام نہ ہوگی۔ جو شرینی اسے خاص اجرت زنا یا غنا میں ملی یا اس کے کسی آشنا نے تھفہ میں بھیجی یا اس کی خریداری میں عقد و نقد مال حرام پر جمع ہوئے وہ شرینی حرام اور اس پر فاتحہ حرام ہے۔ یہ حکم تو شرینی و فاتحہ کا ہوا تو مگر اس کے یہاں جانا اگرچہ مجلس شریف پڑھنے کے لئے ہو معصیت یا مظنة معصیت یا تہمت یا مظنة تہمت سے خالی نہیں اور ان سب سے بچنے کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے:

من كان يوم بالله أول يوم الآخر فلا يقص موقع التهم

ترجمہ جو اللہ عزوجل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ وہ ہرگز تہمت کی چلکہ نہ کھڑا ہو۔ اول تو ان کی چوکی اور فرش اور ہر استعمالی چیز نہیں احتمالات خباثت پر ہی ہے جو اہل تقویٰ نہیں، اسے ان کے ساتھ قرب آگ اور بارود کا قرب ہے اور جو اہل تقویٰ ہے اس کے لئے وہ لوہار کی بھٹی ہے کہ کپڑے جلنے نہیں تو کالے ضرور ہوں گے پھر اپنے نفس پر اعتماد کرنا اور شیطان کو دور سمجھنا احمدی کا کام ہے

و من وقع حول الحى اوشك ان يقع فيه

ترجمہ جو رمنے کے گرد چڑائے گا کبھی اس میں پڑ بھی جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(د) علمائے کرام نے مجلس میلانا در شریف میں ذکر شہادت سے منع فرمایا ہے کہ وہ مجلس سرور ہے ذکر حزن مناسب نہیں۔

(۵) یہ سب مخفی جھوٹ اور افتر اور کذب اور گستاخی و بے ادبی ہے جمع اولین و آخرین میں ان کا برہنہ سر تشریف لانا بن لو برہنا سر بھی آفتاب نے بھی نہ دیکھا وہ کہ جب صراط پر گزر فرمائیں گے زیر عرش سے منادی ندا کرے گا اے اہل محشر اپنے سر جھکا لا اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ فاطمہ بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صراط پر گزر فرماتی ہیں پھر وہ نور الہی ایک برق کی طرح ستر ہزار حوریں جلوے میں لئے ہوئے گزر فرمائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۶) اللہ عزوجل فرماتا ہے لَا تُشْتِرُوا بِأَيْمَانِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہ منوع ہے اور ثواب عظیم سے محرومی مطلق۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۷) یہ مخفی جھوٹ اور موضوع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۸) حرام ہے عَكْنَدْ هُمْ جِنْسٌ بَاهِمْ جِنْسٌ پَرْوَاز۔ حدیث میں ارشاد ہوا لاتجال سوہم ان کے پاس نہ بیٹھو دوسرا حدیث میں فرمایا من كثُر سواد قوم فهو منهم جو کسی قوم کا مجع بڑھائے وہ انہیں میں سے ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۹) مخفی جھوٹ افتر اور کذب و بہتان ہے اللہ رسول پر افتر اکرنے والے فلاخ نہیں پاتے جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱۰) سچو بعد اطلاع احکام شرعیہ نہ مانے اور انہیں افعال پر مصروف ہے اور فتویٰ شریعت کو جھوٹا تصور کرے وہ گمراہ ہے اس سے مجلس شریف پڑھوانا یا اس کا سننا اس سے امید ثواب رکھنا اس کی تعظیم کرنا سب ناجائز ہے جب تک تائب نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۹ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے اگر بھرت ہی کرنا ہے تو بجائے کابل کے مدینہ منورہ کو بھرت کروں گا کم از کم یہ تو ہو گا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز پڑھنے سے پچاس ہزار نماز کا ثواب ملے گا اور کہتا ہے دین مدینہ منورہ سے نکلا ہے اور پھر اسی طرف پلٹ جائے گا پس اس جگہ سے کون جگہ افضل ہو گی اور اس زمانہ میں جب کہ نصاریٰ کا قبضہ اس جگہ ہے کابل سے ہزار درجہ اس جگہ کی بھرت کو افضل کہتا ہے اور اپنے لئے باعث سلامتی دین و شفاعت تصور کرتا ہے زید کا یہ خیال درست ہے یا نہیں اور بھرت اس کی درست ہو گی یا نہیں اور اگر بھرت میں یہ نیت کرے کہ جب تک بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ پر کفارہ کا قبضہ ہے اتنی مدت اپنے وطن میں نہ آئے گا ایسی نیت اس کی درست ہو گی یا نہیں؟ یعنی تو جروا۔

الجواب زید کے بالائی خیالات سب صحیح ہیں بے شک مدینہ منورہ سے کسی شہر کو نسبت نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** توجہمہ مدینہ منورہ ان کے لئے سب سے بہتر ہے اگر وہ جائیں۔ مگر مدینیہ طیبہ میں مجاورت ہمارے ائمہ کے نزدیک مکروہ ہے کہ حفظ آداب نہیں ہو سکے گا اور قبضہ کفار کا بیان غلط اور ہوتا یہ نیت کہ ان کے قبضہ تک وہیں رہے گا اٹھی نیت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰ خدمت والا میں گزارش ہے کہ براہ کرم امور ذیل کا جواب مرحمت فرما کر خادم کی تسلی فرمائیں۔

- (۱) مسائل خلافت اسلامیہ و ہجرت عند الہند کے متعلق مولوی عبدالباری فرنگی محلی و ابوالکلام آزاد وغیرہ نے جو کچھ آواز اٹھائی ہے یہ حدود اسلامیہ و شرعیہ کے موافق ہے ہے خلاف۔
- (۲) ہر لحاظ سے جناب والا کی خاموشی کی مصالح کی بنا پر ہے اگر موافق ہے تو کیوں ان اصحاب کی تائید میں آوازنیں اٹھاتے اور اگر خلاف ہے تو دوسرے مسلمانوں کو خطرناک ہلاکت سے کیوں نہیں روکا جاتا جناب والا نے اپنے لئے کیا راہ تجویز فرمائی ہے۔ بینوا توجروا۔

الجواب مقصد بتایا جاتا ہے اما کن مقدسہ کی حفاظت اس میں کون مسلمان خلاف کر سکتا ہے اور کارروائی کی جاتی ہے کفار سے اتحاد مشرک لیڈروں کی غلامی و تقلید قرآن شریف و حدیث شریف کی عمر کوبت پرستی پر شمار کرنا۔ مسلمانوں کا قشہ لگوانا کافروں کی بھی بولنا رام پھیمن پر پھول چڑھانا اور امین کی پوجا میں شریک ہونا مشرک کا جنازہ اپنے کندھوں اٹھا کر اس کی بھی بول کر مرگھٹ کو لے جانا، کافروں کو مسجد میں لے جا کر مسلمانوں کا واعظ بنا شعار اسلام قربانی گاؤ کو کفار کی خوشامد میں بند کرنا ایک ایسے مذہب کی فکر میں ہونا جو اسلام و کفر کی تمیز اٹھادے اور بتوں کے معبد پر آگ کو مقدس سُنہ ہائے اور اسی طرح کے بہت اقوال احوال و افعال جن کا پانی سر سے گذر گیا جنہوں نے اسلام پر یکسر پانی پھیر دیا کون مسلمان ان میں موافق ہے۔ ان حرکات خبیثہ کے رد میں فتوے لکھے گئے۔ اور لکھے جا رہے ہیں اس سے زیادہ کیا اختیار ہے پاکی ہے اسے جو مقلب القلوب والابصار ہے۔

و حسبنا اللہ و نعم الوکيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والله تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جو پتا یا درخت بوجہ غفلت تسبیح گر جاتا ہے یا جا نور ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر بعد سزاً غفلت ان کا تسبیح میں مشغول ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب رب عزوجل فرماتا ہے:

تسبح له السموات السبع والارض ومن وفيهن وان من شیء الا يسبح بحمدہ ولكن لا تفقهون تسبیحهم
اس کی تسبیح کرتے ہیں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔

یہ کلیہ عامہ جمیع اشیاء عالم کو شامل ہے ذی روح ہوں یا بے روح۔ اجسام محضہ جن کے ساتھ کوئی روح نباتی بھی قائم نہیں دائم اتسبح ہیں کہ ان میں شیء کے دائرہ سے خارج نہیں مگر ان کی تسبیح بے منصب ولا یت نہ مسحونہ مفہوم اور وہ اجسام جن سے روح انسی یا ملکی یا جنی یا حیوانی یا نباتی متعلق ہے ان کی دو تسبیحیں ہیں ایک تسبیح جسم کہ اس روح متعلق کے اختیاری نہیں وہ اسی ان من شیء کے عموم میں

اس کی اپنی ذاتی تسبیح ہے۔

دوسری تسبیح روح یہ ارادی و اختیاری ہے اور بزرخ میں ہر مسلمان کو مسموع و مفہوم۔ اس تسبیح ارادی میں غفلت کی سزا حیوان و نباتات کو قتل و قطع سے دی جاتی ہے اور اس کے بعد یا جب جانور مر جائے یا نبات خشک ہو جائے منقطع ہو جاتی ہے والہذا انہمہ دین نے فرمایا ہے کہ تر گھاس مقابر سے نہ اکھیزیں۔

فانه مادام رطبا یسبح الله تعالیٰ فیونس المیت کہ وہ جب تک تھے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے تو میت کا دل بہلتا ہے۔ مگر قتل و قطع و موت و پیس کے بعد بھی وہ تسبیح کہ نفس جسم کی تھی جب تک اس کا ایک جزو لا یت جزی باقی رہے گا منقطع نہ ہوگی۔ ان من شئی الا یسبح بحمده اسے روح سے تعلق نہ تھا کہ تعلق روح نہ رہنے سے منقطع ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۶ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اہل سنت و جماعت اس مسئلہ میں کہ ایک مولوی صاحب وعظ میں اس طرح کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں ”اور کبھی اس طرح کہتے تھے ”ارشاد فرماتا ہے“ کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے کلام کے کہنے سے انسان پر کفر و شرک تو لازم نہیں آتا ہے گنہگار ہوتا ہے یا نہیں اور کتابوں کے مصنفوں نے اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں لکھا اور فرماتا ہے لکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب اللہ عزوجل کو ضمائر مفرد سے یاد کرنا مناسب ہے کہ وہ واحد فرد و تر ہے اور تنظیماً ضمائع جمع میں بھی حرج نہیں اس کی نظر قرآن عظیم میں ضمائر متكلّم میں تو صد ہا جگہ ہے انا ہن نزلنا الذکر و انا لله لحفظون اور ضمائر خطاب میں صرف ایک جگہ ہے وہ بھی کلام کافر سے کہ عرض کرے گا رب ارجعون اعمل صالحًا۔ اس میں علمائے تاویل فرمادی ہے کہ ارجع کی جمع باعتبار تکرار ہے یعنی ارجع ارجع ارجع۔ ہاں ضمائر غائب میں ذکر مرجع صیغہ جمع فارسی اور اردو میں بکثرت بلانگیر راجح ہیں۔

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زدندا!
سعد یا روز ازل جنگ تبرکاں داوند زرویت ماہ تاباں آفریدند
زقدت سرو بستاں آفریدند

ایسی جگہ لوگ قضا و قدر کو مرجع بتاتے ہیں بہر حال یوں ہی کہنا مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر اس میں کفر و شرک کا حکم کسی طرح نہیں ہو سکتا نہ گناہ ہی کہا جائے گا بلکہ خلاف اولی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع تین اس مسئلہ میں کہ اکثر قاعدہ ہے جب لڑکا چار برس چار ماہ چار دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ شریف اس کو پڑھاتے ہیں اور خوشی کرتے مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں اس کا کیا حکم ہے جائز ہے یا نہیں سنت ہے یا مستحب کیا یہی ضروری ہے کہ جب لڑکے کی عمر مذکور بالا ہو جب ہی پڑھائی جائے یا کم و بیش پڑھی پڑھا سکتا ہے۔ اور کسی عالم کے پاس لے جائے یا ہر شخص صحیح عقیدہ پڑھا سکتا ہے نیز مسنون طریقہ ارجام فرمائے۔

الجواب طریقہ مذکورہ جائز ہے اور اتنی عمر ضروری نہیں کم و بیش بھی ہو سکتی ہے اور عالم کو پڑھانا بہتر ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۴ حضرات کرام اہل سنت و ارث علوم شریعت کیا فرماتے ہیں کہ زید سی ایک بزرگوار کا مرید ہے ابھی تھوڑا ہی زمانہ گزر ا ان بزرگوار کا انتقال ہو گیا اب زید اور کسی عالم سے بیعت ہو سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب تبدیل بیعت بلا وجہ شرعی منوع ہے اور تجدید جائز بلکہ مستحب ہے اور جو سلسلہ عالیہ قادریہ میں نہ ہو اور شیخ سے بغیر اخراج کے اس سلسلہ عالیہ میں بیعت کرے وہ تبدیل بیعت نہیں بلکہ تجدید ہے کہ جمیع سلاسل اسی سلسلہ عالی کی طرف راجح ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۵ کیا فرماتے ہیں علیحضرت مجدد مائتھہ حاضرہ فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں صاحب ادام اللہ بالبر والاحسان اس مسئلہ میں کہ جمع کی نماز پڑھ کر اس کے بعد پھر نماز ظہر پڑھتی چاہئے یا نہیں؟

الجواب ہندوستان بفضلہ دارالاسلام ہے یہاں کے شہروں میں جمع صحیح ہے اس کے بعد نماز ظہر کی حاجت نہیں ہاں جاہلوں نے جو دیہات میں جمعہ نکال لیا ہے وہاں اگر کوئی جمعہ پڑھے تو اس پر ظہر پڑھنا ضرور لازم ہے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۶ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں اگر کسی داڑھی منڈے سے ملاقات ہو اور یہ شناخت نہ ہو کہ مسلمان ہے یا ہندو اس کو سلام کرنا چاہئے یا نہیں اور اس صاحب کو سلام کرنے کیا طریقہ ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب جو شخص پہچان میں نہ آئے کہ مسلمان ہے یا کافر اس سے ابتداء سلام جائز نہیں کہ ابتداء سلام مسلمان کے ساتھ سنت ہے اور کافر کے ساتھ حرام اور فعل جب سنت و حرام میں متrodہ ہونا جائز رہے گا کماں الخلاصۃ الدریختار وغیرہ ما و اللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۷ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ عبد اللہ بن مطلب بن ہاشم بند عبد مناف چاروں پشت پر فاتحہ درود پڑھنا چاہئے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب ہمارے نزدیک صحیح و ریجیح یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ امہات حضرت عبد اللہ و حضرت آمنہ سے حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا علیہم السلام تک سب اہل توحید و اسلام و نجات ہیں تو انہیں ایصال ثواب میں حرج نہیں البتہ اختلاف علماء سے بچنے کے لئے مناسب یہ ہے کہ ثواب نذر بارگاہ بیکس پناہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ والوں کو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۸ کیا فرماتے ہیں علمائے اہل سنت اس مسئلہ میں کہ از روئے فرمان اللہ و رسول یزید بخشاجائے گا یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے تین قول ہیں امام احمد وغیرہ اکابر سے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر ہیں ایسا بھی سکوت کریں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۹ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جو چیز خالص اوجہ اللہ وی جاتی ہے اس کا کھانا امیر و غنی کو کیسا ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ و صدقہ فطر غنی پر حرام ہے اور صدقہ نافلہ جیسے حوض و سقایہ کا پانی یا مسافر خانہ کا مکان غنی کو جائز ہے مگر میت کی طرف سے جو صدقہ ہو غنی کو دے غنی لے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۲۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ فرشتہ پر فاتحہ درود پڑھنا چاہئے یا نہیں؟

الجواب دور جیسے علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ تو ملائکہ کے لئے ہے یہی ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔
لَمْ يَلْعَمْهُ أَهْلُ الْثَّوَابَ كَمَا ذُكِرَهُ أَمَامُ الرَّازِيِّ وَ فِي رِدَالْمُخْتَارِ لِلْمَلَائِكَةِ فَضَالَّ عَلَيْنَا فِي الثَّوَابِ . وَاللَّهُ

مسئلہ ۴۱ (الف) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کوئی کہے یعنی منت مانے کہ جان کا بدلہ صدقہ مسجد میں لے جائیں گے اور اسی کو بعض یوں کہتے ہیں کہ جان نجح جائے کام بن جائے تو نذر اللہ مصلیٰ کو کھلائیں گے کوئی کہے کہ ہمارا کام پورا ہو جائے تو مسجد میں شیرینی لے جا کر مصلیٰ کو کھلائیں گے تو یہ چیز ہر ایک کو کھانا جائز ہے یا نہیں خواہ امیر ہو یا غریب۔ بینوا توجرو۔

الجواب مسجد میں شیرینی لے جائیں گے یا نماز یوں کو کھلائیں گے، یہ کوئی نذر شرعی نہیں جب تک کہ خاص فقراء کے لئے نہ کہے اسے امیر فقیر جس کو دے سب کھاسکتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۴۱ (ب) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مردہ کے نام کا کھانا جو امیر و غریب کو کھلاتے ہیں کس کو کھانا چاہئے اور کس کو نہیں اور یوں بھی کہتے ہیں کہ مردہ کے نام کا کھانا مصلیٰ امیر غریب سب کو کھلاتے ہیں جائز ہے یا نہیں۔ بینوا توجرو۔

الجواب مردہ کا کھانا صرف فقراء کے لئے ہے عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں یہ منع ہے غنی نہ کھائے کما فی فتح القدیر و مجمع البر کات۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۴۲ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سورج کدو یعنی پیٹھا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجرو۔

الجواب: پیٹھا حلال ہے۔ خلق لكم ما فی الارض۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ البقرہ ۲۶

مسئلہ ۴۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ختنہ کی تقریب میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ بینوا توجرو۔

الجواب درست ہے کہ یہ سرو ہے اور سرور میں دعوت سنت ہے بخلاف طعام موت کے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۴ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص منت کسی قسم کی نمازو زہ حج صدقہ مانے اور بغیر ادا کئے ہوئے مر گیا اس کے اس حق کے ادا کیا کیا صورت ہے؟ بینوا توجرو۔

الجواب اگر وصیت کر گیا ادا واجب ہے اور وصیت تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ حج کرائیں صدقہ دیں، نمازو زہ کا فدیہ دس اور اگر وصیت نہ کی اور وارث بالغ اس کی طرف سے حج کرے یا کرائے اور اپنے حصہ میں سے صدقہ فدیہ دے تو بہتر و موجب اجر ہے ورنہ مطالبہ نہیں میت نے اگر ادا میں تفصیر کی تو اس پر مطالبہ ہے ورنہ اس پر بھی نہیں جو ہرہ نیڑہ در مختار میں ہے۔

ادا مات من علیه زکوٰۃ او فطر او کفارۃ او نذر لم تؤخذ من تركته عندنا الا يتبرع ورثته بذلك وهم من اثيل التبرع ولم يجبرا واعلیه وان اوصی تنفذ من ثلث۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۲۵ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ دو بھائی کافر ہیں ایک مسلمان ہو گیا توبہ وہ بھائی کافر اس کو حق حصہ نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمارے مذہب سے نکل گئے تمہارا حق کیا ہے تو اس مسلمان بھائی کا حق ہو گا یا نہیں؟
بینوا توجروا۔

الجواب اگر باپ کا ترکہ دونوں بھائیوں نے پایا تھا اب ایک مسلمان ہو گیا تو وہ اپنے حصہ کا مالک ہے مسلمان ہونے سے ملکیت زائل نہ ہوئی ہاں اس کے اسلام کے بعد ان کا فروں میں جو مر اس کا ترکہ اسے نہیں ملے گا۔ لا خلاف الدین۔
والله تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۲۶ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بزرگوں کے مزار پر عرسوں میں یا اس کے علاوہ عورتیں جاتی ہیں پاکی یانا پاکی کی حالت میں بھلائی کی طلب و حاجت برائی کے لئے اور وہاں پہنچتی ہیں تو اس قبرستان میں ان کا ٹھہرنا جائز ہے یا نہیں اگر یہ باتیں بری ہیں تو اس بزرگ میں تصرف و قوت اس کے روکنے کی ہے یا نہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ دربار بزرگان میں آنے والے ان کے مہمان ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں اور جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ لوگ اپنے مزار سے تصرف نہیں کر سکتے ہیں اور یہ دلیل لاتے ہیں کہ اگر وہ تصرف کر سکتے ہیں تو وہاں رندیاں گاتی بجائی ناچحتی ہیں عورتیں غیر محروم رہتی ہیں ان کے بچے پیشاب کرتے ہیں تو کیوں روکتے یہ کہنا ان لوگوں کا اور ان کی یہ دلیل صحیح ہے یا نہیں اور اس کا کیا جواب ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب عورتوں کو مزارات اولیاء و مقابر عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے اولیاء کرام کا مزارات سے تصرف کرنا بے شک حق ہے اور بیہودہ دلیل مغض باطل اصحاب مزارات دائرہ تکلیف میں نہیں وہ اس وقت مغض احکام تکوینیہ کے تابع ہیں سینکڑوں ناخدا مظاہر لگوں میں کرتے ہیں اللہ عزوجل تو قادر مطلق ہے کیوں نہیں روکتا حاضران مزار مہمان ہوتے ہیں مگر عورتیں ناخواندہ مہمان ہیں۔ والله تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۷ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ قوائی جو عرسوں میں یا ان کے علاوہ ہوتی ہے جس میں سوال عقیدہ غزلیات کے عاشقانہ آلات یعنی مزار میر کے ساتھ بجائے جاتے ہیں جائز ہیں یا نہیں بزرگ لوگ جو اس میں شریک ہوتے ہیں بلکہ بعض کی نسبت وصال ہو جانا بھی سنا جاتا ہے یہ فعل ان کا کیسا ہے اگر یہ برا ہے تو خانقاہوں میں پشتہ پشت سے ہوتی چلی آتی ہیں خلاف ہے یا نہیں اور ایسی خانقاہوں میں جانا اور ارادت اختیار کرنا اور انہیں بہتر سمجھنا اور ان کے سامنے سرنیاز خم کرنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب خالی قوائی جائز ہے اور مزامیر حرام زیادہ غلواب متبان سلسلہ عالیہ چشتیہ کو ہے اور حضرت سلطان الشاعر محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوائد الفواد شریف میں فرماتے ہیں مزامیر حرام است حضرت محمد شرف الملہ والدین سید منیری قدس سرہ نے مزامیر کو زنا کے ساتھ شمار کیا ہے۔ اکابر اولیا نے ہمیشہ فرمایا ہے کہ مجرد شہرت پر نہ جاؤ جب تک میزان شرع پر مستقیم نہ دیکھ لو پیر بنانے کے لئے جو چار شرطیں لازم ہیں اس میں ایک یہ بھی کہ مخالفت شرع مطہر آدمی خود اختیار نہ کرے ناجائز فعل کو ناجائز ہی جانے۔ اور ایسی جگہ کسی ذات خاص سے بحث نہ کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۸ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بزرگوں کے مزار سے جو چارغ کی روشنی غینی ہوتی ہے یہ کیسی ہے اور اس سے صاحب مزار کی بزرگی ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب اگر من جانب اللہ ہے تو ضرور بزرگی ثابت ہوتی ہے اور اگر بزرگی ثابت ہے تو من جانب اللہ ہے ورنہ امر محتمل ہے شیطان ایسے کر شے دکھاتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ازواج مطہرات سے ایک بی بی جب انہیں میں جاتیں ایک شمع روشن ہو جاتی۔ ایک روز حضور نے ملاحظہ فرمایا اسے بحمدیا اور فرمایا یہ شیطان کی جانب سے ہے پھر ایک ربانی نوران کے ساتھ فرمایا کما فی بهجة الاسرار و معدن الانوار۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۹ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ قبر پر درخت لگانا اور یا وار کھینچنا یا قبرستان کی حفاظت کے لئے اس کے چاروں طرف کھوکھو کر جس میں جدید قدیم قبریں بھی ہیں محاصرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب حفاظت کے لئے حصار بنانے میں حرج نہیں اور درخت اگر سایہ زائرین کے لئے ہوں تو اچھا ہے مگر قبر سے جدا ہوں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ظاہروں اللہ یعنی زندہ اور صاحب مزاروں اللہ کے مابین ظاہر طریقہ سے ہم کلام ہونے کی کوئی خبر ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب بکثرت ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الصدور وغیرہ میں مذکور ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اللہ عزوجل کے کتنے نام ہیں اور شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے؟ بینوا توجروا۔

الجواب اللہ عزوجل کے ناموں کا شمار نہیں اس کی شان میں غیر محدود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے پاک بھی بکثرت ہیں کہ کثرت اسماء شرف مسکی سے ناشی ہے آٹھ سو سے زیادہ مواہب و شرح مواہب میں ہیں اور فقیر نے تقریباً چودہ سو پائے اور حصر ناممکن۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۲ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص میں خدا ہی کی تعریف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی؟ بینوا توجروا۔

الجواب سورہ فاتحہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مدح ہے الصراط المستقیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انعمت علیہم کے چاروں فرقوں کے سردار انبیاء ہیں انبیاء علیہم السلام کے سردار مصطفیٰ ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) شیخ محقق نے اخبار الاخبار میں بعض اولیاء کی ایک تفسیر بتائی جس میں انہیں نے ہر آیت کو نعت کر دیا ہے اس میں سورہ اخلاص بھی داخل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جو بزرگ عالم حیات میں اپنے معتقدوں کو تعلیم دیتے ہیں اگر بعد وصال کے بھی خواب میں تعلیم کریں تو اس پر یعنی خواب کی باتوں پر شرع کی رو سے چلنा کیسا ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب اچھے خواب پر عمل خوب ہے اور اچھا وہ کہ موافق شرع ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۴ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مولیٰ علی نے لال کافر کو مارا اور وہ بھاگا اور ہنوز زندہ ہے آیا اس کی خبر حدیث سے ہے اور کب تک زندہ رہے گا اور پھر ایمان لائے گا انہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب یہ بے اصل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۵ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ حنا نکڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں نالاں تھی۔ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ بینوا توجروا۔

الجواب وہ جنت کا ایک درخت کیا جائے گا کما فی الحدیث۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۶

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ حضرات منصور و سرمنے ایسے الفاظ کہے جن سے خدا تعالیٰ ثابت ہوتی ہے تو دار پر آئے اور کھال کھینچی گئی لیکن وہ ولی اللہ گئے جاتے ہیں اور فرعون شداد ہامان، نمرود نے دعویٰ کیا تو مخلد فی النار ہوئے اس کی کیا وجہ ہے؟

الجواب ان کافروں نے خود کہا اور ملعون ہوئے اور انہوں نے خود نہ کہا اس نے کہا جسے کہا شایاں ہے آواز بھی انہیں سے مسou ہوئی جیسے موئی علیہ السلام نے درخت سے سنانی انا الیه - "میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہاں کا۔" کیا درخت نے کہا تھا حاش بلکہ اللہ نے یو ہیں یہ حضرات اس وقت شجر موئی ہوتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۷

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام کہ جس زمین سے مال گزاری مالک لیتا ہے اور میں اگر پانی نہ ہرا اور مچھلی نہ ہری تو

مالک کہتا ہے کہ یہ مچھلی ہماری ہے اگر رعایانہ دے تو گنہگار تو نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب: مباح مچھلی جو پڑ لے اسی کی ہے مالک کو اس پر دعویٰ نہیں پہنچتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۸ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل میں کہ:

(الف) طول قیام کثرت رکوع و تجوید سے احباب ہے یا نہیں؟

(ب) نماز کے اندر اگر ٹوپی گر جائے تو اٹھانا چاہئے یا نہیں؟

(ج) امام قرأت یا رکوع کو کسی مقتدى کے واسطے دراز کر سکتا ہے یا نہیں جب کہ مقتدى وضو کر رہا ہو یا مسجد میں آگیا ہو اور یہ امام کو

معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص ہے کہ عنقریب شریک ہونا چاہتا ہے باس صورت رکوع میں کچھ دیر کر دے تو جائز ہے یا نہیں؟

(د) وتر میں قبل دعا قنوت کے سہوار کوع کیا اور دو ایک تسبیح بھی پڑھ چکا ہے اب خیال ہوا اور کھڑے ہو کر قنوت پڑھی تو اس صورت میں سجدہ سہولازم ہے یا نہیں؟

(ه) ایک آیت مایجوز بہ الصلوٰۃ کی کتنی مقدار ہے؟

الجواب

(الف) ہاں طول قیام احباب ہے، رد المحتار میں ہے المذاہب المعمد ان طول القیام احباب اسی میں ہے المذهب المعمدان

طول القیام احباب اسی میں ہے قول الامام هو الممعج بل هو قول الكل

(ب) اٹھائیں افضل ہے جب کہ بار بار نہ گرے۔ اور اگر تزلیل و انسار کی نیت سے سر پر ہنر ہنچا ہے تو نہ اٹھائی افضل در مختار میں ہے سقطت قلنستوٰہ فاعادتها افضل الا اذا احتاجت بکثیر او عمل کثیر رد المحتار۔ الظاهر ان افضلیتہ

اعادتها حیث لم یقصد بتر کہا العدل۔

www.alahazrat.net

(ج) اگر خاص کسی شخص کی خاطر اپنے کسی علاقہ خاصہ یا خوشامد کے لئے منظور ہو تو ایک بار تسبیح کی قدر بھی بڑھائیں گی ہر کمزور اجازت نہیں بلکہ ہمارے امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سخنی علیہ امر عظیم یعنی اس پر شرک کا اندیشہ ہے کہ نماز میں اتنا عمل اس نے غیر اللہ کے لئے کیا اور اگر خاطر خوشامد منظور نہیں بلکہ عمل حسن پر مسلمان کی اعانت، (اور یہ اس صورت میں واضح ہوتی ہے کہ یہ اس آنے والے کونہ پہچانے یا پہچانے اور اس کا کوئی تعلق خاص اس سے نہ ہونے کوئی غرض اس سے اٹھی ہو) تو رکوع میں دو ایک تسبیح کی قدر بڑھادینا جائز بلکہ اگر حالت یہ ہو کہ یہابھی سراٹھائے لیتا ہے تو وہ رکوع میں شامل ہونے نہ ہونے میں شک میں پڑھا جائے گا تو بڑھا دینا مطلوب اور جو ابھی نماز میں نہ ملے گا مسجد میں آیا وضو وغیرہ کرے گا یا وضو کر رہا ہے اس کے لئے قدر مسنون پر نہ بڑھائے بلکہ اگر بڑھانا موجب ثقل حاضرین نماز ہو گا تو سخت ممنوع و ناجائز المسالہ واردہ فی الکتب وبسطها الشامی فی صفة الصلوة وما قلتہ عطر التحقیق۔

(د) تسبیح پڑھ چکا ہو یا ابھی کچھ پڑھنے پایا ہوا سے قوت کے لئے رکوع چھوٹنے کی اجازت نہیں اگر قنوت کیلئے قیام کی طرف عود کیا گناہ کیا پھر قنوت پڑھنے یا نہ پڑھنے اس پر سجدہ کہو ہے۔ درمختار میں ہے۔ لonusی القنوت ثم تذكره في الرکوع لا يقتضي له لفوات محله ولا يعود الى القيام فان اعاد وقفت ولم بعد الرکوع لم تفسد صلاته ويسجد للسهو قنت اولا لزواله عن محله اه اقول وقوله ولم بعد الرکوع اى ولو لم يعده لانه لم يرتفض بالعود للقنوت لكان لو اعاده فسدت لان زيادة مادون رکعته لا تفسدنعم لا يكفيه اذن بسجود السهو لانه اخر السجدة بهذا الرکوع عمده فعليه الاعادة سجد للسهو ولم يسجد۔

(۵) وہ آیت کہ چھ حرف سے کم نہ ہو اور بہت نے اسکے ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ صرف ایک کلمہ کی نہ ہو تو ان کے نزدیک مدهماتن اگرچہ پوری آیت اور چھ حرف سے زائد ہے جو از نماز کو کافی نہیں۔ اسی کو منیہ ظہیریہ و سراج وہاج وفتح القدیر و بحر الرائق و درمختار وغیرہ میں اصح کہا اور امام الاجل علی اس بیہ جابی و امام ملک العلماء و ابو بکر مسعود کاشانی نے فرمایا کہ ہمارے امام عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صرف مدہماتن سے بھی نماز جائز ہے اور اس میں اصلاح ذکر خلاف نہ فرمایا درمختار میں ہے۔ اقلہا سنتہ احرف ولو تقدیر اکلم یلد اذا کانت کلمة فالا صح عدم الصحة۔

ہندی میں ہے الاصح انه لا يجوز كذا فى شرح الجمع لا بن ملک و هكذا فى الظہیره والسراج الوهاج وفتح القدیر۔

فتح القدیر میں ہے:

لو کانت کلمة۔ نحو مدها متن، ض، ق، ن، فان هذه ایات عند بعض القراء الاصح انه لا يجوز لانه یسمی
عاد الا قارما۔

بح الرائق میں اسے ذکر کر کے فرمایا:

کذا دکره الشارحون وهو مسلم في ص و نحوه اما في مدھامتن فرکدر الاسبیجابی وصاحب البدائع انه
يجوز على قول ابی حنيفة من غير ذكر خلاف بين المشائخ۔

بدائع میں ہے:

فی ظاهر الروایة قدر ادنی المفروض بالایة التامة کقوله تعالیٰ مدها متن وما قاله ابو حنیفة اقیس، اقول۔
اظہر یہی ہے مگر جب کہ ایک جماعت اسے ترجیح دے رہی ہے تو احتراز ہی میں احتیاط ہے۔ خصوصاً اس حالت میں کہ اس کی
ضرورت نہ ہو گی مگر مثل فجیر میں جبکہ وقت قدر واجب سے کم رہا ہو ایسے وقت ثم نظر کہ بالاجماع ہمارے امام کے نزدیک ادائے
فرض کو کافی ہے۔ مدھامتن سے جلد ادا ہو جائے گا کہ اس میں حرف بھی زائد ہیں اور ایک متصل ہے جس کا ترک حرام ہے ہاں
جسے یہی یاد ہواں کے بارے میں وہ کلام ہو گا اور احوال عادہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۹ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر عورت حج کو جانا چاہتی ہے اور شوہراس کا اس کو منع کرے کسی
غدر سے توجیختی ہے۔ بغیر اجازت شوہر کے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب اگر محروم ساتھ ہے اور حج اس پر فرض ہے تو جائے گی ورنہ نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ شوہر کسی کام کے کرنے کا حکم کرے اور وقت نماز اتنا ہے کہ اگر اس
کے حکم کی تعییل کرے تو پھر نماز کا وقت باقی نہیں رہے گا تو اس صورت میں عورت نماز پڑھے یا حکم شوہر بجالائے؟ بینوا توجروا۔
الجواب نماز پڑھے ایسا حکم ماننا حرام ہے۔

مسئلہ ۴۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے قیام میلاد شریف اگر مطلقاً ذکر خیر کی وجہ سے کیا جاتا ہے
تو اول وقت سے کیوں نہیں کیا جاتا اس لئے کہ اول سے ذکر خیر ہی ہوتا ہے اور اگر اس خیال سے کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
رونق افروز ہوتے ہیں۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت سے رونق افروز نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو ابتدائے مجلس مبارک قیام
ہی سے کیوں نہیں ہوتا اور اگر نہیں کیا تو فظیلہ فولد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کے وقت جلوہ افروز ہوتے اور تا قیام تشریف فرماتے اور
فوراً لوگوں کے بیٹھتے ہی تشریف لے جاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا آنالوگوں کے قیام و نیز میلاد خواں کے فظیلہ فولد

کہنے پر موقوف ہے کیا یہ زید کا کہنا لغو ہے یا نہیں اور اس کا کافی جواب کیا ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب زید کی یہ سب حماقتیں جھالتیں سفاقتیں ہیں۔ مہمل والا یعنی سوق اپنی طرف سے ایجاد کئے اور جو وجہ حقیقی ہے اس کی طرف اسے ہدایت نہ ہوئی تعظیم ذکر اقدس مثل تعظیم ذات انور ہے صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم ذات باختلاف حالات مختلف ہوتی ہے معظم کے قدم کے وقت قیام کیا جاتا ہے اور اس کے حضور کے وقت با ادب اس کے سامنے بیٹھنا تعظیم ہے۔ ذکر شریف میں بھی ذکر قدم کی تعظیم قیام سے ہے اور باقی وقت کی تعظیم با ادب قعود سے ولکن ولوہابیہ قوم لا یعقلون۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۲ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ زید معاذ اللہ یہ کہے کہ میں عیسائی یا وہابی یا کافر ہو جاؤں گا۔ نام ایک فرقہ کا لیا آیا وہ نہیں میں سے ہو گا یا نہیں یا یہ کہے کہ جی چاہتا ہے کہ غیر مقلد ہو جاؤں یا یہ کہے کہ غیر مقلد ہونے کو جی چاہتا ہے یہ قول کیسا ہے اگرچہ کسی کو چھیڑنے یا مذاق کی غرض سے کہے؟ بینوا توجروا

الجواب جس نے جس فرقہ کا نام لیا اس فرقہ کا ہو گیا مذاق سے کہے یا کسی دوسرے وجہ سے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (اس پر کوئی یہ کہے کہ ہم نے کہا کہ مٹھائی کھاؤں گا تو کہنے سے ہم نے کھایا تو نہیں اسی طرح سے اگر ہم کسی فرقہ باطلہ کا نام لیں (کہ اس فرقہ سے ہو جاؤں گا) تو اس فرقہ سے نہ ہونا چاہئے (ج) صرف کہنے سے آدمی کھاتا تو نہیں اور کفر و دین و اسلام کہنے سے ہوتی ہیں (س) اس سے لازم آتا ہے کہ اگر کافر کہے کہ مسلمان ہو جاؤں گا تو مسلمان ہو جائے گا حالانکہ نہیں (ج) کافر کے اس قول سے صرف اسلام کا پسند کرنا لازم آتا ہے اور پسند سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک اسلام نہ لائے اور مسلمان کا دوسرا فرقہ باطلہ کو پسند کرنا لازم خود کفر ہے لہذا یہاں کفر پایا جائے گا وہاں اسلام نہیں پایا جائے گا جب تک اسلام نہ لائے۔

مسئلہ ۴۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جو شخص نماز میں تقدیل ارکان نہ کرے یعنی رکوع کے بعد سیدھا نہ کھڑا ہو سجدہ کے بعد بیٹھنے نہ پائے کہ دوسرا سجدہ کرے بلکہ ایسا دیکھا گیا کہ اول سجدہ سے ایک دو باشست سراٹھا یا بعدہ دوسرا سجدہ کر لیا یہ شخص کی نماز ہوگی یا نہیں؟

الجواب ایسی نماز قریب نہ ہونے کے ہے اور اس کا پھیرنا واجب اور پڑھنا گناہ۔ حدیث میں فرمایا کہ اگر سانحہ بر س ایسی نماز پڑھے گا قبول نہ ہوگی دوسری حدیث میں ہے:

انا نحاف لومت على ذلك لمت على غير الفطرة اى غير دين محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ہم خوف کرتے ہیں اگر تو اس حال پر مرا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہ مرے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۴ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ عورت بغیر اجازت شوہر کے مرید ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر بغیر

اجازت ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ بینوا توجروا۔
الجواب ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۵ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ لڑکی بالغہ ہو گئی اور فی الحال کوئی کفونہیں ملتا کہ جس کے یہاں نکاح ہو، غیر کفوہ ملتے یعنی کم حیثیت والے یا لڑکی کے والدین سے زائد حیثیت کے ملتے ہیں مگر ذاتاً کامل اچھے نہیں مثلاً لڑکے کے آبا و اجداد اچھے تھے لیکن ان کی جو رو طوائف تھی بعد نکاح اس سے یہ لڑکا ہوا تو دونوں میں کس کے یہاں کرنا بہتر ہے یا کفوا مفترر ہے۔
 بینوا توجروا۔

الجواب فقط مالی حیثیت میں کم ہونا منع کفایت نہیں کفوہ نہیں ہے جس کے ساتھ اس عورت کا نکاح اس کے اولیاء کیلئے باعث نگ و عار ہو باپ اگر شریف القوم ہے اور طوائف سے بعد اس نے نکاح کیا تو اس سے بچے کے نسب پر حرف نہیں آتا۔
 واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اول رکعت میں ایک رکوع یا سورہ پڑھی دوسری رکعت میں اگر اس سے مقدم کی سورہ یا رکوع زبان پر سہوا جاری ہو جائے تو اسی کو پڑھے یا مخرکی سورہ یا رکوع پڑھے اس کو چھوڑ دے اگر پڑھ کر نماز تمام کر لی تو ہوئی یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب زبان سے سہوا جس سورہ کا ایک کلمہ نکل گیا اسی کا پڑھنا لازم ہو گیا مقدم ہو خواہ مخرا خواہ مکرہاں قصداً تبدیل ترتیب گناہ ہے اگر چہ نماز جب بھی ہو جائے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ:

- (۱) یہ کہ بعد اذان ثانی کے پہلے اردو اشعار پڑھ لئے جائیں بعد وہ فوراً خطبہ شروع کر دیا جائے۔
- (۲) یہ کہ بعد خطبہ پڑھنے کے فوراً اردو پڑھیں بعد نماز کو کھڑے ہوں۔ بینوا توجروا

الجواب دونوں صورتیں خلاف سنت ہیں غیر عربی کا خطبہ میں ملانا ترک سنت متوارش ہے نہ ترک واجب۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۸ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ قصر روزہ نماز کے لئے کہاں تک حد رکھی گئی ہے بذریعہ ریل دوش بدوں کے سفر میں قصر روزہ نماز ہو گا یا نہیں اگر نہیں تو کتنے دن کے سفر میں قصر چاہئے؟ بینوا توجروا۔

الجواب ساڑھے ستاون میل مدت سفر ہے ریل میں ہو خواہ پیادہ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۹

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں اس مسئلہ میں کہ بوقت زوال قرآن پڑھنا چاہئے یا نہیں؟ بینوا توجرو۔

الجواب آفتاب نکلتے ڈوبتے اور ٹھیک دوپہر کو قرآن مجید کی تلاوت کی جگہ اور ذکر الہی درود شریف وغیرہ پڑھیں۔ وہ میں وقت تلاوت کے لائق نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ آیت اللہ پڑھنا یا رکوع یا وقف کرنا کیا ہے کیا قباحت ہے اگر جس آیت پر لہ ہے رکوع کر دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں مثلاً اپر سے پڑھتا آیا اور صم بکم عمدی فہم لا یرجعون للہ پر رکوع کر دیا تو جائز ہے یا کچھ حرج بھی ہے؟ بینوا توجرو۔

الجواب ہر آیت پر وقف مطلقاً بلا کراہت جائز بلکہ سنت سے مردی ہے رہا رکوع اگر معنے تام ہو گئے جیسے آیہ مذکورہ میں کہ اسکے بعد دوسرا تمثیل مستقل ارشاد ہوئی ہے جب تو اصلاً حرج نہیں اور اگر معنی بے آیت آئندہ کے ناتمام ہیں تو نہ چاہئے خصوصاً امثال فویل للمصلین للہ میں کہ نہایت قبیح ہے اور ثم رد دنه اسفل سافلین للہ میں قبیح اس سے کم ہے نماز بہر حال ہو جائے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں اس مسئلہ میں کہ سوائے شراب کے بھنگ افیون۔ تازی۔ چس کوئی شخص اتنی مقدار میں پئے کہ اس سے نشہ نہ آئے تو وہ شخص حرام کا مرکب ہوا یا نہیں؟ بینوا توجرو۔

الجواب نشہ بذات حرام ہے نشہ کی چیزیں پینا جس سے نشہ بازوں کی مشابہت ہو اگرچہ حد نشہ تک نہ پہنچے یہ بھی گناہ ہے یہاں تک کہ علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ خالص پانی دور شراب کی طرح پینا بھی حرام ہے ہاں اگر دو اکے لئے کسی مرکب میں افیون یا بھنگ یا چس کا اتنا جزو لا جائے۔ جس کا عقل پر اصلاً اثر نہ ہو حرج نہیں بلکہ افیون میں اس سے بھی بچنا چاہئے کہ اس خبیث کا اثر ہے کہ معدے میں سوراخ کر دیتی ہے جو افیون کے سوا کسی بلا سے نہیں بھرتے تو حواہی خواہی بڑھانی پڑتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۵۲ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ ایک شخص سامنے سے گذراد و سرے سے کہا صلوٰہ ہو گئی اور جماعت تیار ہے اس نے کہا نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجا ہوں جب یہ ذکر ایک تیرے شخص کے سامنے ہوا اور لوگوں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے تو اس نے کہا کہ ایسی باتوں سے کفر نہیں عائد ہوا کرتا حالانکہ یہ شخص عاقل بالغ ہے اس شخص کا کیا حکم ہے؟ بینوا توجرو۔

الجواب اس کہنے سے وہ شخص کافر ہو گیا اس کی عورت نکاح سے نکل گئی اور یہ تیرا بھی نئے سرے سے کلمہ اسلام پڑھے اور اپنی عورت سے اس کے بعد نکاح کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵۳

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے بعد مکان چھوڑنے اپنے دو سال کے ایک خط صرف بنا موارث زوجہ اپنی کے اس مضمون کا لکھا کہ ہم اپنی زوجہ کو طلاق دیتے ہیں اب اس کو بھی چاہئے کہ گھر سے میرے چل جائے اب ہمارا آنا نہیں ہو گا اور اس کا نشان و پتہ نہیں کہ کہاں چلا گیا۔ حروف اس خط کا اس کے دوسرے خطوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے شہہ کو خل نہیں۔ آیا طلاق ہوئی یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب اگر عورت باور کرتی ہے کہ یہ خط اس کے شوہر ہی کا ہے تو اسے اختیار ہے کہ بعد عدت جس سے چاہئے نکاح کر لے۔ کمانص علیہ فی الہندیۃ عن محیط السرخسی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵۴ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اسلام اس مسئلہ میں کہ ایام حمل میں طلاق دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو عدت اس کی کیا ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب حمل میں طلاق نہ دی جائے اگر دے گا ہو جائے گی عدت وضع حمل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵۵ کیا فرماتے ہیں علمائے دین شرع متین دریں مسئلہ کہ امام نے سورہ الہم پورے رکوع یعنی ولهم عذاب عظیم ۵ تک پڑھی جس میں الہم ذلک الکتب لا ریب فیہ ۵ هدی اللہ تھیں ۵ الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقہم ینفقون ۵ تک ٹھیک پڑھی بعدہ بجائے والذین یومنون بما انزل الیک کے والذین یومنون بالغیب پڑھ کر آگے بڑھ گئے اور آگے بجائے ان الذین کے والذین پڑھی اور سجدہ سہو بھی کیا نماز ہوئی یا نہیں صرف آیات مذکورہ کے پڑھنے سے نماز ہو گئی یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب نماز ہو گئی سجدہ سہو کی بھی کوئی حاجت نہ تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵۶ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کسی پنوٹی یا کسی سرمه فروٹ کو دس یا پانچ روپے کوئی شخص دے اور اس سے کہے کہ جب تک میرا روپیہ تمہارے ذمہ رہے مجھے پان بقدر خرچ روزانہ کے دیا کرو اور جب روپیہ واپس دو گے تو مت دینا یہ صورت جائز ہے یا نہیں اور نہیں توجہ اس کی کوئی صورت ہے۔ بینوا توجروا۔

الجواب یہ صورت خاص سودا اور حرام ہے۔ سود کے جواز کی کوئی شکل نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵۷

کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع میں اس مسئلہ میں کہ نصاب کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا بمقدار اس کے روپیہ موجود ہوں تو جب قربانی واجب ہے یا کہ اتنی مقدار کی مالیت ہو چاہے اس کے پاس کاشت ہو یا چوپائے ہوں اگر ایک شخص کے پاس ساٹھ روپیہ کی بھیں یا نیل ہے تو اس پر قربانی ہے یا نہیں کسی شخص کو ہزار روپیہ ماہوار کی آمدنی ہے لیکن بزمانہ قربانی ایک روپیہ قربانی ایک روپیہ بھی اس کے پاس موجود نہیں تو کیا وہ شخص قرض لے کر قربانی کرے گا یا نہیں۔ علی ہذا القیاس کاشت فروخت کر کے قربانی کرے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب قربانی واجب ہونے کے لئے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ ایام قربانی میں اپنی تمام اصلی حاجتوں کے علاوہ چھپن روپیہ کے مال کا مالک ہو چاہے وہ مال نقد ہو یا نیل بھیں یا کاشت کاشتکار کے ہل کے نیل اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہیں ان کا شمار نہ ہو۔ ہزار روپیہ ماہوار کی آمدنی والا آدمی قربانی کے دن چھپن روپیہ کے مال کا مالک نہ ہو یہ صورت خلاف واقعہ ہے اور اگر ایسا فرض کیا جائے کہ اس وقت وہ فقیر ہے تو اس پر قربانی نہ ہوگی اور جس پر قربانی ہے اس وقت نقد اس کے پاس نہیں وہ چاہے قرض لے کر کرے یا اپنا کچھ مال بیچے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵۸ کیا فرماتے ہیں علمائے احناف اس مسئلہ میں کہ امام کوتین آیتوں کے بعد معنی میں فساد ہو گیا جیسا کہ سورہ یوسف کے شروع میں چار آیات کے بعد رایتهم کی جگہ رایتهم پڑھا اس حالت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب فساد معنی اگر ہزار آیت کے بعد ہونماز ہو جاتی رہے گی مگر یہاں رایتهم میں تکا زبر پڑھنا مفسد نہیں نماز ہو گئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵۹ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر اذان نہ ہوئی ہو یا ہوئی ہو مگر غلط تو نماز میں کیا خرابی ہے جب کہ ان صورتوں میں نماز پڑھی۔ نماز تراویح حافظ نابالغ پڑھا سکتا ہے یا نہیں۔ نابالغ اذان دے سکتا ہے یا نہیں۔ اگر دے دی ہو تو لوٹائی چاہئے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب

(۱) بغیر اذان کے جماعت کرنا مکروہ ہے اور نماز مکروہ ہوگی اور اذان اگر ایسی غلط ہوئی کہ شرعاً اذان نہ کھبری تو وہ بھی بغیر اذان ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) نابالغ کے پیچھے بالغ کی کوئی نماز نہیں ہو سکتی اگرچہ تراویح یا نفل محض ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) نابالغ اگر عاقل ہے کہ اس کی اذان اذان سمجھی جائے تو حرج نہیں اور اگر اس کی اذان کو اذان نہ سمجھیں نقل مگان کریں گے تو لوٹائی جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۰

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے بعد ختم ہوتے وقت سحری کے حق پیا بگمان شب کے یعنی وقت سحری کے تو اس کاروڑہ ہوا یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب اگر بعد طلوع صبح صادق پیاروڑہ نہ ہوا اسے پورا کرے اور قفار کئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سونے چاندی۔ پیتل کا نسہ وغیرہ کی انگوٹھی یا بٹن یا گھڑی کی زنجیر مرد کو پہننا جائز ہے یا نہیں اور ان کو پہن کر نماز پڑھانا درست ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب چاندی کی ایک انگوٹھی ایک گنگ کی سائز ہے چار ماشہ سے کم وزن کی مرد کو پہننا جائز ہے اور دو انگوٹھیاں یا کئی گنگ ایک انگوٹھی یا سائز ہے چار ماشہ خواہ زائد چاندی کی سونے کا نے پیتل لو ہے تا بنے کی مطلقاً ناجائز ہیں گھڑی کی زنجیر سونے چاندی کی مرد کو حرام اور دھاتوں کی منوع ہے اور جو چیزیں منوع کی گئی ہیں ان کو پہن کر نماز اور امامت مکروہ تحریکی ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۲ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سونے چاندی کے بلا زنجیر کے بٹن مرد کو درست ہیں یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب بے زنجیر کے بٹن چاندی سونے کے مرد کو جائز ہیں اور زنجیر دار منع ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۳ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص چاندی کے زنجیر دار بٹن پہنے بلکہ اس خیال سے پہنے کہ دوسری قسم کے بٹن جلدیوڑ جاتے ہیں تو پہننا درست ہیں یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب اس نیت سے ناجائز جائز نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۴ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ وہ شخص جس نے سنتیں فجر کی نہ پڑھیں ہوں اور دس بارہ منٹ طلوع میں باقی ہوں تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں اسی طرح ظہر کی سنتیں بغیر پڑھے امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب اگر وقت بقدر فرض ہی باقی ہے تو آپ ہی سنتیں چھوڑے گا پھر اگر جماعت میں کسی نے ابھی سنتیں نہ پڑھیں یا جس نے پڑھیں وہ قابل امامت نہیں تو جس نے نہ پڑھیں وہی امامت کرے گا اور اگر وقت میں وسعت ہے تو سنت قبلیہ کا ترک کرنا گناہ ہے اور اس کی امامت مکروہ۔ دس بارہ منٹ میں سنتیں اور فرض دونوں ہو سکتے ہیں سنتیں پڑھ کر نماز پڑھائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۶۵ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ نماز کے واسطے سوتے آدمی کو جگانا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب ضروری ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۶ کیا فرماتے ہیں علمائے احتجاف اس مسئلہ میں کہ تکبیر کھڑے ہو کر نماز مسنون ہے یا بیٹھ کر؟
الجواب بیٹھ کر سے کھڑے ہو کر نماز مکروہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۷ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ امام رکوع میں ہے اور ایک شخص صرف ایک تکبیر کہہ کر شامل جماعت ہو گیا تو یہ تکبیر تحریمہ یعنی اولیٰ ہوئی یا مسنونہ اس صورت میں نماز اس مقتدی کی ہوگی یا نہیں۔ بینوا توجروا۔

الجواب اگر اس نے تکبیر تحریمہ کی یعنی سیدھے کھڑے ہوئے تکبیر کی کہ ہاتھ پھیلائے تو زانوں تک نہ جائے تو نماز ہو گئی اور اگر تکبیر انتقال یعنی جھکتے ہوئے تکبیر کی تو نماز نہ ہوگی اسے دو تکبیر کہنے کا حکم ہے تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقال۔ پہلی تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں اور دوسری تکبیر انتقال رکوع کو جاتے ہوئے درمحترم میں ہے:

ولو وجد الامام را كعا فکبر من خسيا ان الى القيام اقرب صح و لعنة نيته تكبيره الرکوع والله تعالى اعلم

مسئلہ ۶۸ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کو غسل کی حاجت ہے اگر وہ غسل کرتا ہے تو فجر کی نماز قضا ہوئی جاتی ہے تو ایسی حالت میں کیا کرے؟ بینوا توجروا۔

الجواب تمیم کر کے نماز پڑھ لے اور غسل کر کے پھر اعادہ کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۹ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ داڑھی منڈانے اور خنسی کرنے والا اور حد شرعی سے کم رکھنے والا فاسق ہے یا نہیں اور اس کے پیچھے نماز فرض خواہ تراویح پڑھنا چاہئے یا نہیں اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور وہ حشر کے دن کس گروہ میں اٹھے گا۔ بینوا توجروا

الجواب داڑھی منڈانے اور کترانے والا فاسق ملعون ہے اسے امام بنانا گناہ ہے فرض ہو یا تراویح کسی نماز میں اسے امام بنانا جائز نہیں۔ حدیث میں اس پر غصب اور ارادہ قتل وغیرہ کی وعیدیں وارد ہیں اور قرآن عظیم میں اس پر لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ داڑھی شرعی کتنی ہوئی چاہئے؟ بینوا توجروا۔

الجواب ٹھوڑی سے نیچے چار انگل چاہئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ طلوع آفتاب سے کتنی دیر بعد نماز قضا پڑھنے کا حکم ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب طلوع کے بعد کم از کم ۲۰ منٹ انتظار واجب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۲ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ قبروں کا پختہ بنانا رواہ ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب میت کے گرد پختہ نہ ہوا پر کا حصہ پختہ کر دیں تو حرج نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی سنی مسلمان کسی وہابی یا یہودی یا نصرانی یا کسی کافر سے بات چیت کرے یا کسی کے پاس بیٹھے یا نوکری کرے تو یہ مسلمان کافر ہو گیا یا نہیں اور اگر کافرنہ ہوا تو دوسرا شخص اس کو کافر کہے اس کے لئے کیا حکم ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب کافر اصلی غیر مرتد کی نوکری جس میں کوئی امر ناجائز شرعی کرنا نہ پڑے جائز ہے اور دنیوی معاملہ کی بات چیت اس سے کرنا اور اس لئے کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنا منع نہیں اتنی بات پر کافر بلکہ فاسق بھی نہیں کہا جا سکتا ہاں مرتد کے ساتھ یہ سب مطلقاً منع ہیں اور کافر اس وقت بھی نہ ہوگا مگر یہ کہ اس کے مذهب و عقیدہ کفر پر مطلع ہو کر اس کے کفر میں شک کرے تو البتہ کافر ہو جائے گا۔ بجز ثبوت وجہ کفر کے مسلمان کو کافر کہنا سخت گناہ عظیم ہے بلکہ حدیث میں فرمایا کہ وہ کہنا اسی کہنے والے پلٹ آتا ہے۔
والعیاذ باللہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۴ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید اپنی زوجہ کو اس کے والدین کے یہاں جانے کو اس وجہ سے منع کرتا ہے کہ ایک مکان ہے جس کا دروازہ اور صحن بھی ایک ہے جس میں زید کی زوجہ کے والدین ہیں اور دو غیر شخص کرایہ دار ہیں ایسی صورت میں زید کو اپنی زوجہ کے شرعاً روک لینے کا حکم ہے یا نہیں اگر بلا اجازت زید کی زوجہ چلی جائے تو زید کی اسزادے سکتا ہے؟

الجواب اگر وہاں شرعی پرده کا بند و بست ہو سکتا ہے تو زید اس کا بند و بست کرے اور عورت کو آٹھویں دن ماں باپ کے پاس صرف دن میں جانے کی اجازت دے رات کو وہاں نہ رہے ایسی حالت میں اتنے جانے سے نہیں روک سکتا اور اگر روک کے تو عورت آٹھویں دن بلا اجازت بھی بند و بست پرده کے ساتھ دن کے دن جا کرو اپس آسکتی ہے زید اگر اتنی بات پر سزا دے گا۔ ظالم ہوگا۔ اور وہاں اگر شرعی پرده کا بند و بست نہیں ہو سکتا تو بلاشبہ زید روک سکتا ہے بلکہ روکنے کا حکم ہے۔ اور عورت اگر بلا اجازت چلی جائے تو جب تک واپس نہ آئے اس کا نان و نفقة ساقط ہے اور زید اسے جائز سزا دے سکتا ہے کہ اولاد سمجھائے۔ نہ مانے تو اس سے الگ سوئے نہ مانے تو مارے مگر نہ مونہہ پر نہ ایسا کہ ضرب شدید ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۵ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذکر جلی کرنا جائز ہے یا نہیں اور آواز کس قدر بلند کر سکتا ہے کوئی حدیث ہے یا نہیں، حلقہ باندھ کر ذکر کرتے کرتے کھڑے ہو جانا اور سینہ پر ہاتھ مارنا، ایک دوسرے پر گر پڑنا، لپیٹ جانا، رونا، زاری کی دھوم مچنا کیسا ہے۔ بینوا توجروا۔

الجواب ذکر جلی جائز ہے حدیث یہ ہے کہ اتنی آواز نہ ہو جس سے اپنے آپ کو ایذا ہو یا کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو تکلیف پہنچے اور ذکر کرتے کرتے کھڑا ہو جانا وغیرہ افعال مذکورہ اگر بحالت وجود ہوں صحیح ہیں کوئی حرج نہیں اور معاذ اللہ ریا کے لئے بناؤت ہیں تو حرام بینہما وسط الایذ کر للحرام۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۷: کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ ایک شخص نماز نہیں جانتا اور نہ کلمہ یاد ہے اور جو اس سے کہا جاتا ہے کہ کلمہ یاد کرو اور نماز سیکھو تو کہتا ہے کہ ہم نہیں سیکھیں گے اور نہ ہم سے یاد ہو گا اور نہ ہم سے ہو سکے گا۔ پس شرعاً کیا حکم ہے تفصیل تحریر فرمائیے۔ اور وہ ایک انگریز کے یہاں ملازم ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب اس کوئئے سرے سے مسلمان ہونا چاہئے جس سے کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا جائے اور وہ انکار کرے اس کی نسبت علماء کی حکم کفر لکھا ہے نہ کہ جو کلمہ سیکھنے ہی سے انکار کرے۔ والیعاز باللہ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۶ فرماتے ہیں علمائے دین کہ برائے تعلیم مناظرہ دو سنی۔ ایک سنی اور ایک وہابی بن کر مباحثہ کریں ایک وہابیہ کے اعتراضات یا ان کی طرف سے جوابات پیش کرے۔ دوسرا سینوں کی طرف سے تو جائز و بہتر ہے یا نہیں علی ہذا القیاس دوسرے بدمذہوں کے مباحث مجلس عام نہ ہو گی۔ طلب ہوں گے اگرچہ مبتدی؟ بینوا توجروا۔

الجواب بلکہ اکراہ وہابی بناؤ وہابی ہونا ہے۔ کافرنہایا کافر ہونا ہے مناظرہ کا تمرن ساگر یا ٹھیکنہیں کہ وہابی ہی بن کر ہو وہاں اگر وہابی بننا نہ ہوا اور تمرن کے لئے وہابیہ کے شبہات ایک دوسرے پر پیش کر کے جواب سنے اور بحث کرے تو تین شرطوں سے جائز ہے:

(ا) یہ شبہات پیش کرنے والا مستقل مستقیم متحصلب سنی ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی شبہ خود اس کے قلب میں خدشہ ڈال کر متزلزل کر دے کہ بحث بالائے طاق ایمان ہی جائے۔

(ب) جب جواب شافی پالے بات نہ پالے کہ عنا د مظلقاً حرام ہے نہ کہ ایسی صورت میں۔

(ج) وہاں طلبہ خواہ غیر کوئی ایسا نہ ہو جس پر اس سے فتنہ و تذبذب کا اندیشہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

www.alahazrat.net مسئلہ ۷۷ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع تین اس مسئلہ میں اکثر مسلمان اپنی علمی سے مشرکین کی بابت کہتے ہیں۔ فلاں شخص فلاں کام میں یا اخلاق میں اچھا ہے یہ کہنا مسلمان کا کس حد تک جائز ہے اور کیا گناہ اس کے ذمہ عائد ہوتا ہے؟

بینوا توجروا

الجواب کسی دنیوی کام کہنا مثلاً کہنا تیرتا اچھا ہے یا گھوڑے پر اچھا چڑھتا ہے یا اچھا تو تا ہے حرج نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۷۸ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک طالب علم جس کا عرصہ قریب تین سال کا ہوا انتقال ہو گیا اس کی تجمیع و کفسن اہل محلہ کی جانب سے ہوئی تھی اس کے پاس کچھ سامان جو کہ اس کا ذاتی تھا کنجی بستر و چند کتابیں اور چار روپیہ نقد نکلے جو کہ اہل محلہ میں سے ایک شخص کے پاس امانتاً ب تک جمع ہے اس سامان وغیرہ کی بابت اس کے ورشہ کو مدرسہ منظر اسلام کے طالب علموں کے ذریعہ سے اطلاع دی گئی لیکن اس وقت تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں پایا گیا لہذا اس سامان کو کسی دوسرے طالب علم کے صرف میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب تلاش ورشہ میں کوشش کی جائے جب نا امیدی ہو جائے کسی غریب سنی طالب علم کو دے دیا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۷۹ کیا فرماتے ہیں علمائے دین کفر ہم اللہ تعالیٰ و نصر ہم وابد ہم واید ہم اس مسئلہ میں کہ ایک سینوں کے محلہ میں بکر قادیانی آکر بسازیدنی نے مردوں عورتوں کو اس کے گھر میں جانے سے اس سے خلاما میل جول حصہ بخڑھ رکھنے سے منع کیا ہندہ جس کے بیٹے وغیرہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہیں اس نے کہا کہ بڑے غمزیدہ پڑھ کر ملا ہو گئے ہم عذاب ہی بھگت لیں گے۔ اس بے چارے قادیانی کو دق کر رکھا ہے تو اب ہندہ کا کیا حکم ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب ہندہ نماز کی تحریر کرنے اور عذاب الہی کو ہلکا نہ کرنے اور قادیانی کو اس فعل مسلمانان سے مظلوم جانے اور اس سے میل جول چھوڑنے کو ظلم و ناقص سمجھنے کے سبب اسلام سے خارج ہو گئی۔ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی جب تک نئے سرے سے مسلمان ہو کر اپنے ان کلمات سے توبہ نہ کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۸۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک قادریانی مذہب ایسی جگہ آباد ہوا جہاں بالکل قطعاً مسلمان رہتے ہیں وہ قادریانی مسلمانوں کو بہکانا چاہتا ہے نیز ان کے یہاں کا اصول بھی یہی ہے کہ ناس بمحض مسلمانوں کو اخلاق و نرمی سے اپنی طرف کھینچ کر بہکا لیتے ہیں اس خوف سے جمیع مسلمانوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور کسی نے اس سے میل جوں نہ رکھا مگر اسی محلہ کا ایک سقہ اس قادریانی سے منوس ہو گیا اس کی بُلبُلی نے اپنے شوہر سقہ کو منع کیا اور کہا ہم کو تم کو خدا اور رسول سے کام پڑے گا۔ ایسے بد مذہب سے علیحدہ رہوا اور پانی بھی اس کے یہاں نہ بھرو ایک روپیہ مہینہ نہ کہی اور پر وہ سقہ اپنی بُلبُلی کو طلاق دینے کے لئے تیار ہو گیا اور کہنے لگا تو میرے مکان سے نکل جائیں تو اس قادریانی سے ایسا ہی ملوں گا اور پانی بھروں گا گو میرے تمام ٹھکانے چھوٹ جائیں مگر میں اس کو نہ چھوڑوں گا ہاں اگر سارے شہر کے بہشتی ایسا ہی کریں اور چھوڑ دیں تو میں بھی چھوڑ دوں ورنہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بلکہ اگر وہ قادریانی سور کھائے گا تو میں بھی سور کھاؤں گا۔

سوال یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے اس سے ترک سلام و کلام کر دیا ہے ان کے واسطے از روئے شریعت کیا جزا ملے گی اور سقہ کے واسطے شریعت پاک کیا حکم ہے۔ بینوا توجروا۔

الجواب مسلمانوں کے لئے ثواب عظیم اور اس فعل سے اللہ و رسول کی رضا ہے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سقہ اشد گنہگار و مستحق عذاب نار ہے سقاوں اور ان کے چودہ ہری کو لازم ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے برادری سے نکال دیں اللہ عز و جل فرماتا ہے **ولا ترکتوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار**۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۸۱ کیا ارشاد ہے کہ شریعت مقدسہ کا اس مسئلہ میں کہ زید بد مذہبوں کے یہاں کا کھانا علانية کھاتا ہے بد مذہبوں سے میل جوں رکھتا ہے مگر خود سنی ہے اس کے پیچھے نماز کیسی ہے اور اس کی تراویح سننا کیسی ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب اس صورت میں فاسق مغلن ہے اور امامت کے لائق نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۸۲ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں سوال ذیل میں کہ جہیز کس کا حق ہوتا ہے لڑکی والوں کا یا لڑکے والوں کا بعد وفات زوجہ کے اس کے جہیز میں تقسیم فرائض ہو گی یا نہیں۔ زید جو سیمہ کا شوہر تھا سیمہ کے مرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اس کو کھلا یا پلا یا ہے لہذا جہیز میرا حق ہے یہ قول زید کا صحیح ہے یا باطل اگر جہیز میں تقسیم فرائض نہ ہو تو آیا صرف والدین کو ملے گایا اور کس کس کو۔ بینوا توجروا۔

الجواب جہیز عورت کی ملک ہے اس کے مرنے پر حسب شرائط فرائض و رشہ پر تقسیم ہو گا زید کا دعویٰ باطل محض ہے نفقہ کے عوض میں کچھ نہیں لے سکتا کہ نفقہ اس پر شرعاً واجب تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۸۳

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اہل سنت کہ ایک مسجد کا حوض اس طرح پر ہے کہ نصف حوض کے دائیں بائیں مسجد ہے اور نصف کے اردوگر صرف زمین مقام الف میں سڑھیاں ہیں زید کو مرض ہے کہ اگر ڈھیلہ لے کر فوراً علی الاتصال پانی سے استنجاہ پاک کرے تو قطرہ آ جاتا ہے اب وہ استنجاہ کرتا ہوا آیا ہے پانی حوض میں بہت نیچا ہو گیا ہے اور ادھراً دھرلوٹوں میں وضو کا بچا ہوا پانی رکھا ہے مقام ب سے فصل مقام الف تک ہاتھ میں ڈھیلہ ہے درحالیہ رزالی یا چادر وغیرہ اوڑھے ہو جا کر پانی لاسکتا ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا نقشہ یہ ہے۔

مسجد مسجد

الف و

ج ب

الجواب جب کہ حوض کی فصیل ہی پر گیا اور چادر اوڑھے ہے ہے مسجد میں قدم نہ رکھا یوں جا کر پانی لے آیا اور غسل خانہ میں استنجاہ کیا تو اصلاً کسی قسم کا حرج نہیں فصیل حوض مسجد سے خارج ہے وہ لہذا اس پر وضواذ ان بلا کراہت جائز ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۸۴ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ رشتہ داروں کی کن کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور کن کن سے ناجائز ہے مفصل تحریر فرمادیں۔ بینوا توجروا۔

الجواب یہ شخص جن کی اولاد میں ہے جیسے باپ دادانا یا جواس کی اولاد میں ہو جیسے بیٹا پوتا نو اسا ان کی بیویوں سے نکاح حرام اور خر کی بی بی سے بھی حرام ہے جب کہ وہ اپنی زوجہ کی حقیقی ماں ہو باقی رشتہ داروں کی بیویوں سے ان کی موت یا طلاق و انقضائے عدت کے بعد نکاح جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۸۵ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اہل سنت و جماعت کو رافضیوں سے ملنا جتنا کھانا پینا اور رافضیوں سے سودا سلف خریدنا جائز ہے یا نہیں اور جو شخص سنی ہو کر ایسا کرتا ہے اس کی نسبت شرعاً کیا حکم آیا ہے وہ شخص دائرہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے یا نہیں اور شخص مذکورہ بالا سے تمام مسلمانوں کو اپنے دینی و دینیوی تعلقات منقطع کرنا چاہئے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب روضہ زمانہ علی العوم مرتد ہیں کما پیناہ فی روال رفضہ ان سے کوئی معاملہ اہل اسلام کا ساکرنا حلال نہیں ان سے میل جوں نہست برخاست سلام کلام سب حرام ہے۔ قال اللہ تعالیٰ:

وَمَا يَنْسِينَكُ الشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

انعام ۲۸

حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

سیاتی قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة يطعنون السلف لا يشهدون جمعة ولا الجماعة فلا تجالسونهم ولا توأكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم اذا مرضوا فلا تعودوهم اذا ماتوا فلا تشهدوهم ولا تصلو عليهم ولا تصلو معهم

عنقریب کچھ لوگ آنے والے ہیں ان کا ایک بد لقب ہو گا نہیں رافضی کہا جائے گا۔ سلف صالح پر طعن کریں گے اور جمود جماعت میں حاضر نہ ہوں گے ان کے پاس نہ بیٹھنا ان کے ساتھ نہ کھانا۔ نہ ان کے پاس پانی پینا نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا بیمار پڑیں تو نہیں پوچھنے نہ جانا مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جانا نہ ان پر نماز پڑھانا نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا۔

جو نبی ہو کر ان کے ساتھ میل جوں رکھ اگر خود رافضی نہیں تو کم از کم اشد فاسق ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بھی میل جوں ترک کرنے کا حکم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۸۶ کتاب رک صرف رجب شریف میں ہو سکتی ہے یا جب چاہیں کر لیں اور اگر میت پر اتنی قضا نمازیں یا روزے ہوں کہ اس کے غریب و رثا نماز کے بد لے ۱۷۵-۲/ اروپیہ بھر گھیوں نہ دے سکیں تو اس قاط کا کیا طریقہ ہے۔ بینوا توجروا۔

الجواب تبارک ہر مہینہ میں ہو سکتی ہے یہ تعینات بغرض تحفظ و یادداہی ہوتے ہیں، اور میت کے ورثا جس قدر پر قادر ہوں مسکین کو بہ نیت کفارہ دے کر قابض کر دیں اور بعد قبضہ اپنی طرف سے وارث کو ہبہ کر دے وارث بعد قبضہ پھر بہ نیت کفارہ مسکین کو دے اسی طرح دور کریں یہاں تک کہ مقدار مطلوب ادا ہو جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۸۷

کعلامے اسلام و مفتیان عظام اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ افیون کی تجارت اور اس کی دکان کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب افیون کی تجارت دو اکے لئے جائز اور افیون کے ہاتھ بیچنا ناجائز ہے۔ لآن المعصية تقوم بعینه وكل ما كان كذلك كره بيعنه كما في تنوير الابصار۔ والله تعالى أعلم۔

مسئلہ ۸۸ گلیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ (۱) پیر سے پرده ہے یا نہیں (۲) ایک بزرگ عورتوں سے بغیر حباب کے حلقة کراتے ہیں اور حلقة کے بیچ میں بزرگ صاحب بیٹھتے ہیں توجہ ایسی دیتے ہیں عورتیں بے ہوش ہو جاتی ہیں اچھلتی کو دتی ہیں اور ان کی آواز مکان سے باہر دور سنائی دیتی ہے ایسی بیعت ہونا کیسا ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب پیر سے پرده واجب ہے جبکہ محرم نہ ہو۔ والله تعالى أعلم (۲) یہ صورت مغض خلاف شرع و خلاف حیا ہے ایسے پیر سے بیعت نہ چاہئے۔ والله تعالى أعلم۔

مسئلہ ۸۹ کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ زندگی کا بیمه کرنا شرعاً جائز ہے یا حرام صورت اس کی یہ ہے کہ جو شخص زندگی کا بیمه کرنا چاہتا ہے اس سے یہ قرار پا جاتا ہے کہ ۵۵ سال یا ۶۰ سال یا ۵۰ سال کی عمر تک مبلغ دو ہزار روپیہ چار یا چھرو پیہ ماہوار کے حساب سے تنخواہ میں سے وضع ہوتے رہیں گے اگر وہ شخص ۵۵ سال تک زندہ رہا تو خود اس کو اور اگر معیار مقرر کر کے اندر مر گیا تو اس کے ورثا کو دو ہزار روپیہ یکمیشٹ ملے گا خواہ وہ بیمه کرانے کے بعد اور اس کی منظوری آنے کے بعد فوراً ہی مر جائے اور اگر معیار مقرر تک زندہ رہا تو بھی وہی دو ہزار ملے گا۔ بیمه گورنمنٹ کی جانب سے ہو رہا ہے کسی کمپنی وغیرہ کو اس سے تعلق نہیں۔ بینوا توجروا۔

الجواب جب کہ یہ بیمه صرف گورنمنٹ کرتی ہے اور اس میں اپنے نقصان کی کوئی صورت نہیں تو جائز ہے کوئی حرج نہیں مگر شرط یہ ہے کہ اس کے سبب اس کے ذمہ کسی خلاف شرع احتیاط کی پابندی نہ عائد ہوتی ہو جیسے روزوں یا حج کی ممانعت۔ والله تعالى أعلم

مسئلہ ۹۰

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس بارہ میں کہ زید کا دادا پھان تھا دادی اور والدہ سیدانی اس صورت میں زید سید ہے یا پھان۔ بینوا توجروا۔

الجواب شرع مطہر میں نسب باب سے لیا جاتا ہے جس کے باب دادا پھان یا مغل یا شیخ ہوں وہ انہیں قوموں سے ہو گا اگرچہ اس کی ماں اور دادا اور پرداوی سب سیدانیاں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے:

من ادعى الى غير ابيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيمة

صرف ولا عدلا هذا مختصرًا

جو اپنے باپ کے سوادوسرے کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرے اس پر خدا اور سب فرشتوں اور آدمیوں کی لعنت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ فرض قبول کرے نہ لف۔

بخاری و مسلم و ابو داؤد و ترمذی ونسائی وغیرہم نے یہ حدیث مولی علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت خاص امام حسن و امام حسین اور ان کے حقیقی بھائیوں بہنوں کو عطا فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ٹھہرے پھر جو ان کی خاص اولاد ہے ان میں بھی وہی قاعدہ عام جاری ہوا کہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوں اس لئے سبھیں کریمین کی اولاد سید ہیں نہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کہ وہ اپنے والدوں ہی کی طرف نسبت کی جائے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۹۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس امر میں کہ صفر کے اخیر چہارشنبہ کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ اس روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے صحت پائی تھی بنا بر اس کے اس روز کھانا شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اور جنگل کی سیر کو جاتے ہیں علی ہذا القیاس مختلف جگہوں میں مختلف معمولات ہیں کہیں اس روز کو خس و مبارک جان کر گھر کے پرانے برتن گلی توڑ ڈالتے ہیں اور توحید و چھلنے چاندی کے اس روز کی صحت بخشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مریضوں کو استعمال کرتے ہیں یہ جملہ امور بر بنائے صحت پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں لائے جاتے ہیں لہذا اصل اس کی شرع میں ثابت ہے کہ نہیں اور فاعل عامل اس کا بر بنائے ثبوت یا عدم مرتكب معصیت ہو گایا قابل ملامت و تادیب۔ بینوا توجروا۔

الجواب آخری چہارشنبہ کی کوئی اصل نہیں نہ اس دن صحت یا بی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثبوت بلکہ مرض اقدس جس میں وفات مبارک ہوئی اس کی ابتداء اسی دن سے بتائی جاتی ہے اور ایک حدیث مرفوع میں آیا ہے اخر اربعاء من الشہر یوم نحس مستمر اور مروی ہوا بتدائی ابتلاء سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ۸۰ دن تھی اور اسے نحس سمجھ کر مٹی کے برتن توڑ دینا گناہ و اضاعت مال ہے بہر حال یہ سب باتیں بے اصل و بے معنی ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۹۲

مسئلہ ۹۲ نماز کے وقت مسجد میں تمام نمازی کسی شخص کے آنے پر تعظیماً کھڑے ہونا اور حدیث محدث سجادے کے قدموں پر سرگرد کر بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب عالم دین اور سلطان الاسلام اور علم دین میں اپنا استاذ ان کی تعظیم مسجد میں بھی کی جائے گی اور مجالس خیر میں بھی اور تلاوت قرآن عظیم میں بھی عالم دین کے قدموں پر بوسہ دینا سنت ہے اور قدموں پر سرگردنا جہالت۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۹۳ کیا فرماتے ہیں مفتیان دین اس مسئلہ میں کہ اگر زوجہ کے نان و نفقہ وغیرہ کے اخراجات کا بارزوں کا والدیا کوئی عزیز دار اٹھاتا ہو وہ عورت کو والدین کے یہاں جانے کی اجازت دے تو خاوند زوجہ کو جانے سے روک سکتا ہے اور عورت بلا اجازت خاوند کے جانے سے گنہگار ہو گی یا زوج کو روکنا جائز نہیں ہے اور زوجہ جانے سے گنہگار نہ ہو گی۔ بینوا توجروا۔

الجواب اگر مہر معجل نہ تھا یا جس قدر معجل تھا ادا ہو گیا تو چند موضع حاجت شرعیہ جن کا استثنافرمادیا گیا مثلاً والدین کے یہاں آٹھویں دن دیگر محارم کے یہاں سال پیچھے دن کے دن کو جانا اور شب شوہر ہی کے یہاں کرنا وغیرہ ذلک ان کے سوا کسی جگہ عورت کو بے اذن شوہر جانے کی اجازت نہیں اگر جائے گی گنہگار ہو گی شوہر رونکنے کا اختیار رکھتا ہے اگرچہ نفقہ کا بار دوسرا شخص اٹھاتا اور وہ دوسری عورت کو جانے کی اجازت دیتا ہوا س کی اجازت مکمل ہو گی اور شوہر کی ممانعت واجب العمل، علماء تصریح فرماتے ہیں کہ بعد اداء مبلغ عورت مطلقاً پابند شوہر ہے اس میں کوئی قید و تخصیص ادائے نفقہ معجل و تکلف حوالج کی نہیں فرماتے درختار میں ہے:

لها الخروج من بيت زرجها للحاجة ولها زيادة اهلها بلا اذنه مالم تقبض المعجل فلا تخرج الالحق لها
او عليها او زيادة ابويهما كل جمعة مرة او المحارم كل سنة ولكنها قابلة او غاسلة لا فيما عدا ذلك

رو المختار میں ہے:

قوله فلا تخرج جواب شرط مقدر ای فان قبضه فلا تخرج الخ

والد کا متنفل نفقہ پر روزن پر ہونا تو ہمارے بلا دمیں معمول ہے اور دیگر بعض اعزابھی تبرعاً متنفل کریں تو یہ ضرور نہیں کہ شوہر نفقہ دینے سے منکر ہو علمائے کرام تو اس صورت میں کہ شوہرن ظلم اتفاق سے دست کشی کی یہاں تک کہ عورت محتاج نا ش ہوئی تا آئکہ شوہر کو نفقہ دینے پر مجبور کرنے کے لئے جس کی درخواست دی اور حاکم نے شوہر کا تعنت دیکھ کر اسے قید کر دیا اس صورت میں تصریح فرماتے ہیں کہ عورت شوہر ہی کے گھر رہے بلکہ عورت پر واقعی اندیشہ فساد ہو تو شوہر قید خانہ میں اپنے پاس رکھنے کی درخواست کر سکتا ہے۔ اور مجلس میں مکان تہائی ہو تو حاکم عورت کو حکم دے گا کہ وہیں اس کے پاس رہے ہندی یہ میں ہے:

لوفرض الحاکم النفقہ علی الزوج فامنع من دفعها وہ موسرو طلبت المرأة حبسه لہ ان يحبسه کذا فی
البدائع واذا حسبة لاتسقط عنہ النفقة و تومر بالاستدامة حتى ترجع علی الزوج فان قال للقاضی احبسها
فان لی موضعی المجلس خالیا فالقافی لا يحبسها معه ولكنها تصبر فی منزل الزوج و يحبس الزوج لها
کذا فی المحيط

در مختار میں ہے:

وفي البحرين مال الفتاوى ولو خيف عليهما الفساد تحبس معه عند المتأخرین

توجب صریح ظلمًا نفقہ نہ دینے پر بھی عورت پابند شوہر ہی رہی تو صورت سوال میں کیونکر خود مختار ہو سکتی ہے نفقہ نہ دینا رافع پابندی ہو تو
نفقہ نہ دینا مسقط نفقہ ہو جائے اور عورت کو ہرگز دعویٰ نفقہ کا اختیار نہ رہے کہ نفقہ جزاء پابندی ہے جب پابندی نہیں نفقہ کس بات کا
در مختار میں ہے:

النفقہ جزاء الاحتباس وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمہ نفقہ کمفہ وقاض ووصی. زيلعی الخ اقول
واياک ان تتوهم ان النفقہ اذا كانت جزاء الحبس فإذا عدلت عدم و ذلك لأن وجوبها متفرع عنه
فوجوب الاحتباس عليها متقدم على وجوب النفقۃ عليه لا ان لاحتباس متفرع على الانفاق فان عدم عدم
وبالجملة ان كان اللازم فوجوب الانفاق لا وقوعه فبرفع الواقع لا يرتفع الملزوم. والله تعالى اعلم

مسئله ۹۴ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ کاشکاروں پر بابت بقا یا گان یا کسی قرض دار پر بابت قرض ناٹش
کرنے پر جو خرچ کچھری بابت مختنانہ وغیرہ علاوہ اصل رقم کے دلادے وہ لینا سوائے سود کے کیسا ہے؟
(ب) زید سے خالد پندرہ ہزار روپیہ تجارت کے لئے مانگتا ہے کہ میں سور و پیہ ماہوار نفع دوں گا خواہ نفع ہو یا نہ ہو۔ زید کو یہ نفع لینا
کیسا ہے سود تو نہ ہو گا اس طرح نفع لینے کے جواز کی کوئی صورت شرعاً ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب

(الف) خرچہ جو مدعی کو دلایا جاتا ہے اسے لینا حرام ہے۔ والمسئلة فی العقود ہاں قرض دار کا شت کار یا کفار ہوں تو لے
سکتا ہے۔ لعدم العصمة والله تعالیٰ اعلم۔

(ب) یہ صورت حرام قطعی اور خالص سود ہے نفع لینا چاہے تو مغاربت کرے کہ اتنے روپے تمہیں دیئے ان سے تجارت کرو جو نفع
ہو وہ نصف یا ملکث یا ربع یا اس قدر جو حصہ نامعین قرار پایا مجھے دیا کرو جو اسے نفع ہو گا اتنا حصہ اسے دینا ہو گا۔ والله تعالیٰ اعلم۔

مسئہ ۹۵ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کی مکوہ عورت خالد کے ساتھ بھاگ گئی اور آٹھ دس برس کے بعد چند لڑکے اور لڑکیاں لے کر آئیں زید کا انتقال ہو گیا وہ اولاد زید کی اولاد شرعاً متصور ہو کر زید کا ترکہ پائے گی یا بوجہ اولاد اتنا ہونے کے ترکہ سے محروم رہیں گے؟ بینوا توجروا۔

الجواب بچہ اپنی ماں کا یقینی جز ہے جس میں شک و احتمال کو اصلاً گنجائش نہیں یہ کہہ سکتے کہ جو بچہ اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا شاہد کسی دوسرے کا ہوا اور باپ کی جزئیت جب تک خارج سے کوئی دلیل قاطع مثل اخبار خدا اور رسول جل وعلا و صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو نظر بحقیقت ظہی ہے۔ اگرچہ بحسب حکم شرعی و عرفی کا لقطی ہے جس میں تشکیک مخذول و نامقبول۔ الولد للفراش والناس امناء علی انسابهم۔ والہذا نسب پر شہادت بتسامع و شہرت روا ہے پھر بھی اسی فرق حقیقی کا شرہ ہے کہ روز قیامت شان ستارے جلوہ فرمائے گی اور لوگ اپنی ماں کی نسبت کر کے پکارے جائیں گے یہی فرق ہے کہ قرآن عظیم نے امہات کے حق میں تو اخبار افرما�ا ان امہتہم الالی ولدتهم (توجہم) ان کی ماں میں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں حق آباء میں صرف انشاء فرمایا ادعوهم لا بايهم هوا قسط عندالله (توجہم) ”انہیں ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے یہاں۔“ نیز اس فرق کے ثمرات سے ہے کہ جانوروں میں نسب ماں سے ہے زید کا گھوڑا اور عربوں کی گھوڑی ہو تو بچہ عربوں کی ملک ہو گانہ زید کی وان کان ہنا وجہ اخوانہ ینفصل منها حیوانا و منه ماء مهینا۔ مگر کرامت انسان کے لئے رب عزوجل نے نسب باپ سے رکھا ہے کہ بچہ محتاج پرورش ہے محتاج تربیت ہے محتاج تعلیم ہے اور ان باتوں پر مردوں کو قدرت ہے نہ عورتوں کو جن کی عقل بھی ناقص دین بھی ناقص اور خود دوسرے کی دست گمراہ لہذا بچہ پر رحمت کے لئے اثبات نسب میں ادنیٰ بعید سے بعید ضعیف سے ضعیف احتمال پر نظر رکھی کہ آخر امر فی نفس عندالناس محتمل ہے قطع کی طرف انہیں را نہیں غایبت درجہ وہ اس پر یقین کر سکتے ہیں کہ فلاں عورت نے جماع کیا اس نذر اور بھی سہی کہ اس کا نطفہ اس کے رحم میں گرا پھر اس سے بچہ اس کا ہونے پر کیونکہ یقین ہوا ہزار بار جماع ہوتا ہے نطفہ رحم میں گرتا ہے اور بچہ نہیں بنتا تو عورت جس کے پاس اور جس کے زیر تصرف ہے اس میں بھی احتمال ہی ہے اور شوہر کہ دور ہوا احتمال اس کی طرف سے بھی قائم ہے ممکن ہے کہ وہ طی ارض پر قدرت رکھتا ہو کہ ایک قدم میں دس ہزار کوں جائے اور چلا آئے۔ ممکن کہ جن اس کے تابع ہوں۔ ممکن کہ صاحب کرامت ہو۔ ممکن کہ کوئی عمل ایسا جانتا ہو۔ ممکن کہ روح انسانی کی طاقتلوں سے کوئی باب اس پر کھل گیا ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ احتمالات عادتاً بعید ہیں مگر وہ پہلا احتمال شرعاً و اخلاقاً بعید ہے زنا کے پانی کے لئے شرع میں کوئی عزت نہیں تو پچھے اولاد زانی نہیں ٹھہر سکتے اولاد اس کی قرار پانی ایک عمدہ نعمت ہے جسے قرآن عظیم نے بالفظ ہبہ تعبیر کیا کہ یہب لمن یشاء ذکور اور زانی اپنی زنا کے باعث مستحق غصب و سزا ہے نہ کہ مستحق ہبہ و عطا والہذا ارشاد ہوا ولعا ہر الججر۔ زانی کے لئے پھر تو اگر احتمال بعید از روئے عادت کو اختیار نہ کریں بے گناہ بچے ضائع

ہو جائیں گے کہ ان کا کوئی باب مربی معلم پرورش کنندہ نہ ہو گا لہذا ضرور ہوا کہ دو احتمالی باتوں میں کہ ایک کا احتمال عادتاً فریب اور شرعاً و اخلاقاً بہت بعید سے بعید اور دوسرا کا احتمال عادتاً بعید اور شرعاً و اخلاقاً بہت قریب سے قریب اسی احتمال ثانی کو ترجیح بخشیں اور بعد عادی کے لحاظ سے بعد شرعی و اخلاقی کو کہ اس سے بدر جہا بدقتر ہے اختیار نہ کریں اس میں کو نا خلاف عقل و روایت ہے بلکہ اس کا عکس ہی خلاف عقل و شرع و اخلاق و رحمت ہے لہذا عام حکم ارشاد ہوا کہ الوالد للفراش وللعاهر الحجر لہذا اگر زیداً قصی مشرق میں ہے اور ہندہ مستہماً مغرب میں اور بذریعہ و کالت ان میں نکاح معقد ہ ہوا ان میں بارہ ہزار میل سے زیادہ فاصلہ اور صد ہا دریا پہاڑ سمندر حائل ہیں اور اسی حالت میں وقت شادی سے چھ مہینے بعد ہندہ کے بچہ ہوا بچہ زیداً ہی کاٹھرے گا اور مجہول النسب یا والد از نانہیں ہو سکتا درجتار میں ہے:

قدا كتفوا بقيام الفراش بلا خلو كتزوج المغربي بمشرقيه بينهما سنته فولدت لستة أشهر مذتزوجها
لتصوره كرامه واستخدما مفتح

روجتار میں ہے:

قوله بلا دخول المراد نفيه ظاهر او الا قلا بد من تصوره و امكانه

فتح القدر میں ہے:

والتصور ثابت في المغربية لمثبت كرامات اولاًىء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة او جنى
صحیح امام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے:

کان عتبہ بن ابی وقار (ای الكافر المیت علی کفرہ) عهد الی اخیہ سعد بن ابی وقار ص رضی الله تعالى عنہ
عنہ ان ابن ولیدة زمعة منی فاقبضه الیک (ای کان زنی بها فی الجاهلیة فولدت فاویضی اخاه بالواد) فلما
کان عام الفتح اخذہ سعد فقال انه ابن اخی و قال عبد ابن زمعة اخی ابن ولیدة ابی ولد علی فراشه فقال
رسول الله ﷺ اخوک یا عبد بن زمعة من اجل انه ولد علی فراش ابیه اه مختصر ام زید امامین الہلائیین
با جملہ ان میں جو بچے زید کی زندگی میں پیدا ہوئے یا زید کی موت کے بعد عدت کے اندر یا چار مہینے وسیعہ پر عورت نے عدت گذر
جانے کا اقرار نہ کیا ہو تو موت زید سے دور برس کے اندر یا اقرار انقضائے عدت کر چکی ہو تو اس دن سے چھ مہینے کے اندر پیدا
ہوئے ہوں وہ سب شرعاً اولاً دزید قرار پائیں گے اور زید کا ترکہ ان کو ملے گا ہاں جو موت زید سے دور برس کے بعد یا به صورت اقرار
زن یا بقضائے عدت اس دن سے چھ مہینے کے بعد پیدا ہوئے وہ نہ اولاد زید ہیں نہ اس کا ترکہ پائیں درجتار میں ہے:

یثبت نسب ولد معتقدہ الموت لاقل منهما (ای من سنتین ش) من وقت الموت اذا کانت کبیرہ ولوغیر
مدفول بها وان لاکثر منها من وقتہ لا یثبت بداع و کذا المقرة لمفتیها لولاقل من اقل مدتہ من وقت
الاقرار للمتقین یکذبها والا لا لاحمال حدوثه بعد الاقرار مد ملخصا والله تعالیٰ اعلم و علمہ جل مجده

اتم واحکم

مسئلہ ۹۶ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین ان مسائل میں آیارسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عقیقه و
ختنه میں لوگوں کو بغرض ادائے ان سنن کے بلا تے تھے یا نہیں اگر نہیں بلا تے تھے تو یہ بدعت سیدہ ہے یا نہیں؟ وقت رخصتی جیسا کہ
ہندوستان میں رسم بھات کی ہے آیا ان کی کچھ اصلیت ثابت ہے؟ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کے وقت بھی کچھ کھانا
 تقسیم کیا گیا تھا یا نہیں؟ اور نیوتے کی رسم شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ آیا یہ بات کہ شارع علیہ السلام نے دعوت ولیمة کی بابت فرمایا اور
خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار اس پر عمل کیا اور کبھی صاحبزادیوں کی رخصتی میں کھانے کی بابت نہ فرمایا اور نہ کیا اس کے
بدعت سیدہ ہونے کے لئے کافی نہیں؟

الجواب عقیقہ شکر نعمت ہے اور نعمت کے لئے اعلان کا حکم قال اللہ تعالیٰ واما بنعمت ربک فحدث اور دعوت
وجوب اعلان اور بدعت سیدہ وہ ہے کہ روشن کرنے نہ وہ کہ تائید کمانص علیہ الائمه قدیما و حدیثا منهم حجۃ
الاسلام فی احیاء والعلامة سعد فی شرح المقاصد والسيد عارف بالله عبد الغنی الحدیقة الندية لا جرم
ردا لختار میں فرمایا:

بحق عقیقہ مزق لحماینا او طبخہ مع اتخاذ دعوة اولا

یو ہیں ختنہ کا اعلان سنت ہے:

کما ان السنۃ فی الخفاض الخلفاء

علمائے دعویٰ میں گیارہ گنائیں ان میں دعوت ختنہ و دعوت عقیقہ بھی ہے بعض نے آٹھ گنائیں ان میں یہ دونوں داخل شرعة الاسلام
میں ہے۔

قال الضیافية ثمانیۃ الولمیۃ العرس والا عذر للخنان و العقیقۃ لسابع الولادة الخ

علمائے مطلقاً اجابت دعوت کو سنت فرمایا ولیمہ ہو یا اور بنایہ پھر طحاوی پھر رد المحتار میں ہے۔

نکاح کے بھی اعلان کا حکم ہے۔

اجابة الدعوة ولیمة او غیرها

قال صلی الله علیہ وسلم اعلنوا النکاح. رواه احمد و ابن حبان والطبرانی والحاکم و ابو نعیم عن

عبدالله بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سند احمد صحیح و زاد الترمذی والبیهقی عن ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما

تعالیٰ عنہا واجلوه فی المساجد واضربوا علیہ بلدفوف

اور اڑ کے والوں ہی کے ساتھ خاص نہیں دونوں طرف اعلان چاہئے۔ ابن ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

قال نکحت عائشة ذات قرابة لهما من الانصار فجاء رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال اهدیتم انفتاتة

قال نعم قال ارسلتم معها من تغنى الحديث

اور طعام موجب جمع ہے اور جمع موجب اعلان معہذا الطعام حاضرین سنن اہل کرم و مرمت سے ہے خصوصاً جبکہ طول اقتامت ہو اتنا فعل میں ہے علی تفضیل فیہ نہ عدم فعل میں فانہ غیر مامور بل ولا مقدر کما فی الغمز العيون۔

خصوصاً امور عادیہ اور حکم ہے خالقوا الناس باخلاقہم علما فرماتے ہیں الخروج عن العادة شهرہ و مکروہ رب عزوجل فرماتا ہے ما اتکم الرسول فخذلوه وما نهکم عنه فانتهوا جونہ انی ہے نہ نہی وہ نہ خذلو ایں داخل نہ انتہوا میں یعنی نہ

واجب نہ منع بلکہ مباح ہے یہ تمام مباحثہ ہمارے رسائل اردو وہابیت میں طے ہو چکے۔ ہاں نیت مذموم یا باعث مذموم یا طور مذموم پرولیمہ بھی ہوتا ہے بھی مذموم ہو جائے گا۔ قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شر الطعام طعام الوليمة مع هذا فرمایا

ومن لم يجب الدعوة فقه عصی الله و رسوله رواه مسلم عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیو تے کی رسم ایک محمود قصد یعنی معاونت اخوان سے رکھی گئی کہ وقت حاجت ایک کام سوکی اعانت سے نکل جائے نہ اس پر سارا بار ہونہ سوال

وغیرہ حرج و عار ہو۔ پھر معاونوں میں جسے یہ معاملہ پیش آئے وہ معاون اور باقی اخوان اس کی اعانت کریں وہکذا اس میں جب کہ

عرفاً معاوضہ مقصود ہو قرض ہے اور اس کی ادا واجب۔ فان المعرف کالمشروط۔

فتاوے خیریہ میں ہے:

اسئل فيما اعتمادہ الناس فی الاعراس والافراح والرجوع من الحج من اعطاء الشیاب والدرام

وینتظرون به لہ عندهما یقع لهم مثل ذلک ما حکمہ اجاب ان کان العرف شائعاً فيما بینهم انهم یعطون

ذلک لیا خذ بدله کان حکمہ کحکم الفرض الخ

اسی میں ہے:

ان کان العرف قاضیاً بانہم یدفعونہ علی وجہ الہبة ولا ینظرون فی ذلک الی اعطاء البدل فحکمہ

حکم الہبة الخ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۹۷ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کتاب ارشاد رحمانی تصنیف مولوی محمد علی سابق ناظم ندوہ جن کی بابت ان کے پیر بھائی نے مجھ سے کہا کہ وہ اب سابق افعال و کوشش متعلق ندوہ سے تائب ہو گئے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم متعلق حالات مولانا **فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ** میں لکھا ہے کہ بخاری شریف کے سبق حضرت سلیمان علیہ السلام علیہ السلام کے ذکر پر احمد میاں نے کہا کہ کرشن کے سولہ ہزار گوپیاں تھیں۔ اس پر مولانا مرحوم نے فرمایا کہ یہ لوگ مسلمان تھے اور مصنف نے اس کے بعد لکھا ہے کہ مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ کسی مردے کے کفر پر تاو قتیکہ ثبوت شرعی نہ ہو حکم نہ لگانا چاہئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لکل قوم هاد اس تقدیر پر ہو سکتا ہے کہ راجحہ را اور کرشن ولی یا نبی ہوں لہذا فتاوے مکلف خدمت فیہ درجت ہے کہ کیا حضرت مرزا مظہر جان جاناں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مکتب وغیرہ میں یہ لکھا ہے اور حضور نے ملاحظہ فرمایا ہے قول مذکور متعلق رام چندرو کرشن مرزا صاحب علیہ الرحمہ نے کسی شخص کے خواب کی تعبیر میں فرمایا ہے یہ بھی اسی کتاب میں مرقوم ہے۔

مسئلہ ۹۸ جو پتایا درخت بوجہ غفلت تسبیح گر جاتا ہے جا نور ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر بعد سزاۓ غفلت ان کا تسبیح میں مشغول ہونا ثابت ہے یا نہیں؟

الجواب مولوی محمد علی صاحب نہ خیالات سابقہ سے تائب ہوئے نہ اس حکایت کی کچھ اصل جو مولانا **فضل الرحمن** صاحب کی طرف منسوب ہوئی نہ یہ بات جناب مرزا صاحب نے کسی خواب کی تعبیر میں کہی بلکہ کسی خط کے جواب میں ایک مکتب لکھا ہے اس میں ہندوؤں کے دین کو محض بر بنائے ظن و تھیں دین سماوی مگان کرنے کی ضرور کوشش فرمائی ہے بلکہ معارف و مکافات و علم عقلی و فلسفی میں ان کا یہ طولی مانا ہے اور ان کے اعتقادی تناخ کو کفر سے جدا بلکہ کی بت پرستی کو شرک سے منزہ اور صوفیہ کرام کے تصور برزخ کے مثل مانا ہے اور بحکم اکل امتہ رسول ہندوستان میں بھی شریعت انبیاء ہونا اور ان کے بزرگوں کا مرتبہ کمال و تکمیل رکھنا لکھا ہے۔ مگر امام یا کرشن کسی کا نام نہیں، باسیں ہمہ فرمایا ہے:

درشان آنہا سکوت اولی ست نہ مراجیم بکفر و بہاک اتباع آنہا لازم ست و نہ یقین، نجات انہا بر ما واجب و مادہ حسن ظن متحقق ست۔ یہ اس تمام مکتب کا خلاصہ ہے ان حضرات کا حال قبل اظہار خود آشکار۔ اگر یہ مکتب مرزا صاحب کا ہے اور اگر ان کا بے دلیل فرمانا سند میں پیش کیا جا سکتا ہے تو ان سے بدرجہ اقدام واعلم حضرت زبدۃ العارفین سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ السامی سعی سابل شریف میں کہ بارگاہ رسالت میں پیش اور سرکار کو مقبول ہو چکی ص ۷۱ میں فرماتے ہیں:

محمد مسیح ابوالفتح جون پوری را در ماہ ربیع الاول بحثت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ازده جا جا استدعا آمد کہ بعد از نماز پیشین حاضر شوند ہر دعا قبول کروند حاضران پر سید نداے محمد مسیح ازده استدعا و ماقبول فرمودید و ہر جا بعد از نماز پیش حاضر باید شد چونہ میر خواہد آمد فرمود کشن کہ کافر بود چند صد جا حاضر میشد اگر ابوالفتح دہ جا حاضر شود چہ عجب۔

بات یہ ہے کہ نبوت و رسالت میں اوہاں تھیں کو دخل نہیں کیا جس کی تعلیم حیث یہ جعل رسالتہ اللہ و رسول نے جن لوگوں کی تفصیلابی بنا یا ہم ان پر تفصیلابی ایمان لائے اور باقی تمام انبیاء اللہ پر اجمالاً کل امة رسول اسے مستلزم نہیں کہ ہر رسول کو ہم جانیں یا نہ جانیں تو خواہی نخواہی اندھے کی لائھی سے ٹوٹیں کہ شاید یہ ہو شاید یہ ہو کا ہے کے لئے ٹوٹنا اور کا ہے کے لئے شاید امنا بالله و رسولہ - ہزاروں امتوں کا ہمیں نام و مقام تک معلوم نہیں و قرونا بین ذلک کثیراً قرآن عظیم یا حدیث کریم میں رام و کرشن کا ذکر تک نہیں ان کے نفس وجود پر سواء تو اتر ہندو کے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعی کچھ اشخاص تھے بھی یا محض اینا باغوال اور جال بوستان خیال کی طرح اوہاں تراشیدہ ہیں تو اتر ہندو اگر جھت نہیں تو ان کا وجود ہی ثابت اور اگر جھت ہے تو اسی تو اتر سے ان کا فتن و فجور واہو و لعب ثابت پھر کیا معنی کہ وجود کے لئے تو اتر ہندو مقبول اور احوال کے لئے مردود مانا جائے اور انہیں کامل و مکمل بلکہ ظنا معاذ اللہ انبیاء و رسول جانا جائے۔ واللہ الہادی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۹) رب عزوجل فرماتا ہے:

تسبح له السموات السبحة والارض ومن فيهن وان من شئي الا يسبح بمحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم
اس کی تسبیح کرتے ہیں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ (بنی اسرائیل ۳۳)

یہ کلیہ جمیع اشیاء عالم کو شامل ہے ذی روح ہوں یا بے روح اجسام محفوظہ جن کے ساتھ کوئی روح نباتی بھی متعلق نہیں دامن اتسیح ہیں کہ ان من شئی کے دائرے سے خارج نہیں مگر ان کی تسبیح بے منصب ولاست نہ مسروع نہ مفہوم اور وہ اجسام جن سے روح انسی یا ملکی یا جنی یا حیوانی یا نباتی متعلق ہے ان کی دو تسبیحیں ہیں ایک تسبیح جسم کی کہ اس روح متعلق کے اختیارات نہیں وہ اسی ان من شئی کے عموم میں اس کی اپنی ذاتی تسبیح ہے دوسری تسبیح روح یا ارادی اختیاری ہے اور برزخ میں ہر مسلمان کو مسروع و مفہوم اس تسبیح ارادی میں غفلت کی سزا حیوان و نبات کو قتل و قطع سے دی جاتی ہے اور اس کے بعد یا جب جانور مر جائے یا نبات خشک ہو جائے منقطع ہو جاتی ہے وہ لہذا ائمہ دین نے فرمایا ہے کہ ترگھاس مقابر سے نہ اکھیزیں۔

فانه مadam رطب ایسبح لله تعالیٰ فیونس المیت

کہ وہ جب تک تر ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے تو میت کا دل بہلتا ہے۔

مگر قتل و قطع و موت و بیس کے بعد بھی وہ تسبیح کہ نفس جسم کی تھی جب تک اس کا ایک جزو لا تجزی بھی باقی رہے گا منقطع نہ ہو گی کہ ان من شئی الاتسیح بحمدہ اسے روح سے تعلق نہ تھا کہ تعلق روح نہ رہنے سے منقطع ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

الرمز المصنف على سوال مولانا السيد اصف

۱۳۳۹ھ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم (یا حبیب محبوب اللہ روحی فداک)

مسئلہ ۹۹ قبلہ کو نین و کعبہ دارین دامت برکاتہم بعد تسلیمات فدویانہ و تمنائے حصول سعادت آستانہ بوی التماں اینکہ بفضلہ تعالیٰ کمترین بخیریت ہے صحوری ملازمان سامی کی مدام بارگاہ احادیث سے مطلوب اشتہار اسلامی پیام میں عبد الماجد کے اس لکھنے پر کہ ”مسلمان ڈوب رہا ہے نا مسلم تیراک ہاتھ دے تو جان بچانا چاہئے یا نہیں“ یوں درج ہے کہ مسلمان کو اگر ڈوبنے پر یقین نہ ہو ہاتھ پاؤں مار کر نجح جانے کی امید ہو یا کوئی مسلمان فریاد رسخواہ کوئی درخت وغیرہ ملنے کاظن ہو تو کافر کو ہاتھ دینے کی اجازت نہیں اُنچ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار سے معاملت کی بھی اجازت نہ ہوان سے علاج بھی نہ کرائے لایا لوں کم جبالا سے کیا مقصود ہے آیادین کے معاملہ میں کفار محارب فی الدین نقصان پہنچانے میں کمی نہ کریں گے یا ہر معاملہ میں اور ہر وقت جب موقع پائیں۔ اور ایک کافر کہ غیر محارب ہو تفسیر کبیر میں آیہ کریمہ لا ینہکم اللہ عن الذین لم یقاتلوكم الی اخر الایہ کے متعلق لکھا ہے:

وقال اهل التاویل هذا الاية تدل على جواز البرین المشرکین وال المسلمين و ان كانت المولاۃ منقطعة رسالہ الرضا باہت ما ذی قعد حصہ ملفوظات صفحہ ۸۶ میں ہے۔ ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سے خلق فرماتے جو رجوع لانے والے ہوتے جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے اور کفار و مرتدین کے ساتھ ہمیشہ سختی فرماتے اُن بعض کفار کی آنکھوں میں سلامی پھروانا تو قصاصاً تھا کیا رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم قبل نزول آیت یا ایہا النبی جاہد الکفار و المُنْفَقِین زرمی نہ فرماتے تھے اور کیا جو رجوع نہ لانے والے تھے ان سے بہ شدت پیش آتے تھے یا پہلے اس سے زرمی سے پیش آتے کفار مختلف طبائع کے تھے اور ہیں۔ بعض کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہے اور بعض کو بہت کم۔ کیا سب سے یکساں حکم ہے یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ان سے حسب مراتب تدریجی سختی کرنے کا حکم ہے اور محارب کا فرق کیا ہے۔ حضور فدوی کو اس مسئلہ میں کہ مرتدہ کا نکاح باقی رہتا ہے فتاوے کی کتابوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے خلجان رہتا ہے حضور کے فتوے میں اور کتابوں کے خلاف لکھا ہے گو بعض احکام بوجہ اختلاف زمانہ مختلف ہو جاتے ہیں لیکن فتاوے ہندیہ جو قریب زمانہ کی ہے اس میں بھی نہیں اگرچہ بوجہ سلطنت اسلامیہ ہونے کے مرتدہ پر احکام شریعت نہیں جاری کئے جاسکتے مثلاً ضرب وغیرہ کے۔ لیکن وہ اسلام سے خارج ہو گئی تو نکاح کا باقی رہنا کیسا کیا وہ ترکہ بھی سابق شوہر کا شرعاً پائے گی اور اس کے مرنے پر اس کا جو پہلے شوہر تھا ترکہ اس کا شرعاً پائے گا۔ اگر کفار غیر

محارب کے ہمراہ محارب کفار کا مقابلہ کیا جائے اور محارب کفار غیر محارب کی امداد سے نقصان پہنچایا جائے تو لیا کناہ ہے۔ اسی اسلامی پیغام میں ہے اب جو قرآن عظیم کو جھلائے وہ مشرق یا مرتد کو ڈوبنے سے نجات دینے والا حامی و مددگار جانا، ”کیا نعوز باللہ جتنے مسلمان کفار سے علاج کرتے ہیں اور معاملات میں ان سے مدد لیتے ہیں سب قرآن کو جھلاتے ہیں۔ فقط والتسسلیم

عریضہ ادب فدوی محمد آصف

يغفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات بحرمة النبي الكريم عليه الصلة والتسليم

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تستضيفوا بنار المشركين مال فلم تدر ما ذلك حتى اتوا
الحسن فسألوه فقال نعم يقول لا تستشرواهم في شيء من أموركم قال الحسن وتصديق ذلك في
كتاب الله تعالى ثم تلا هذه الآية يا يهود الدين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم
امير المؤمنين فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه نے اسی آیہ کریمہ سے کافر کو محرب بنا تمنع فرمایا ابن ابی شیبہ مصنف اور ابن حمید ابی حاتم
رازی تفاسیر میں اس جناب سے راوی:

انہ قیل لہ ان ہنہا غلاما من اهل الحیرہ حافظا کاتبا فلو اتخدتہ کتبہ قال اتخدت اذن بطاۃ من دون المؤمنین
تفسیر کبیر میں انہیں امور دنیویہ میں ان سے مشاورت و موافقت کو سبب نزول کریمہ اور اس سے نبی مطلق کے لئے بتایا اور اسے اس
گمان کا کہ ان سے مخالفت تو دین میں ہے دنیوی امور میں بدخواہی نہ کریں گے روٹھریا کہ:

ان المسلمين كانوا يشأرون لهم في امورهم ويوانسونهم لما كان بينهم من الرضاع والحلف ظنا منهم انهم وان خالفوهم في الدين فهم ينصحون لهم في اسباب المعاش فهاهم الله تعالى بهذا لایة عنه فمنع المؤمنين ان يتخدوا بطانة من غير المؤمنين فيكون ذلك نهاية عن جميع الكفار و قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوكم اولياء وما يوكل ذلك ماروى انه قيل لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ههنا جل من اهل الحيرة نصراني لا يعرف اقوى حفظا ولا احسن خطامنه فان رأيت ان تتخذوه كتابا فامتنع عمر رضى الله تعالى عنه منا ذلك و قال اذن اتخذت بطانته من غير المؤمنين فقد

جعل عمر رضى الله تعالى عنه هذا الایة دليلا على النهي عن اتخاذ النصراني بطانة

اس سے جملہ انواع معاملت کیوں ناجائز ہو گئی بیع و شراء و اجارہ و استجارہ وغیرہ میں کیا راز دار بنا نیا اس کی خیر خواہی پر اعتماد کرنا ہے جیسے چمار کو دام دے جوتا گھوالي بھٹکی کو مہینہ دیا پاخانہ کموالیا۔ براز کروپے دیئے کپڑا مول لیا آپ تاجر ہے کوئی جائز چیز اس کے ہاتھ پیچی دام لے لئے وغیرہ وغیرہ۔ ہر کافر حربی کافر محارب ہے حرbi و محارب ایک ہی ہے جیسے جدی و مجادل و ذمی و معابر کا مقابل ہے راز دار بنا ذاتی و معابر کو بھی جائز نہیں امیر المؤمنین کا وہ ارشاد ذاتی ہی کے بارے میں ہے یوہیں موالات مطلقاً جملہ کفار سے حرام ہے حرbi ہوں یا ذمی۔ ہاں صرف دربارہ برواحسان ان میں فرق ہے۔ معابر سے جائز ہے کہ:

لَا ينہکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین (المتحہ ۸)

عبارت کبیر منقولہ سوال کا یہی مطلب ہے۔ یہ قول اکثر اہل تاویل ہے اور ائمہ حنفیہ کے یہاں تو اس پر اتفاق جلیل ہے خود کبیر میں زیر کریمہ لاینہکم اللہ ہے۔

الاکثرون علی انہم اہل العهد و هذا قول ابن عباس المقاتلين والکلبی

ہم نے الجۃ الموتمۃ میں یہ مطلب نقیس جامع صغیر امام محمد وہدایہ و دررالحکام و غاییۃ البیان و کفایہ و جوہر نیرہ و مستھنی و نہاییہ و فتح القدیر۔ بحر الرائق و کافی و تبیین الحقائق و تفسیر احمدی و فتح اللہ المعنی وغیہہ وذی الاحکام و معراج الدرایہ و عناییہ و محیط برہانی و جوئی زادہ و بدائع ملک العلماء سے ثابت کیا۔ حضور رحمۃ للعلمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعلمین ہیں قبل ارشاد و اغاظۃ علیہم انواع انواع کے نرمی و عضو صفح فرمائے خود اموال غنیمت میں مولفۃ القلوب کا ایک سہم مقرر تھا مگر اس ارشاد کریم نے ہر عضو و صفح کو نفع فرمادیا اور مولفۃ القلوب کا سہم ساحق ہو گیا۔

وقل الحق من ربکم فمن شاء فليکفر انا اعتدنا للظلمین نارا احاط بهم سرادقه (الکھف ۲۹)

سیدنا امام عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل الاساتذہ امام عطاء بن ابو رباح رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت امام فرماتے میں نے ان سے افضل کسی کو نہ دیکھا وہ آئیہ کریمہ و اغلظ علیہم کو فرماتے ہیں نسخت هذه الاية كل شئی من العفو و الصفع
قرآن عظیم نے یہود و مشرکین کو عداوت مسلمین میں سب کافروں سے سخت تر فرمایا:

لتجدن اشد الناس عدواة للذين امنوا اليهود والذين اشرکوا (العلادہ ۸۲)

مگر ارشاد:

یا یہا النبی جاہد الکفار و لمنفقین و اغلظ علیہم و ما وہم جہنم وبئس المصیر (الوبہ ۷۳)
عام آیا اس میں کسی کا استثناء نہ فرمایا کسی وصف پر حکم کا مرتب ہونا اس کی علیت کا مشعر ہوتا ہے یہاں انہیں وصف کفر سے ذکر فرمائے اس پر جہاد و غلطت کا حکم دیا تو یہ زر ان کے نفس کفر کی ہے نہ کہ عداوت مومنین کی اور نفس کفر میں وہ سب برابر ہیں الکفر ملة واحدة۔ ہاں معابرہ کا استثناء دلائل قاطع متواترہ سے ہے ضرورة معلوم و مستقرنی الاذہان کہ حکم جاہدین کر اس کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں۔ فنفس النص لم یتعلق به ابتداء كما افادہ فی البحر الرائق تفاوت عداوت بر بنائے کار ہوتی تو یہود کا حکم مجوس سے سخت تر ہوتا حالانکہ امر بالعكس ہے اور نصاری کا حکم یہود سے کمتر ہوتا حالانکہ یکساں ہے ذمی و حرربی کافر کا فرق میں بتاچکا ہوں اور یہ کہ ہر حرربی محارب ہے حسب حاجت ذلیل و قلیل ذمیوں سے حریبوں کے مقابلہ و مقابلہ میں مدد لے سکتے ہیں ایسی جیسے سدھائے ہوئے مسخر کتے سے شکار میں امام سرسخی نے شرح صیر میں فرمایا: والا استعانا باهل الذمة الكلاب اور بروايت امام طحاوی ہمارے ائمۃ مذہب امام عظیم صاحبین وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں کتابی کی تخصیص فرمائی مشرک سے استعانت مطلقاً ناجائز رکھی اگرچہ ذمی ہو۔ ان مباحثت کی تفصیل جلیل الحجۃ التوتمنہ میں ملاحظہ ہو۔ رہا کافر طبیب سے علاج کرانا خارجی یا ظاہر مکشوف علاج جس میں اس کی بد خواہی نہ چل سکے وہ تولایalonکم خبala سے بالکل بے علاقہ ہے اور دنیوی معاملات نفع و شر اواجرہ واستجارہ کی مثل ہے ہاں اندر ورنی علاج جس میں اس کے فریب کو گنجائش ہو اس میں کافروں پر یوں اعتماد کیا کہ ان کو اپنی مصیبت میں ہمدرد اپنادلی خیر خواہ اپنا مخلص باخلاص خلوص کے ساتھ ہمدردی کر کے اپنادلی دوست بنانے والا اس کی بے کسی میں اس کی طرف اتحاد کا ہاتھ بڑھانے والا جانا تو بے شک آئیہ کریمہ کا مخالف ہے اور ارشاد آیت جان کر ایسا سمجھا تونہ صرف اپنی جان بلکہ جان و ایمان و قرآن سب کا دشمن اور انہیں اس کی خبر ہو جائے اور اس کے بعد واقعی دل سے اس کی خیر خواہی۔ کریں تو کچھ بعید نہیں وہ تو مسلمان کے دشمن ہیں اور یہ مسلمان ہی نہ رہا فانہ منهم ہو گیا ان کی تودی تمنا یہی تھی۔

قال تعالى ودو الو تکفرون كما كفروا فتكونون سواء (النساء ۸۹)

ان کی آرزو ہے کہ کسی طرح تم کبھی کافر بنو تو تم اور وہ ایک سے ہو جاؤ۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ مگر الحمد للہ کہ کوئی مسلمان آئیہ کریمہ پر بٹھ ہو کر ہر گز ایسا نہ جانے گا اور جانے تو آپ ہی اس نے تکذیب قرآن کی بلکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ان کا پیشہ ہے اس سے روٹیاں کماتے ہیں ایسا کریں تو بدنام ہوں دکان پھیکی پڑ جائے تو حکومت کا مواخذہ ہوسزا ہو۔ یوں بدخواہی سے بازر ہتے ہیں تو اپنے خیرخواہ ہیں نہ کہ ہمارے۔ اس میں تکذیب نہ ہوئی پھر بھی خلاف احتیاط و شفیع ضرور ہے خصوصاً یہود و مشرکین سے خصوصاً سر برآ وردہ مسلمان کو جس کے کم ہونے میں وہ اشقیا اپنی فتح سمجھیں۔ وہ جسے جان وايمان دونوں عزیز ہیں اس بارے میں کریمہ

نَلْوَهُ لَا تَتَخَذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا (آل عمران ۱۱۸)

(کسی کافر کو رازدار نہ بناو وہ تمہاری بدخواہی میں کمی نہ کریں گے۔) وکریمہ **وَلَمْ يَتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْهَهُ** (التوبہ ۱۶) (اللہ و رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو ذیل کارنہ بنایا) و حدیث مذکور **لَا تَسْتَضِيوا بَنَارَ الْمُشْرِكِينَ** (مشرکوں کی آگ سے روشنی نہ لو) لبیں ہیں اپنی جان کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دینے سے زیادہ اور کیا راز درود خیل کار و مشیر بنانا ہو گا۔

امام محمد عبد ربی ابن الحاج کی قدس سرہ، مدخل میں فرماتے ہیں:

وَأَشَدُّ لَقْبَحِ وَاسْعَنْ مَا ارْتَكَبَهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ مَعَالِجَةِ الطَّبِيبِ وَالْكَحَالِ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ لَا يَرْجُى مِنْهُمَا نَصْحَ وَلَا خَيْرَ بِلِ يَقْطَعُ بِغَشِّهِمَا أَذِيَتْهُمَا لَمَنْ ظَفَرَ بِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سِيمَا إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ

كَبِيرًا فِي دِينِهِ أَوْ عِلْمِهِ

یعنی سخت ترقیق و شفیع ہے وہ جس کا ارتکاب آج کل بعض لوگ کرتے ہیں۔ کافر طبیب اور سببے سے علاج کرنا جن سے خیرخواہی اور بھلائی کی امید درکنار یقین ہے کہ جس مسلمان پر قابو پائیں اس کی بد سگالی کریں گے اور اسے ایذا پہنچائیں گے۔ خصوصاً جب کہ مریض دین یا علم میں عظمت والا ہو۔

پھر فرمایا:

أَنْهُمْ لَا يَعْطُونَ لَأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ شِيَةً مِّنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي تَصْرِهُ ظَاهِرًا لَّا نَهُمْ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَظَهَرَ غَشُّهُمْ وَانْقَطَعَتْ مَادَّةٌ مَعَاشُهُمْ لَا كَنْهُمْ يَصْفُونَ لَهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ مَا يَلِيقُ بِذَلِكَ الْمَرِيضِ وَيَظْهَرُونَ الصُّنْعَةَ فِي وَالنَّصْحِ وَقَدْبَعَا فِي الْمَرِيضِ فَيُنَسِّبُ ذَلِكَ إِلَى حَذْقِ الطَّبِيبِ وَمَعْرِفَةِ لِيقَعُ عَلَيْهِ الْمَعَاشِ كَثِيرًا السُّبُبُ مَا يَقْعُ لَهُ مِنَ الشَّاءِ عَلَى نَصْحَهُ فِي صُنْعَةٍ لَّكَنْهُ يَدْسُ فِي اثْنَانِ وَصَفَّهُ حَاجَةٌ لَا يَفْطَنُ فِيهَا لَمَنْ الضَّرُرُ غَالِبٌ وَتَكُونُ تَلَكَ الْحَاجَةُ مَا تَنْفَعُ ذَلِكَ الْمَرِيضُ وَيَنْتَعِشُ مِنْهُ فِي الْحَالِ لَكَنْهُ يَعُودُ عَلَيْهِ بِالضَّرُرِ فِي اخْرِ

الحال وقد يدس حاجة أخرى يصح بعد استعمالها لكنه اذا دخل الحمام انتكس ومات وحاجة أخرى اذا استعمالها صحيحة وقام من مرضه لكن لها مدة اذا انقضت عادة بالضرر وتحتفل المدة في ذلك فمنها ما يكون مدتها سنة او اقل او اكثرا الى غير ذلك من غشهم وهو كثير ثم يتعلل عدو الله ان هذا مرض اخر ليس له فيه حيلة ويظهر التاسف على اصحاب المريض ثم يصف اشياء تدفع مراضيه لكنها لاتفيده بعد ان فات الا مرفيه فينصح حيث لا ينفع نصيحته فمن يرى ذلك منه يعتقد انه من الناصحين وهو من اكبر

الخاشين

يعني وہ مسلمان کو کھلے ضرر کی دوائیں دیتے کہ یوں تو ان کی بد خواہی ظاہر ہو جائے اور ان کی روزی میں خلل آئے بلکہ مناسب دوایتے اور اس میں اپنی خیر خواہی دفن والی ظاہر کرتے ہیں اور کبھی مريض اچھا ہو جاتا ہے جس میں ان کا نام اور معاش خوب چلے اور اسی کے ضمن میں ایسی دوادیتے ہیں کہ فی الحال مريض کو نفع دے اور آئندہ ضرر لائے یا ایسی دوای کہ اس وقت مرض کھودے مگر جب مريض جماع کرے مرض لوٹ آئے اور مر جائے یا ایسی کہ سردست تند رست کر دے مگر جب حمام کرے مرض پڑے اور موت ہو یا ایسی کہ اس وقت مريض کھڑا ہو جائے۔ اور ایک مدت سال بھر یا کم پیش کے بعد وہ اپنارنگ لائے اور ان کے سوا ان کے فریبیوں کے بہت طریقے ہیں پھر جب مرض پلٹا تو اللہ کا دشمن یوں بہانے بناتا ہے کہ یہ جدید مرض ہے اس میں میرا کیا اختیار ہے اور مريض کی حالت پر افسوس کرتا ہے پھر صحیح نافع نہیں بتاتا ہے۔ مگر جب بات ہاتھ سے نکل گئی کیا فائدہ تو اس وقت خیر خواہی دکھاتا ہے۔ جب اس سے نفع نہیں دیکھنے والے اسے خیر خواہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سخت تر بد خواہ ہے۔

كل العدوا قد ترجى ازالتها الاعدوة من عادك في الدين

تمام دشمنوں کا زوال ممکن ہے مگر عداوت دینی کہ نہیں جاتی۔

پھر فرمایا:

قد يستعلمون انصح في بعض الناس ممن لا خطولهم في الدين ولا علم ذلك ايضا من الغش لاهم لولم ينصحوا لما حصلت لهم الشهرة بالمعرفة بالطب ولتعطل عليهم معاشهم وقد يفطن لغشهم ومن غشهم نصحهم لبعض ابناء الدنيا لينشتهر وابذلک وتحصل لهم الخطوة عندهم وعند کثیر ممن شابهم و يستسلطون بسبب ذلك على قتل العلماء والصالحين وهذا النوع موجود ظاهر. وقد ينصحون العلماء والصالحين و ذلك منهم غش ايضا لأنهم يفعلون ذلك لكي تحصل لهم الشهرة و تظهر صنعتهم

فيكون سببا الى اتلاف من يريدون اتلاضعنهم واهذا منهم مكر عظيم

یعنی وہ کبھی عوام کے علاج میں خیرخواہی کرتے ہیں اور یہ بھی ان کا مکر ہے کہ ایسا نہ کریں تو شہرت کیسے ہو رہیوں میں فرق آئے اور کبھی ان کے فریب پر لوگ چرچ جائیں یونہی یہ فریب ہے کہ بعض رئیسوں کا علاج اچھا کرتے ہیں کہ شہرت اور اس کے نزدیک اس جیسوں کی نگاہ میں وقت ہو۔ پھر علماء صلحاء کے قتل کا موقع ملے اور ایسے اب موجود و ظاہر ہیں اور کبھی علماء صلحاء کے علاج میں بھی خیرخواہی کرتے ہیں اور یہ بھی فریب ہے کہ مقصود سا کہ بندھن ہے پھر جس عالم یاد بیندار کا قتل مقصود ہے اس کی راہ ملتا اور یہ ان کا بڑا مکر ہے۔

پھر اپنے زمانہ کا ایک واقعہ ثقہ معتمد کی زبانی بیان فرمایا کہ مصر میں ایک رئیس کے یہاں ایک یہودی طبیب تھا ریس نے کسی بات پر ناراض ہو کر اسے نکال دیا وہ خوشامدیں کرتا رہا یہاں تک کہ رئیس راضی ہو گیا کافروں کا منتظر رہا پھر رئیس کوخت مرض ہوا۔ میں طبیب مغربی سے طب پڑھ رہا تھا لوگ انہیں بلانے آئے انہوں نے عذر کیا لوگوں نے اصرار کیا گئے اور مجھے فرمائے میرے آنے تک بیٹھے رہنا تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کانپتے تھر تھراتے واپس آئے۔ میں نے کہا خیر فرمایا میں نے کہا یہودی نے کیا سخن دیا معلوم ہوا کہ وہ رئیس کا کام تمام کر چکا میں اندر گیا کہ ایک تو اس کے نچنے کی امید نہیں پھر یہ اندیشہ کہ کہیں یہودی میرے ذمہ نہ رکھ دے رئیس کل تک نہ بچے گا وہی ہوا کہ صحیح تک اس کا انتقال ہو گیا پھر فرمایا بعض لوگ کافر طبیب کے ساتھ مسلمان طبیب کو بھی شریک کرتے ہیں کہ جو سخن وہ بنائے مسلمانوں کو دکھالیں یوں اس کے مکر سے امن سمجھتے ہیں اور اس میں کچھ حرج نہیں جانتے فرمایا وہذا

الیس بشئی ایضاً من وجوه الاول ان المسلم قد يفعل عن بعض ما وصفه الثاني فيه اقتداء الغير به الثالث
فيه الاعانة لهم على كفرهم بها يحطيه لهم الرابع فيه ذلة المسلم لهم الخامس فيه تعظيم شأنهم لا سيما
ان كان المريض رئيساً وقد امرا الشارع عليه الصلة والسلام بتصغيره شأنهم وهذا عكسه يبھی بوجوه کچھ
نہیں۔ ایک تو ممکن کہ جو دوا کافر نے بتائی اس وقت مسلمان طبیب کے خیال میں اس کا ضرر نہ آئے۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی اور مسلمان بھی کافر سے علاج کرائیں گے۔ فیں وغیرہ جو سے دی جائے وہ اس کے کفر پر مدد ہوگی۔ مسلمان کو اس کے لئے تواضع کرنا پڑے گی علاج کی ناموری سے کافر کی شان بڑھے گی خصوصاً اگر مريض رئیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحقیر کا حکم دیا اور یہ اس کا عکس ہے پھر فرمایا:

ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ مَا يَحْصُلُ مِنَ الْأَنْسَ وَالْوَدْلَهُمْ وَإِنْ قَلَ الْآمِنُ عَصْمَ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَلِيْسُ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْلَاقِ

أهل الدین

پھر ان سب وجوہ کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے ان کے ساتھ انس اور کچھ محبت پیدا ہو جاتی ہے اگرچہ تھوڑی ہی کہی سو اس کے جسے اللہ محفوظ رکھے اور وہ بہت کم ہیں اور کافر سے انس اہل دین کی شان نہیں۔

پھر فرمایا: و مع ذلك يخشى على دين بعض من يستطيعهم من المسلمين - ان سب قباحتون کے ساتھ حلت افتیہ ہے کہ بھی ان سے علاج کرنے والے کے ایمان پر اندیشہ ہوتا ہے پھر اپنے بعض ثقہ معتمد برادران دینی کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کے یہاں بیماری ہوئی میریض ایک یہودی طبیب کی طرف رجوع پر اصرار کیا انہوں نے اسے بلا یا وہ علاج کرتا رہا ایک دن اسے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہتا ہے مویٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دین قدیم ہے اس کو اختیار کرنا چاہئے اور یونہی کیا کیا بکتر رہا یہ ترساں ولرزائ جا گے اور عہد کر لیا کہ اب وہ میرے گھر نہ آنے پائے راستے میں بھی وہ جہاں متایا اور راہ ہو جاتے کہ مبادا اس کا وبال انہیں پہنچے امام فرماتے ہیں:

وَهَذَا قَدْ رَحْمٌ بِسَبَبِ أَنَّهُ كَانَ مَعْتَنِي بِهِ فِي خَافٍ مِّنْ اسْتِطْبَاهِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ مَعْتَنِي بِهِ أَنْ يَهْلِكَ مَعْهُمْ وَلَوْلَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا خَوْفٌ مِّنْ هَذَا الْأَمْرِ الْخَطِيرِ لَكَانَ مَتَعِنًا تَرَكَهُ فَكَيْفَ مَعْ وَجُودِ مَا تَقْدِمُ إِنْ صَاحِبٌ بِرْ تَوْيُولِ رَحْمَتِهِ ہوئی کہ زیر نظر عنایت تھے جو ایمان ہوا اور ان سے علاج کرائے اس پر خوف ہے کہ ان کے ساتھ ہلاک ہو جائے۔ ان کے علاج میں اس شدید خطرناک خوف کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تو اس قدر سے اس کا ترک لازم ہوتا ہے کہ اور شناعتوں کے ساتھ جن کا ذکر گذر۔ ان امام ناصح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان نصیص بیانوں کے بعد زیارت کی حاجت نہیں اور بالخصوص علماء و عظامائے دین کے لئے زیادہ خطرے کا مovid امام زری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے علیل ہوئے ایک یہودی معانج تھا اچھے ہو جاتے پھر مرض عود کرتا کئی بار یوں ہی ہوا آخر سے تہائی میں بلا کرو ریافت کیا اس نے کہا اگر آپ مجھ پوچھتے ہیں تو ہمارے نزدیک اس سے زیادہ کوئی کارثو ایش نہیں کہ آپ جیسے امام کو مسلمانوں کے ہاتھ سے کھو دوں۔ امام نے اسے دفع فرمایا مولا تعالیٰ نے شفا بخشی پھر امام نے طب کی طرف توجہ فرمائی اور اس میں تصانیف کیں اور طلبہ کو حاذق اطباء کر دیا اور مسلمانوں کو ممانعت فرمادی کہ کافر طبیب سے کبھی علاج نہ کرائیں یہود کو مثل مشرکین ہیں کہ قرآن عظیم نے دونوں ایک ساتھ مسلمانوں کا سب سے سخت تر دشمن بتایا اور لا یا لوکم خبالتا عالم کفار کے لئے فرمایا۔ عورت کا مرتدہ ہو کر نکاح سے نہ نکلنا تمام کتب ظاہر الروایۃ و جملہ متون و عامہ شروح و فتاویٰ قدیمه سب کے خلاف ہے اور سب کے موافق۔ خلاف ہے قول صوری کے اور موافق ہے قول صوری کے۔ قول صوری و ضروری کا فرق میرے رسالہ اجلی الاعلام بان الفتوى مطلقاً على قول الامام میں ملے گا کہ میرے فتاوے جلد اول میں طبع ہوا اور اس کا قول ضروری کے موافق ہونا میرے فتوے سے کہ بجواب سوال علی گڑھ لکھا ظاہر اس کی نقل حاضر ہوگی اور یہ حکم صرف نکاح میں ہے باقی تمام احکام ارتداوجاری ہوں گے نہ وہ شوہر کا ترکہ پائے گی نہ شوہر اس کا۔ اگر اپنے مرض الموت میں مرتدہ نہ ہوئی ہو نیز جب تک وہ اسلام نہ لائے شوہر کو اسے ہاتھ لگانا حرام ہو گا اما لگیری منشاء مسئلہ مذکورہ سے خالی نہیں باب نکاح الکفار میں دیکھئے:

لواجرت کلمة الكفر على لسانها مغایظة لزوجها او اخراجا لنفسها عن حاليه والاستجاب المهر عليه بنکاح متالف تحرم على زوجها فبحبر على الاسلام ولكل قاض ان يجدد النکاح بادنى شئ ولو بدينار سخطت اور ضیت وليس لها ان تزوج الا بزوجها قال الهندو اني اخذ بهذا قال ابواللیث وبه ناخذ

کذا فی التمر تاشی

اسی کے بیان میں درج تھا میں ہے:

صرحوا بتعزیرها خمسة و سبعين و تجبر على الاسلام و على جديدهنکاح بمهریسیر کدینار و عليه الفتوى والواکبیة

یہ احکام اسی طرح مذهب کے خلاف ہیں جب مرتد ہوتے ہیں نکاح فوراً فتح ہو گیا کہ ارتداد احمدہما فسخ فی الحال پھر بعد عدت دوسرے سے اسے نکاح ناجائز ہونا گیا معنی اور پہلے سے تجدید نکاح پر جبر کیا معنی۔ کیوں نہیں جائز کہ وہ کسی سے نکاح نہ کرے اور اس تجدید میں زبردستی ادنی سے ادنی مهر باندھنے کا ہر قاضی کو اختیار ملنا کیا معنی مهر عوض بعض ہے اور معاوضات میں تراضی شرط۔

اقول

بلکہ ان اکابر کے قول مأخذ و مفتی بہ کہ قول ائمہ بخاری ہے فتوائے ائمہ بنی رحم اللہ تعالیٰ سے جسے فقیر نے باتابع نہر الفائق وغیرہ اختیار کیا بعد نہیں تجدید نکاح بنظر احتیاط ہے اور شوہر پر حرام ہو جانا موجب زوال نکاح نہیں بارہا عورت ایک مدت تک حرام ہو جاتی ہے اور نکاح باقی ہے جیسے بحال نماز و روزہ رمضان واعتكاف و احرام و حضن نفاس یو ہیں جب کہ زوجہ کی بہن سے نکاح کر کے قربت کر لے زوجہ حرام ہو گئی یہاں تک کہ اس کی بہن کو جدا کرے اور اس کی عدت گذر جائے بلکہ کبھی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے اور نکاح زائل نہیں جیسے حرمت مصاہرات طاری ہونے سے کہ متارکہ لازم ہے تو نکاح قائم ہے اور زن مفہماۃ کہ سبیلیں ایک ہو جائیں نکاح میں اصلاً خلل نہیں اور حرمت ابدی دائم ہے والسائل منصوص علیہا فی الدر وغیرہ من السفار الخ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ:

- (۱) جمعہ کی اذان ثانی جو نمبر کے سامنے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد کے اندر ہوتی تھی یا باہر؟
- (۲) خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں کہاں ہوتی تھی؟
- (۳) فقہ ختنی کی معتمد کتابوں میں مسجد کے اندر اذان دینے کو منع فرمایا اور مکروہ لکھا ہے یا نہیں؟
- (۴) اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں اذان مسجد کے باہر ہوتی تھی اور ہمارے اماموں نے مسجد کے اندر اذان کو مکروہ فرمایا ہے تو ہمیں اسی پر عمل لازم ہے یا رسم و رواج پر اور جو رسم و رواج حدیث شریف و احکام فقہ سب کے خلاف پڑ جائے تو وہاں مسلمانوں کو پیر وی حدیث و فقہ کا حکم ہے یا رسم و رواج پر اڑا رہنا۔
- (۵) نئی بات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین و احکام ائمہ کے مطابق ہو یا وہ بات نئی ہے جو ان کے خلاف لوگوں میں راجح ہو گئی ہو۔
- (۶) مکہ معظمه، مدینہ منورہ میں یہ اذان مطابق حدیث و فقہ ہوتی ہے یا اس کے خلاف اگر خلاف ہوتی ہے تو وہاں کے علمائے کرام کے ارشادات دربارہ عقائد جھٹ ہیں یا وہاں کے تنخواہ دار موزونوں کے فعل اگرچہ خلاف شریعت و حدیث فقہ ہوں۔
- (۷) سنت کے زندہ کرنے کا حدیثوں میں حکم ہے اور اس پر سو شہیدوں کے ثواب کا وعدہ ہے یا نہیں اگر ہے تو سنت زندہ کی جائے گی یا سنت مردہ، سنت اس وقت مردہ کہلائے گی جب اس کے خلاف لوگوں میں رواج پڑ جائے یا جو سنت خود راجح ہو وہ مردہ قرار پائے گی۔
- (۸) علماء پر لازم ہے یا نہیں کہ سنت مردہ زندہ کریں اگر ہے تو کیا اس وقت ان پر یہ اعتراض ہو سکے گا کہ کیا تم سے پہلے عالم نہ تھے اگر وہ اعتراض ہو سکے گا تو سنت زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہو گی۔
- (۹) جن مسجدوں کے نیچے میں حوض ہے اس کی فصیل پر کھڑے ہو کر نمبر کے سامنے اذان ہو تو پیرون مسجد کا حکم ادا ہو جائے گا یا نہیں؟
- (۱۰) جن مسجدوں میں ایسے نمبر بنے ہیں کہ ان کے سامنے دیوار ہے اگر موزن باہر اذان دے تو خطیب کا سامنا نہ رہے گا وہاں کیا کرنا چاہئے امید کر دسوں مسئللوں کا جدا جدا جواب مفصل مدلل ارشاد ہو۔ بینوا توجرو۔

جواب سوال اول

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ اذان مسجد سے باہر دروازہ پر ہوتی تھی سنن ابی داؤد شریف جلد اول ص ۱۵۶ میں ہے:

**عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال كان يوذن بيدى رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا جلس
على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد و ابى بكر و عمر رضي الله عنهما**

یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازہ پر اذان ہوتی اور ایسا ہی ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانہ میں۔

اور کبھی منقول نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مسجد کے اندر اذان دلوائی ہو اگر اس کی اجازت ہوتی تو پیان جواز کے لئے کبھی ایسا ضرور فرماتے۔

جواب سوال دوم

جواب اول سے واضح ہو گیا کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مسجد کے باہر ہی ہونا مروی ہے اور یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ بعض صاحب جو یہنے یہ سے مسجد کے اندر ہونا سمجھتے ہیں غلط ہے دیکھو حدیث میں بین یدی ہے اور ساتھی علی باب المسجد ہے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہرہ انور کے مقابل مسجد کے دروازہ پر ہوتی تھی بس اسی قدر بین یدیہ کے لئے درکار ہے۔

جواب سوال سوم

بے شک فقہ حنفی کی معتمد کتابوں میں مسجد کے اندر اذان کو منع فرمایا اور مکروہ کہا ہے فتاویٰ قاضی خان طبع مصر جلد اول صفحہ ۷۸ لا یوذن فی المسجد ”مسجد کے اندر اذان نہ دی جائے۔“ فتاویٰ خلاصہ قلمی صفحہ ۶۲ لا یوذن فی المسجد۔ ”مسجد میں اذان نہ ہو،“ خزانۃ المقتین قلمی فصل فی الاذان لا یوذن فی المسجد۔ ”مسجد کے اندر اذان نہ کہیں۔“ فتاویٰ عالمگیری طبع مصر جلد اول صفحہ ۵۵ لا یوذن فی المسجد۔ ”مسجد کے اندر اذان منع ہے۔“ بحرائق طبع مصر جلد اول صفحہ ۲۶۸ لا یوذن فی المسجد۔ ترجمہ: ”مسجد کے اندر اذان کی ممانعت ہے،“ شرح تغاییہ علامہ برجندي صفحہ ۸۲ فیہ اشعا بانہ لا یوذن فی المسجد امام صدر الشریعۃ کے کلام میں اس پر تنبیہ ہے کہ اذان مسجد میں نہ ہو غیرۃ شرح مدیہ صفحہ ۳۷۔ الاذان انما یکون فی المئذنة او خارج المسجد والاقامة فی داخلہ۔ اذان نہیں ہوتی مگر منارہ یا مسجد سے باہر اور تکبیر مسجد کے اندر فتح

القدر طبع مصر جلد اول صفحہ ۱۔ قالوا الا یوذن فی المسجد علماء نے مسجد میں اذان دینے کو منع فرمایا ہے ایضاً باب اجمعۃ صحیح
 ۳۱۲۔ ہو ذکر اللہ فی المسجد ای فی حدودہ لکراہۃ الاذان فی داخلہ۔ جمعہ کا خطبہ مثل اذان ذکر الہی ہے
 مسجد میں یعنی حدود مسجد میں اس لئے کہ مسجد کے اندر اذان مکروہ ہے طحاوی علی مرافق الفلاح طبع مصر جلد اول صفحہ ۲۸ ایکرہ ان
 یوذن فی المسجد کما فی القہستانی عن النظم۔ یعنی نظم امام زندہ نیستی پھر قہستانی میں ہے کہ مسجد میں اذان مکروہ ہے
 یہاں تک کہ اب زمانہ حال کے ایک عالم مولوی عبدالحی صاحب لکھنؤی عمدۃ الرعایہ ہاشمیہ شرح وقایہ جلد اول صفحہ ۲۳۵ میں لکھتے
 ہیں قولہ یدیہ ای مستقبل الامام فی المسجد کان او خارجه والمستون هو الثانی۔ یعنی میں یہ یہ کے معنی
 صرف اس قدر ہیں کہ امام کے رو برو مسجد میں خواہ باہر سنت ہی ہے کہ مسجد کے باہر ہو جب تو وہ بقریع کر چکے کہ باہر ہی ہونا
 سنت ہے تو اندر ہونا خلاف سنت ہوا تو اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ چاہے سنت کے مطابق کرو چاہے سنت کے خلاف دونوں
 باتوں کا اختیار ہے۔ ایسا کون عاقل کہے گا بلکہ معنی وہی ہیں کہ میں یہ یہ سے یہ سمجھ لینا کہ خواہی خواہی مسجد کے اندر ہو غلط ہے اس
 کے معنی صرف اتنے ہیں کہ امام کے رو برو ہو اندر باہر کی تخصیص اس لفظ سے مفہوم نہیں ہوتی لفظ دونوں صورتوں پر صادق ہے اور
 سنت ہی ہے کہ اذان مسجد کے باہر ہو تو ضرور ہے کہ وہی معنی لئے جائیں جو سنت کے مطابق ہیں بہر کیف اتنا ان کے کلام میں
 بھی صاف مصروف ہے کہ اذان ثانی جمعہ بھی مسجد کے باہر ہی ہونا مطابق سنت ہے تو بلاشبہ مسجد کے اندر ہونا خلاف سنت ہے۔
 وللہ الحمد۔

جواب سوال چہارم

ظاہر ہے کہ حکم حدیث و فقہ کے خلاف رواج پر اڑا رہنا مسلمانوں کو ہرگز نہ چاہئے۔

جواب سوال پنجم

ظاہر ہے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم و احکام فقه کے خلاف نکلی ہو۔ وہی نئی بات ہے اسی سے
 پچھا چاہئے نہ کہ سنت و حکم حدیث و فقہ سے۔

جواب سوال ششم

مکہ معظمه میں یہ اذان کنارہ مطاف پر ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد الحرام شریف مطاف ہی تک تھی
 مسلک مقطط علی قاری طبع مصر صفحہ ۲۸۰ المطاف ہو ما کان فی زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجداً۔ تو حاشیہ
 مطاف بیرون مسجد محل اذان تھا اور مسجد جب بڑھائی جائے تو پہلے جو جگہ اذان یا وضو کے لئے مقرر تھی بدستور مستثنی رہے گی والا ہذا اگر
 مسجد بڑھا کر کنوں اندر کر لیا وہ بندنہ کیا جائے گا جیسے زمزم شریف حالانکہ مسجد کے اندر کنوں بنانا ہرگز جائز نہیں فتاویٰ قاضی خاں و

فاوی عالمگیریہ صفحہ ۳۰ یکرہ الضمضة والوضوء فی المسجد الا ان یکون ثمه موضع اعدلذلک ولا یصلی
فیه و ہیں ہے لا یحضر فی المسجد بشرماء ولو قیدیمة تترک کبئر زمزم تو مکہ معظمہ میں اذان ٹھیک محل پر ہوتی ہے
مدینہ طیبہ میں خطیب سے بیس بلکہ زائد رائع کے فاصلہ پر ایک بلند مکبرہ پر کہتے ہیں طریق ہندیہ کے تو یہ بھی خلاف ہوا اور وہ جو
بیس یدیہ وغیرہ سے منبر کے متصل ہونا سمجھتے تھا سے بھی رو ہو گیا تو ہندی فہم و طریقہ خود ہی دونوں حرام محترم سے جدا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ یہ مکبرہ قدیم ہے یا بعد کو حادث ہوا اگر قدیم ہے تو مثل منارہ ہوا کہ وہ اذان کے لئے مستثنی ہے جیسا کہ غنہ سے
گذر اور اسی طرح خلاصہ و فتح القدر یہ برجندی کے صفات مذکورہ میں ہے کہ اذان منارہ پر ہو یا مسجد سے باہر مسجد کے اندر نہ اس کی
نظر موضع وضو و چاہ ہیں کہ قدیم سے جدا کر دیئے ہوں نہ اس میں حرج نہ اس میں کلام اور اگر حادث ہے تو اس پر اذان کہنا بالائے
طاقد پہلے بھی ثبوت دیجئے کہ وسط مسجد میں ایک جدید مکان کھڑا کر دینا جس سے صاف قطع ہوں کس شریعت میں جائز ہے قطع صاف
بلاشبہ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قطع صفا قطعہ اللہ جو صاف کو قطع کرے اللہ اسے قطع کر دے رواہ التسانی والحاکم
بسند صحیح عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نیز علامہ ناصر حسینی تصریح فرمائی کہ مسجد میں پیڑ بونا منع ہے کہ نماز کی جگہ گھیرے گانہ ک یہ مکبرہ کہ چار جگہ
سے گھیرتا ہے اور کتفی صافیں قطع کرتا ہے۔ بالجملہ اگر وہ جائز طور پر بناتا تو مثل منارہ ہے جس سے مسجد میں اذان ہونا نہ ہوا اور ناجائز طور
پر ہے تو اسے ثبوت میں پیش کرنا کیا انصاف ہے اب ہمیں افعال موز نہیں سے بحث کی حاجت نہیں مگر جواب سوال کو گذارش کہ ان
کا فعل کیا جھت ہو حالانکہ خطیب خطبہ پڑھتا ہے اور یہ بولتے جاتے ہیں جب وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لیتا ہے یہ با ازالہ
دعا کرتے ہیں اور یہ سب بالاتفاق ناجائز ہے صحیح حدیثیں اور تمام کتابیں ناطق ہیں کہ خطبہ کے وقت بولنا حرام ہے درحقیار و
رد المحتار جلد اول صفحہ ۸۵۹۔ اما ما یفعله المودن حال الخطبة من الترضی و نحوه فمکروه اتفاقاً یعنی وہ جو یہ موز
خطبہ کے وقت رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے جاتے ہیں یہ بالاتفاق مکروہ ہے بھی موز نماز میں امام کی تکبیر پہنچانے کو جس وضع سے تکبیر کہتے
ہیں اسے کون عالم جائز کہہ سکتا ہے مگر سلطنت کے وظیفہ داروں پر علماء کا کیا اختیار علمائے کرام نے تو اس پر یہ حکم فرمایا کہ تکبیر در کنار
اس طرح تو ان کی نمازوں کی بھی خیر نہیں دیکھو فتح القدر جلد اول صفحہ ۲۶۲ و ۲۶۳ و در حقیار و رد المحتار صفحہ ۲۱۵ خود مفتی مدینہ منورہ علامہ
سید اسعد حسینی مدفنی تلمیذ علامہ صاحب مجمع الانہر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تکبیر میں اپنے یہاں کے مکبروں کی سخت بے اعتدالیاں تحریر فرمائی
ہیں دیکھو فتاویٰ اسعدیہ جلد اول صفحہ ۸ آخر میں فرمایا ہے: اما حرکات المکبرین و صنعہم فانا ابشروا الى الله تعالیٰ
منہ یعنی ان مکبروں کی جو حرکتیں جو کام ہیں میں ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف براءت کرتا ہوں اور اوپر اس سے بڑھ کر لفظ لکھا پھر کسی
عقل کے نزدیک ان کا فعل کیا جھت ہو سکتا ہے نہ وہ علماء ہیں نہ علماء کے زیر حکم۔

جواب سوال هفت

بے شک احادیث میں سنت زندہ کرنے کا حکم اور اس پر بڑے ثوابوں کے وعدے ہیں اُنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

من احیا سنتی فقد اجبنی و من اجنی کان معی فی الجنة اللهم ارزقنا رواه السخبری فی الابانة والترمذی

بلغظ من احب

جس نے میری سنت زندہ کی بے شک اسے مجھ سے محبت ہے اور جسے مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

حضرت بلاں رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

من احیا سنة من سنتی قدامتیت بعد فان له من الاجر مثل اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجرورهم

شیاء (رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجہ عن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

جو میری کوئی سنت زندہ کرے کہ لوگوں نے میرے بعد چھوڑ دی ہو جتنے اس پر عمل کریں سب کے برابر اسے ثواب ملے اور ان کے ثوابوں میں کچھ کمی نہ ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مائة شهید رواه البیهقی فی الزهد

جو فساد امت کے وقت میری سنت مضبوط تھامے اسے شہیدوں کا ثواب ملے۔

اور ظاہر ہے زندہ وہی سنت کی جائے گی مردہ ہو گئی اور سنت مردہ جبھی ہو گئی کہ اس کے خلاف روانج پڑ جائے۔

جواب سوال هشتم

احیائے سنت علماء کا تو خاص فرض منصبی ہے اور جس مسلمان سے ممکن ہواں کے لئے حکم عام ہے ہر شہر کے مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنے شہر یا کم از کم اپنی اپنی مساجد میں اس سنت کو زندہ کریں اور سو شہیدوں کا ثواب لیں اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ کیا تم سے پہلے عالم نہ تھے یوں ہو تو کوئی سنت زندہ ہی نہ کر سکے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی سنتیں زندہ فرمائیں اس پر ان کی مدح ہوئی نہ کہ اتنا اعتراض کتم سے پہلے تو صحابہ و تابعین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

جواب سوال نهم

حوض کا بانی مسجد نے قبل مسجدیت بنایا اگرچہ وسط مسجد میں ہوا اور اس کی فصیل ان احکام میں خارج مسجد ہے لانہ موضع

اعد للوضوء كما تقدم۔

لکڑی کا منبر بنائیں کہ یہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے گوشہ محراب میں رکھ کر مجازات ہو جائے گی اور اگر صحن کے بعد مسجد کی بلند دیوار ہے تو اسے قیام موزن کے لاٹ تراش کر باہر کی جانب جائی یا کواڑ لگائیں۔

مسلمان بھائیو! یہ دین ہے کوئی دنیوی جھگڑا نہیں دیکھ لو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے تمہاری مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔

حضرات علمائے اہلسنت سے معروض

حضرات احیائے سنت آپ کا کام ہے اس کا خیال نہ فرمائیے کہ آپ کے ایک چھوٹے نے اسے شروع کیا وہ بھی آپ ہی کا کرنا ہے آپ کے رب کا حکم ہے تعاون نواعلی البر والتقویٰ اور اگر آپ کی نظر میں یہ مسئلہ صحیح نہیں تو غصہ کی حاجت نہیں بے تکلف بیان حق فرمائیے اور اس وقت لازم ہے کہ ان دسوں سوالوں کے جدا جدا جواب ارشاد ہوں اور ان کے ساتھ ان پانچوں سوالوں کے بھی:

- (۱) ارشارت مرجوح ہے یا عبارت اور ان میں فرق کیا ہے؟
- (۲) کیا محتمل و صریح کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟
- (۳) تصریحات کتب فقہ کے سامنے کسی غیر کتاب فقہ سے استنباط پیش کرنا کیسا ہے خصوصاً استنباط بعید یا جس کا نشانہ بھی غلط؟
- (۴) حنفی کو تصریحات فقہ حنفی کے مقابلہ کسی غیر کتاب حنفی کا پیش کرنا کیسا؟
- (۵) قرآن مجید کی تجوید فرض عین ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا سب ہندی علماء اسے بجالاتے ہیں یا سو میں کتنے؟

مسئلہ ۱۰۱ زید کہتا ہے مولانا احمد رضا خان ہر کتاب اور ہر خط میں لکھتے ہیں ”رَأْمَ عَبْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ خدا جل جلالہ کے سواد و سرے کا عبد کیسے بن سکتا ہے فقیر نے جواب دیا بھائی یہاں عبد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ بندہ۔ بینوا تو جروا۔

الجواب اللہ عزوجل فرماتا ہے وَنَكْحُوا إِلَيْا يَامِيْ مِنْكُمْ وَالصَّلَحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَأَمَانِكُمْ ہمارے غلاموں کو ہمارا بندہ فرمایا کہ تم میں جو عورتیں ہے شوہر ہوں انہیں بیاہ دو اور تمہارے بندوں اور تمہاری باندیوں میں جو لاٹ ہوں ان کا نکاح کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی المسلم فی عبده ولا فرسه صدقۃ مسلمان پر اس کے بندے اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم اور باقی سب صحابہ میں ہے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع صحابہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع فرمایا کہ علائیہ بر سر منبر فرمایا کنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کنت عبده و خادمه میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں حضور کا بندہ تھا اور حضور کا خدمت گار تھا یہ حدیث وہابیہ کے

امام الطائفہ اسمعیل دہلوی کے دادا اور زعم طریقت میں پردا و اجناب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ازالۃ اخفا۔ میں بحوالہ ابوحنیفہ و کتاب الریاض النصرہ لکھی اور اس سے سندی اور مقبول رکھی۔ مشنوی شریف میں قصہ خریداری بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کی۔

گفت مادر بند گان کوئے تو کردمش آزاد ہم برزوئے تو

اللہ عزوجل فرمایا ہے:

قل يعبدى الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنتوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور

الرحیم (الرمز: ۵۳)

اے محبوب تم اپنی تمام امت سے یوں خطاب فرماؤ کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت ہے نا امید نہ ہو
بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی ہے بخششہ والا مہربان۔

حضرت مولوی معنوی قدس سرہ مشنوی شریف میں فرماتے ہیں۔

بنڈھے خود خواند احمد در درشاد جملہ عالم رابخوار قل يعبد

طرفہ یہ کہ وہابیہ حال کے حکیم الامتہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی جب تک مسلمان کہلاتے تھے حاشیہ شامم امدادیہ میں قرآن کریم کا یہی مطلب ہونے کی تائید کر گئے کہ تمام جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہے۔ اب گنگوہی اصطلاح پا کر شاید اسے ہر شرک سے بدتر شرک کہیں گے حالانکہ ہر شرک سے بدتر شرک کے مرتكب خود گنگوہی صاحب ہیں کے براہین قاطعہ میں صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک مانا ہے جس کا بیان علمائے حریم شریفین کے فتاویٰ مسکی بہ حام المحریم علی منحر الکفر والمیمن میں اور اس مسئلہ عبد المصطفیٰ کی تمام تفصیل ہمارے رسالہ ”بذل الصفا تعبد المصطفیٰ“ میں ہے اے مسکین عبد اللہؑ بمعنی خلق خدا و ملک خدا تو ہر مومن و کافر ہے مومن وہی ہے جو عبد المصطفیٰ ہے امام الاولیاء و مرجع العلماء حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

من لم ير نفسه في ملك النبي صلی الله تعالیٰ عليه وسلم لا يذوق حلاوة الايمان

جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مملوک نہ جانے ایمان کا مزہ نہ چکھے گا۔

آخر نہ دیکھا جب اللہ عزوجل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشانی میں ودیعت رکھا اور اسی نور کی تعظیم کے لئے تمام ملائکہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ کا حکم دیا اس سے سجدہ کیا ابلیس لعین نے نہ کیا کیا وہ اس وقت عبد اللہ ہونے سے نکل گیا اللہ کا مخلوق کا مملوک رہا حاشایہ تو ناممکن ہے بلکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو نہ جھکا عبد المصطفیٰ نہ بنا لہذا مرد و ابدی و ملعون

سرمدی ہوا آدمی کو اختیار ہے چاہے عبد المصطفیٰ بنے اور ملائکہ مقرین کا ساتھی ہو یا اس سے انکار کرے اور ابلیس نہیں کا ساتھ دے۔ والعياذ بالله رب العالمين - واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۲ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام مفتیان عظام اس مسئلہ میں کہ جبھے ہوئے گھی میں حرام جانور مثلاً چوبہ ایلی کتاب مر گیا یا جھونٹا کر گیا وہ گھی یا تیل کیسے پاک ہو گا اور وہ کھانا درست ہو گا یا نہیں؟ بینوا توجرووا۔

الجواب گھی اگر جما ہوا ہے تو اس جانور یا اس کے منہ لگنے کی جگہ سے کھرچ کر تھوڑا سا پھینک دیں باقی پاک ہے احمد و ابو داؤد ابو ہریرہ اور داری عباد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها۔ اگر جبھے ہوئے گھی میں چوبہ اگر جائے تو چوبہ اور اس کے آس پاس گھی نکال کر پھینک دو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ گھی گرم تھا اس میں مرغی کا بچہ گرا اور فوراً مر گیا یہ گھی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجرووا۔

الجواب گھی ناپاک ہو گیا بے پاک کئے اس کا کھانا حرام ہے پاک کرنے کے تین طریقے ہیں۔
پہلا طریقہ یہ کہ اتنا ہی پانی اس میں ملا کر جنبش دیتے رہیں یہاں تک کہ سب گھی اوپر آ جاوے اسے اتار لیں اور دوسرا پانی اسی قدر ملا کر یونہی کریں پھر اتار کر تیرے پانی میں اسی طرح دھوئیں اور اگر گھی سرد ہو کر جم گیا ہو تو ہمیں بار اس کے برابر پانی ملا کر جوش دیں یہاں تک کہ گھی اوپر آ جائے اتار لیں بلکہ جوش دینے کی پہلے ہی بار حاجت ہے پھر تو گھی ریقق ہو جائے گا۔ اور پانی ملا کر جنبش دینا کفالت کرے گا۔

دوسرा طریقہ ناپاک گھی جس برتن میں ہے اگر جبنتے کی طرف مائل ہو گیا ہو آگ پر پکھلا لیں اور ویسا ہی پکھلا ہو پاک گھی اس برتن میں ڈالتے جائیں یہاں تک کہ گھی سے بھر کر مائل جائے گھی پاک ہو جائے گا۔

تیسرا طریقہ دوسرا گھی پاک لیں اور مثلاً تخت پر بیٹھ کر نیچے ایک خالی برتن رکھیں اور پرنا لے ک شل کسی چیز میں وہ پاک گھی ڈالیں اور اس کے بعد یہ ناپاک گھی اس پرنا لے میں ڈالیں یوں کہ دونوں کی دھاریں ایک ہو کر پرنا لے سے برتن میں گریں اسی طرح پاک و ناپاک دونوں گھی ملا کر ڈالیں یہاں تک کہ سب ناپاک گھی پاک گھی سے ایک دھار ہو کر برتن میں پہنچ جائے سب پاک ہو گیا۔

پہلے طریقہ میں پانی سے گھی کوتین بار دھونے میں گھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور دوسرے طریقہ میں ابل کر تھوڑا گھی ضائع ہو جائے گا تیرا طریقہ بالکل صاف ہے مگر اس میں احتیاط بہت درکار ہے کہ برتن میں ناپاک گھی کی کوئی بوند ناپاک سے پہلے پہنچ نہ

بعد کو گرے نہ پرانا لے میں بھاتے وقت اس کی کوئی چھینٹ پاک گھی سے جدا برتن میں گرے ورنہ برتن میں جتنا پہچایا اب پچھے گا سب ناپاک ہو جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۳ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ مسلمان کو موچھہ بڑھانا یہاں تک کہ منہ میں آئے کیا حکم ہے زید کہتا ہے ٹرکش لوگ بھی مسلمان ہیں وہ کیوں موچھہ بڑھاتے ہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب موچھیں اتنی بڑھانا کہ منہ میں آئیں حرام و گناہ سونت مشرکین و مجوہ و یہود نصاریٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجہ کی حدیث صحیح میں فرماتے ہیں۔

احفوا الشوارب واعفو اللھی ولا تشبهوا بالیهود رواه الامام الطحاوی عن انس بن مالک و لفظ مسلم
عن ابی هریرۃ رضی اللھ تعالیٰ عنہما جزو الشوارب وارخوا اللھی وخالفوا المجروس
موچھیں کتر کر خوب پست کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ یہودیوں اور مجوہیوں کی صورت نہ بنو۔ فوجی جاہل ترکوں کا فعل جحت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۵ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ جمعہ کے روز سلطان مسلمین کے لئے خطبہ میں دعا مانگنا فرض ہے تو مثلاً اتنی دعا مانگی جائے تو درست ہے یا نہیں؟

اللھم اعز الاسلام والمسلمین بالامام العادل ناصر الاسلام والملة والدین زید کہتا ہے نہیں درست سلطان معظم کا نام لے کر دعا مانگنا چاہئے۔

الجواب سلطان اسلام کے لئے خطبہ میں دعا فرض نہیں ایک مستحب ہے اور وہ اتنی دعا ہے کہ سوال میں لکھی بے شک حاصل ہے زید کا اسے نادرست کہنا محض غلط و باطل ہے بلکہ درختار میں ہے:

یندب ذکر الخلفاء الراشدین والعمین لا الدعاء للسلطان و جوزہ القہستانی

خاص نام کی ضرورت ان شہروں میں ہے جو سلطان کی سلطنت میں ہیں کہ سکھ و خطبہ شعار سلطنت ہے رد المحتار میں ہے۔

الدعاء للسلطان على المنابر قد صار الان من شعار السلطنة فمن تركه يخشى عليه الخ والله تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۱۰۶ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر پیش امام سرپر شال ڈال کر نماز پڑھائے تو کیا ہے؟

الجواب مثال اگر ریشمی یا زری کی مفرق ہے یا اس کا کوئی بٹا زری یا ریشم کا چار انگل سے زیادہ چوڑا ہے تو مرد کو مطلقاً ناجائز ہے اگرچہ غیر نماز میں اور نماز اس کے باعث خراب و مکروہ خواہ امام ہو یا مقتدی یا تھا اور اگر ایسی نہیں تو دو صورتیں ہیں اگر سر پر ڈال کر اس کا آنچل شانہ پر ڈال لیا جو اوڑھنے کا طریقہ ہے تو حرج نہیں اور اگر سر پر ڈال کر دونوں پلوٹکتے چھوڑ دیئے تو مکروہ تحریکی و گناہ ہے اور نماز کا پھیرنا واجب ہے۔ درختار میں ہے:

(کره سدل) تحریما للنهی (ثوبہ) ارسالہ بلا لیس معتاد کشد مندیل یرسلہ من کتفیه۔

رد المحتار میں ہے، وذکر نحو الشال۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۷ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ولدازن کی نماز جنازہ پڑھنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن جائز ہے یا نہیں۔ ولدازن کی ماں کافر ہے اور باپ مسلمان۔ بینوا توجروا۔

الجواب جب وہ مسلمان ہے اس کے جنازہ کی نماز فرض ہے اور مسلمانوں کے مقابر میں اسے دفن کرنا بے شک جائز ہے اگرچہ اس کی ماں یا باپ یا دونوں کافر ہوں بلکہ یہ اور بھی اولیٰ ہے کہ ولدازن ہونے میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

كتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

ملفوظات حضور پر نور امام اہلسنت اعلیٰ حضرت قبلہ

عرض حضور ۱۳۲۱ میں میری اہلیہ کے ۲۳ لڑکے اور دو لڑکیاں پیدا ہوئے جن میں سے پانچ اولادیں انتقال کر گئیں کسی کی عمر سال کسی کی دو سال کسی کی ایک سال ہوئیں اور سب کو ایک بیماری لاحق ہوئی یعنی پسلی اور اماصیان فی الحال صرف ایک لڑکی ۳ سالہ حیات ہے حضور دعا فرمائیں اور ان امراض کے واسطے کوئی عمل جو مناسب ہو ادا فرمائیں۔

ارشاد مولیٰ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اب جو حمل ہوا سے دو مہینے نہ گزرنے پائیں کہ یہاں اطلاع دیجئے اور زوجہ اور ان کی والدہ کا نام بھی معلوم ہونا چاہئے اس وقت سے ان شاء اللہ تعالیٰ بندوبست کیا جائے۔ اپنے گھر میں پابندی نماز کی تاکید شدید رکھیے اور پانچوں نمازوں کے بعد آیہ الکرسی ایک ایک بار ضرور پڑھا کریں اور علاوہ نمازوں کے ایک ایک بار صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے اور سوتے وقت جن دنوں میں عورتوں کو نماز کا حکم نہیں ان میں بھی ان تین وقت آیہ الکرسی نہ چھوٹے مگر ان دنوں میں آیت قرآن مجید کی نیت سے نہ پڑھے بلکہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور جن دنوں میں نماز کا حکم ہے ان میں اس کا بھی التزام رکھیں کہ تینوں قل ۳-۳ بار صبح و شام اور سوتے وقت پڑیں صبح سے مراد یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلنے سے سورج نکلنے تک اور شام سے مراد یہ ہے کہ دو پہر ڈھلے غروب آفتاب تک اور سوتے وقت اس طور پر پڑھیں کہ چت لیٹ کر دنوں ہاتھ دعا کی طرح پھیلا کر ایک ایک بار تینوں قل پڑھ کر ہتھیلوں پر دم کر کے سارا منہ اور سینے اور پیٹ پاؤں آگے اور پیچے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے سارے بدن پر ہاتھ پھیریں دوبار ایسے ہی سے بارہ ایسے ہی اور جن دنوں میں عورتوں کو نماز کا حکم نہیں ان میں آپ اسی طرح پڑھ کر تین باراں کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا کیجئے بڑا چراغ یہاں ایک صاحب بناتے ہیں وہ بنو الجیج اور ایام حمل میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جس ترکیب سے بتایا جائے اسے روشن کیجئے اور یہ لڑکی جو موجود ہے اس کو اگر ناسازی لاحق ہو تو اس کے لئے بھی روشن کیجئے اور وہ چراغ باذن تعالیٰ سحر اور آسیب و مرض تینوں کے دفع میں مجرب ہے۔ بچہ جو پیدا ہو پیدا ہوتے ہی معائب سے پہلے اس کے کانوں میں ۷ باراً ذانیں دی جائیں ۳ باراً ذان سیدھے کان میں اور تین تکبیر بائیں میں اس میں ہر گز درینہ کی جائے۔ دری کرنے میں شیطان کا دخل ہو جاتا ہے۔ چالیس روز تک بچہ کو کسی اناج سے تول کر خیرات کیا جائے پھر سال بھر تک ہر مہینہ پر پھر دو برس کی عمر تک ہر دو مہینے پر تیرے سال ہر تین مہینے پر چوتھے سال ہر چار مہینے پر پانچوں سال بھی ہر چار مہینے پر چھٹے سال ہر چھٹے مہینے پر ساتویں سال سالانہ یہ تول اس لڑکی کے لئے بھی کیجئے۔ چوتھے میں ہے تو ہر چار مہینے پر تو لیے۔ مکان میں سات دن تک مغرب کے وقت ۷۔۷ باراً ذان باواز بلند کہی جائے اور تین شب کسی صحیح خواں سے پوری سورہ بقرہ الیسی آواز سے تلاوت کرائی جائے کہ مکان کے ہر گوشہ میں پہنچے شب کو مکان کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کیا جائے اور صبح کو بسم اللہ کہہ کر آواز سے تلاوت کرائی جائے کہ مکان کے ہر گوشہ میں پہنچے شب کو مکان کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کیا جائے اور صبح کو بسم اللہ کہہ کر

کھولا جائے آپ کے گھر میں جب پا خانہ کو جائیں اس کے دروازہ سے باہر بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخائث پڑھ کر بایاں پہلے رکھ کر جائیں اور جب تکلیں توہننا پاؤں پہلے نکالیں اور الحمد للہ کہیں اور کپڑے بد لئے یا انہانے کے لئے جب کپڑے اتاریں پہلے بسم اللہ کہہ لیں اور قربت کے وقت نہایت اہتمام کے ساتھ یاد رکھئے کہ شروع فعل کے وقت آپ اور وہ دنوں بسم اللہ کہہ لیں اور ان باتوں کا التزام رہے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی خلل نہ ہونے پائے گا۔

عرض حضور بڑا چاغ روشن کرنے کی کیا ترکیب ہے۔

ارشاد

- (۱) یہ چاغ روشن کرنے کیا معلق روشن کیا جائے گا کسی چھنکنے یا قندیل میں۔
- (۲) روشن کرتے وقت لوکے پاس سونے کا چھلنہ یا انکوٹھی یا بابی ڈال دیا کریں چلہ ختم ہونے پر وہ مسکین مسلمین پر تصدق کریں۔
- (۳) چراغ باوضونمازی آدمی روشن کرے اگرچہ عورت ہو اور مرد بہتر ہے۔
- (۴) مرض ہلکا ہو تو چراغ روز دو یا ٹھنڈہ روشن ہو اور سخت ہو تو دو گھنٹے تین گھنٹے اور بہت سخت ہو تو شب بھر۔
- (۵) مریض اس کی روشنی میں بیٹھے خواہ لیئے مگر منہ اس کی طرف رکھئے اور اکثر اوقات اس کی لوکودیکھے۔
- (۶) جتنی دیر تک جلانا منظور ہو اسی حساب سے اعلیٰ درجہ کا چھلیل اس میں ڈالیں اور اسے ڈال کر چراغ کے سب طرف پھرالیں کہ تمام نفوس پر دورہ کر آئے پھر جھکا کر کھدیں اور جس طرف بتی کاششان ہے بسم اللہ کہہ کر اس طرف روشن کریں۔
- (۷) اگر مرض نہایت شدید ہو تو چاروں گوشوں میں چار بیان جلا کیں اور چراغ سیدھا رکھیں اور ہر لوکے پاس سونار کھیں۔
- (۸) جس مکان میں یہ چراغ روشن ہو وہاں نہ کوئی تصویر ہونے کتا آنے پائے نہ سو مریضہ کے کوئی عورت حیض و نفاس والی یا کوئی ناپاک مرد یا عورت۔
- (۹) اس جگہ بیٹھ کر سب ذکر الہی و درود شریف میں مشغول رہیں جو بات ضرورت کی ہو بلکہ ضرورت آہستہ سے کہہ دیں چپقلش نہ کریں نہ کوئی لغو بے ہودہ بات وہاں ہونے پائے۔
- (۱۰) جتنی عورتیں وہاں بیٹھیں یا آئیں جائیں سب سنگین کپڑے پہنے ہوں نماز کی طرح سوامنہ کی لٹکی یا ہتھیلوں کے سر کا کوئی بال یا گلے یا کالی یا بازو یا پیٹ یا پنڈلی کا کوئی حصہ اصلاح نہ کھلنے پائے۔

(۱۱) چراغ پہلے دن جس وقت روشن ہو وہ گھنٹہ منٹ یاد رکھیں کہ کسی دن اس سے زیادہ دیر روشن کرنے میں نہ ہونے پائے اس کے مولکات اپنی حاضری کا وہی وقت مقرر کر لیتے ہیں جس وقت پہلے دن روشن ہوا تھا پھر اگر کسی دن آئے اور چراغ اس وقت روشن نہ پایا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے لہذا چاہئے کہ پہلے دن کچھ قصد اکر کے روشن کریں کہ اگر کسی دن اتفاقیہ دیر ہو جائے تو اس وقت سے زیادہ دیر نہ ہونے پائے مگر پہلے دن اتنی دیر نہ کریں کہ اور کسی دن چراغ روشن ہو کر اس وقت کے آنے سے پہلے ختم ہو جائے۔

(۱۲) جب چراغ بڑھانے کا وقت آئے کوئی باوضو شخص بڑھائے اور اس وقت یہ کہے السلام علیکم اجعوا ماجورین۔

(۱۳) روز نیا پھلیل ڈالیں کل کا بچا ہوا آج مریض کے سر اور بدن پر مل دیں۔

(۱۴) جس کے لئے چراغ روشن ہوا ہو اس کے سوا اور مریض بھی بنیت شفا ان شرائط کی پابندی سے بیٹھ سکتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم عرض ایک صاحب کی لڑکی بلا ناخد کچھ عرصہ سے سورہ مزمل شریف پڑھا کرتی تھیں بلکہ قریب نصف کے حفظ بھی تھی اب ان صاحبزادی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔

ارشاد لاحول شریف ۶۰ بار الحمد شریف اور آیۃ الکریمہ شریف ایک ایک بار تینوں قل تین بار پانی پر دم کر کے پلا یئے۔

عرض کیا آیات قرآنی بھی یہ اثر رکھتی ہیں۔

ارشاد جو قیود عامل بتاتے ہیں ان کی پابندی نہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے۔

عرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبل اوڑھنا ثابت ہے یا نہیں۔

ارشاد ہاں حدیث شریف سے ثابت ہے۔

عرض پیرا ہن اقدس میں کیا کیا کپڑے ہیں۔

ارشاد ردا۔ تہہ بند۔ عمائد یہ تو عام طور سے ہوتا تھا اور کبھی قیص اور ٹوپی پا جامہ ایک بار خریدنا لکھا ہے پہنے کی روایت نہیں عورتیں بھی تہہ بند ہی باندھتی تھیں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لئے جاتے تھے راہ میں ایک بیوی کا پاؤں پھسلا روئے مبارک اس طرف سے پھیر لیا صحابہ نے عرض کیا حضور وہ پا جامہ پہنے ہوئے ہے ارشاد فرمایا **اللهم اغفر للمتسولات** اے اللہ بخش دے ان عورتوں کو جو پا جامہ پہنتی ہیں اور غالباً پا جامہ تنگ تھا اس وقت کہ اگر ڈھیلا ہوتا تو اس میں بھی تہہ بند کی طرح کھل جانے کا احتمال ہو سکتا تھا۔

عرض موم بقی جس میں چربی پڑتی ہے مسجد میں جلانا جائز ہے یا نہیں؟

ارشاد اگر مسلمان کی بنائی ہوئی ہو تو جائز ہے ورنہ مسجد ہی میں نہیں ویسے بھی جلانا نہ چاہئے۔

عرض

یہ جو جرمن وغیرہ ولایتوں سے آتی ہے اس کا کیا حکم ہے۔

ارشاد

ان کا بھی وہی حکم ہے اس واسطے کہ چربی اور گوشت کا ایک حکم ہے اگرچہ گائے ہو یا بکری کسی مسلمان سے کوئی ہندو یا نصرانی چربی لے گیا اور تھوڑی دیر میں واپس لائے اور کہے کہ یہ وہی چربی ہے جو ابھی تم سے لے گیا ہوں اس کا لینا حرام النصرانیہ لاذبیح لہ بخلاف یہودیوں کے کہ ان کے یہاں اب تک ذبح کرنے کا اہتمام ہے فتاویٰ قاضی خاں میں ہے الیہودیہ یذبیح او یا کل ذبیحة المسلم نصرانی و یہودی کافر دونوں ہیں کہ ایک محباًن خدا کی محبت میں دوسرے عداوت میں قرآن عظیم میں یہودیوں کو مغضوب علیہم اور نصاریٰ کو ضالین فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج روئے زمین پر کوئی یہودی ایک گاؤں کا بھی حاکم نہیں بخلاف نصاریٰ کے کہ ان کی سلطنت ظاہر ہے اور بعینہ یہی مثال رواض و وہابیہ کی ہے کہ رواض مشل نصاریٰ کے محبت میں کافر ہوئے اور وہابیہ مشل یہود کے عداوت میں چنانچہ رواض کی حکومت ایران کا تخت موجود ہے اور وہابیہ کی کہیں ایک پڑی بھی نہیں۔

عرض

امام مسافر کے پیچھے مقتدی مقیم کو ایک رکعت میں تو بقیہ نماز میں قراءت کس طرح کرے۔

ارشاد

پہلے دورکعت مثل لاحق کے بغیر قراءت بقدر سورہ فاتحہ قیام کر کے قعدہ کرے اور پچھلی رکعت میں قراءت کرے۔

عرض

جماعثانية جس وقت شروع ہو سنت ظہراں وقت پڑھنا جائز ہے یا نہیں یا فجر کی سنت جماعت ثانية کے قعدہ نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ دی جائیں یا کیا۔

ارشاد

جماعثانية فقط جائز ہے اس کے لئے سنتیں نہ چھوڑے اصل نماز جماعت اولیٰ ہے جس کے لئے حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر مکانوں میں بچے اور عورتیں نہ ہوتیں تو جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان کے مکانوں کو جلوادیتا ایک مرتبہ مولوی عبدالقدار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ مارہرہ مطہرہ میں اتفاقاً مجھے نماز میں دیر ہو گئی جب میں مسجد کی سڑھیوں پر پہنچا حضرت میاں صاحب قبلہ نماز پڑھ کر تشریف لارہے تھے ارشاد فرمایا عبدالقدار نماز تو ہو گئی تو اصل نماز جماعت اولیٰ ہی ہے۔

عرض

نماز جنازہ میں تو تین صاف کرنے کی فضیلت ہے۔ اس کی ترکیب درمختار و بکیری میں یہ لکھی ہے کہ پہلی صاف میں تین دوسری میں ایک آدمی کھڑا ہوا س کی کیا وجہ ہے کہ ہر صاف میں دو دو کھڑے ہو سکتے تھے۔

ارشاد

اقل درجہ صاف کامل کا تین آدمی ہیں اس واسطے صاف اول کی تمجید کردی گئی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام کے برابر دو آدمیوں کا کھڑا ہونا مکروہ تہذیبی اور تین کا مکروہ تحریکی کیونکہ صاف کامل ہو گئی اور اس صورت امام کا صاف میں کھڑا ہونا ہو گیا اور پنج وقتہ نماز میں بھی۔ بعض صورتوں میں تنہا صاف میں کھڑا ہونا جائز نہیں مثلاً دو مرد اور ایک عورت ہے تو عورت پچھلی صاف میں تنہا کھڑی ہو گی۔

عرض

ایام و بائیں بعض جگہ دستور ہے کہ بکرے کے داہنے کا ن میں سورہ یسین شریف اور بائیں میں سورہ مزم شریف پڑھ کر دم کرتے ہیں اور شہر کے ارد گرد پھرا کر چورا ہے پڑنچ کرتے ہیں اور اس کی کھال و سری ز میں میں دفن کر دیتے ہیں یہ کیسا ہے۔

ارشاد

کھال دفن کرنا حرام ہے کہ اضاعت مال ہے اور چورا ہے پر لے جا کر دنچ کرنا جہالت اور بیکار بات ہے اللہ کے نام پڑنچ کر کے مساکین کو تقسیم کر دے۔

عرض

کیا خطبہ نکاح بھی کھڑے ہو کر قبلہ رو پڑھنا چاہئے؟

ارشاد

ہاں کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے اور قبلہ رو ہونا کچھ ضرور نہیں سامعین کی طرف منہ ہونا چاہئے خطبہ جمعہ بھی تو قبلہ کی جانب پشت کر کے پڑھا جانا مشروع ہے۔

عرض

معلم کی اگر تխواہ مقرر نہ ہو تو بچوں سے کام لے سکتا ہے یا نہیں؟

ارشاد

اگر والدین کو ناگوار نہ ہو اور بچہ کو تکلیف نہ ہو تو حرج نہیں تخواہ مقرر ہو یا نہ ہو۔

عرض

عرض: میلاد خواں کے ساتھ اگر امر دشامل ہوں یہ کیسا ہے؟

ارشاد

نہیں چاہئے۔

عرض

نوشہ کے اوپن ملنا جائز ہے یا نہیں؟

ارشاد

خوبصورت ہے۔ جائز ہے۔

عرض

اگر پیسلپور سے بدایوں جانا ہے اور راستہ میں بریلی اتر اوقصر کرے گا یا نہیں؟

ارشاد

اس صورت میں قصر نہیں کہ سفر کے دلکش ہو گئے۔

عرض

ایک شخص بریلی کا ساکن مراد آباد میں دکان کھولے اور وہاں تجارت کا ارادہ ہوا اور کبھی کبھی اپنے اہل عیال کو بھی لے جایا کرے اس صورت میں مراد آباد وطن اصلی ہو گایا وطن اقامت۔

ارشاد

وطن اصلی نہ ہو گا ہاں اگر وہاں نکاح کر لے تو ہو جائے گا۔

عرض

اگر وہابی نکاح پڑھائے تو ہو جائے گا یا نہیں؟

ارشاد

نکاح تو ہو ہی جائے گا اس واسطے کہ نکاح نام باہمی ایجاد و قبول کا ہے اگرچہ با من پڑھائے چونکہ وہابی سے پڑھوانے میں اس کی تعظیم ہونی ہے جو حرام ہے لہذا احتراز لازم ہے۔

عرض

ولیمہ نکاح کی سنت ہے یا زفاف کی اور نابالغ کا نکاح ہوتا ولیمہ کب اور کس دن کرے۔

ارشاد

ولیمہ زفاف کی سنت ہے اور نابالغ بھی بعد زفاف کے ولیمہ کرے اور ولیمہ شب زفاف کی صحیح کو کرے۔

عرض

نکاح کے بعد چھوارے لٹانے کا جور و اج ہے یہ کہیں ثابت ہے یا نہیں؟

ارشاد

حدیث شریف میں لوٹنے کا حکم ہے اور لٹانے میں بھی کوئی حرج نہیں اور یہ حدیث دارقطنی و نیہقی و طحاوی سے مردی ہے۔

عرض

خصاب سیاہ اگر وسمہ سے ہو۔

ارشاد

وسمہ سے ہو یا تسمہ سے سیاہ خصاب حرام ہے۔

عرض

کوئی صورت بھی اس کے جواز کی ہے؟

ارشاد

ہاں جہاد کی حالت میں جائز ہے۔

عرض

اگر جوان عورت سے مرد ضعیف نکاح کرنا چاہے تو خصاب سیاہ کر سکتا ہے یا نہیں؟

ارشاد

بوزھانیل سینگ کائنے سے پچھڑا نہیں ہو سکتا۔

عرض

بعض کتب میں ہے کہ وقت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسمہ کا خصاب تھا۔

ارشاد

حضرت امام حسن و حسین و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وسمہ کا کیا کرتے تھے کہ یہ سب حضرات مجاہدین تھے۔

عرض

نماز قصر نہ تھی اور قصر پڑھی تو اعادہ ہو گایا نہیں۔

ارشاد

ضرور اعادہ ہو گا کہ سرے سے نماز ہی نہ ہوئی۔

عرض

ایک گاؤں میں مسجد بالکل ویرانہ میں ہے اس کے متصل ایک کمہار کا مکان ہے مسجد مذکور میں نماز بھی نہیں ہوتی

ہے بلکہ اس کے اردوگر لوگ کوڑہ وغیرہ ڈالتے ہیں وہ کمہارز میں مسجد کو خریدنا چاہتا ہے آیا اس کی بیع ہو سکتی ہے یا نہیں۔

ارشاد: حرام ہے اگرچہ زمین کے برابر سونادے مسجد کے لئے جو لوگ ایسا کریں ان کی نسبت قرآن عظیم فرماتا ہے: لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَزْنٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عِذَابٌ عَظِيمٌ دُنْيَا میں ان کے لئے رسائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔

عرض: نماز جنازہ کی تعمیل سے کیا مراد ہے۔

ارشاد: غسل و کفن بغیر تو نماز پڑھ سکتے ہی نہیں ہاں اس کے بعد تاخیر نہ کرے بعض لوگ شب جمعہ میں جس کا انتقال ہوا میت کوتا نماز جمعہ رکھے رہتے ہیں کہ آدمیوں کی نماز میں کثرت ہو جائے یہ ناجائز ہے اور اس کی تصریح کتب فقہ میں موجود ہے اور اگر قبر تیار ہونے سے پیشتر کسی عذر سے تاخیر کی جائے تو حرج نہیں۔

عرض: مردہ کے ساتھ مٹھائی قبرستان میں چیزوں کے ڈالنے کے لئے لے جانا کیا ہے۔

ارشاد: ساتھ لے جانا روٹی کا جس طرح علمائے کرام نے منع فرمایا ہے ویسے ہی مٹھائی ہے اور چیزوں کو اس نیت سے ڈالنا کہ میت کو تکلیف نہ پہنچائیں یہ مخفی جہالت ہے اور یہ نیت نہ بھی ہو تو بھی بجائے اس کے مساکین صالحین پر تقسیم کرنا بہتر ہے (پھر فرمایا) مکان پر جس قدر چاہیں خیرات کریں قبرستان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اناج تقسیم ہوتے وقت بچے اور عورتیں وغیرہ غل مچاتے اور مسلمانوں کی قبروں پر دوڑے پھرتے ہیں۔

عرض: معمول چھینٹ جس کے پا جائے عورتوں کے ہوتے ہیں خوش دامن کا پا جامہ ایسی چھینٹ کا ہواں پر اس پر سے اس کے جسم کو ہاتھ بثہوت لگائے تو کیا حکم ہے۔

ارشاد: اگر ایسا کپڑا ہے کہ حرارت جسم کی نہ معلوم ہو تو خیرورنہ حرمت مصاہرات ثابت ہو جائے گی۔

عرض: یہ جو مولود شریف کی بعض کتب میں لکھا ہے کہ جس رات آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاملہ ہوئیں دوسو عورتیں رشک حسد سے مر گئیں یہ صحیح یا نہیں۔

ارشاد: اس کی صحت معلوم نہیں البتہ چند عورتوں کا بہتمنائے نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر جانا ثابت ہے۔

عرض: استھان کی حالت میں چند سیر گندم اور قرآن عظیم دیا جاتا ہے اس میں کل کفارہ ادا ہو جائے گا یا نہیں۔

ارشاد: جتنی قیمت قرآن عظیم کی بازار میں ہے اتنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔

عرض: ٹمن کے اندر عاقدین مختار ہیں جتنا چاہیں طے کر لیں۔

ارشاد: یہاں یہ کہ صدقہ دیا جا رہا ہے وہی بازار کے بھاؤ کا اعتبار ہو گا۔

عرض

خطبہ کے وقت عصا ہاتھ میں لینا سنت ہے یا کیا؟

ارشاد

اختلاف ہے علماء کا بعض کہتے ہیں کہ سنت ہے اور بعض مکروہ بتاتے ہیں۔

عرض

سنت و مکروہ میں تعارض ہو تو کیا کرنا چاہئے۔

ارشاد

ترک اولی ہے جامع الرموز میں محیط سے نقل ہے کہ سنت ہے اور محیط ہی میں ہے کہ مکروہ ہے اسی کو ہندیہ میں نقل کیا ہے۔

عرض

دیہات میں جمعہ نہ پڑھنے کے مسائل و رسائل علماء نے لکھے ہیں اس سے اہل دیہات بہت پریشان ہیں۔

ارشاد

مذہب حنفی میں جمعہ و عیدین جائز نہیں لیکن جہاں قائم ہے وہاں منع نہ کیا جائے اور جہاں نہیں ہے وہاں قائم نہ کیا جائے آخر شافعی مذہب پر تو ہو ہی جائے گا ایسی صورت میں جہاں جمعہ تو جمعہ ظہر بھی چھوڑ دیں گے۔ ارایت الذی ینہی ۵ عبد اذا صلی ۵ سے خوف کرنا چاہئے۔ مولیٰ علیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول ہے کہ ایک شخص کو طلوع آفتاب کے وقت نفل پڑھتے ہوئے دیکھ کر منع نہ فرمایا جب وہ پڑچکا تو مسئلہ تعلیم فرمادیا۔

عرض

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر خلاف کرنے سے کفارہ لازم آئے گا یا نہیں؟

ارشاد

نہیں۔

عرض

قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانا جائز ہے۔

ارشاد

نہیں۔

عرض

کیا بے ادبی ہے۔

ارشاد

ہاں۔

عرض

خلال تابے پتیل کا گلے میں لٹکانا کیسا ہے۔

ارشاد

نا جائز ہے کیونکہ یہ تعلیق کے حکم میں ہے ویسے جائز ہے اور سونے چاندی کا حرام ہے بلکہ عورتوں کو بھی ایسے ہی سونے چاندی کے ظروف میں کھانا ناجائز ہے اور گھری کی چین بھی عام ازیں کہ چاندی کی ہو یا پتیل کی ہاں ڈورا باندھ سکتا ہے۔

عرض

جو ان غیر محروم عورتوں کے سلام کا جواب دینا چاہئے یا نہیں؟

ارشاد

دل میں جواب دے۔

عرض

اگر غائبانہ نامحرم کو سلام کھلائے۔

ارشاد

یہ بھی ٹھیک نہیں۔ باکین آفت از گفتار خیزو

عرض

سنن الفجر اول وقت پڑھے یا متصل فرضوں کے۔

ارشاد

اول وقت پڑھنا اولیٰ ہے حدیث شریف میں ہے جب انسان سوتا ہے شیطان تین گرہ لگادیتا ہے جب صح اٹھتے ہی وہ رب عزوجل کا نام لیتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے اور وضو کے بعد دوسرا اور جب سنتوں کی نیت باندھی تیری بھی کھل جاتی ہے الہذا اول وقت سنتیں پڑھنا اولیٰ ہے۔

عرض

ظہر کے وقت بغیر سنت پڑھے امامت کر سکتا ہے۔

ارشاد

بلاعذر ٹھیک نہیں۔

عرض

سنن جمعہ اگر جمعہ شروع ہونے کی وجہ چھوٹ جائیں تو بعد ازاں ماز جمعہ پڑھے یا نہیں؟

ارشاد

پڑھے اور ضرور پڑھے۔

عرض

بعض جگہ دستور ہے کہ مسلمان ہندو کی آڑت میں مال فروخت کرتا ہے۔ اور اس صورت میں ہندو کو کمیشن دینا پڑتا ہے اور وہ لوگ کمیشن کے ساتھ چار آنے سینکڑہ اس بات کا لیتے ہیں کہ اس رقم کا اناج خرید کر کبوتروں کو ڈالا جائے گا یہ دینا جائز ہے یا نہیں؟

ارشاد

اگر جانوروں کے لئے لمبی کچھ حرج نہیں البتہ بت وغیرہ کے لئے ناجائز ہے۔

عرض

دست غیب و کیمیا حاصل کرنا کیسا ہے۔

ارشاد

دست غیب کے لئے دعا کرنا محال عادی کے لئے دعا کرنا ہے جو مثل محال عقلی و ذاتی کے لئے حرام ہے اور کیمیا تقضیج مال ہے اور یہ حرام ہے آج تک کہیں ثابت نہیں ہوا کہ کسی نے بنائی ہو۔ کباستط کیفہ الی الماء و ما ہو بیا لغہ۔ (جیسے کوئی دونوں ہاتھ پھیلائے پانی کی طرف بیٹھا ہوا اور وہ پانی یوں اسے پہنچنے والا نہیں۔ ۱۲) دست غیب جو قرآن عظیم میں ارشاد ہے اس کی طرف لوگوں کو توجہ ہی نہیں کہ فرماتا ہے ومن یتقاللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا يحتسب یتلق جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے (پرہیز گار) اللہ عزوجل اس کے لئے فرمادیتا ہے اور اسے روزی پہنچاتا ہے وہاں سے جس کا سے گمان بھی نہیں۔ اللہ پر عمل نہیں ورنہ حقیقتاً سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے میرے ایک دوست مدینہ طیبہ کے رہنے والے ان کا مدینہ منورہ سے بھیجا ہوا ایک خط اتوار کے روز مجھے ملا جس میں پچاس روپیہ کی طلب تھی بدھ کے روز یہاں ڈاک جاتی تھی جو ہفتہ کے روز

ڈاک کے جہاز میں روانہ ہو جاتی تھی پیر کے دن تو مجھے خیال ہی نہ رہا منگل کے روز یاد آیا دیکھا تو اپنے پاس پانچ پیسے بھی نہیں وہ دن بھی ختم ہوانماز مغرب پڑھ کر حسب معمول استنبخ کو گیا اور یہ فکر کہ کل بدھ ہے اور ابھی تک روپیہ کی کوئی سبیل نہیں ہوئی میں نے سرکار میں عرض کیا کہ حضور ہی میں بھیجننا ہیں عطا فرمائے جائیں کہ باہر سے حسین (اعلیٰ حضرت مذکور کے بھیجتے) نے آواز دی۔ ”سیٹھا ابراہیم بھبھی سے ملنے آئے ہیں“ میں باہر آیا اور ملاقات کی چلتے وقت اکیاون روپیہ انہوں نے دیئے حالانکہ ضرورت صرف پچاس کی تھی یا اکیاون یوں تھے کہ ایک فیس منی آرڈر کا بھی تو دینا پڑتا غرض صحیح کوفور آمنی آرڈر کر دیا۔

مولف یہ ہے یہ زندگی من حیث لایحتسب۔

عرض ادنیٰ درجہ علم باطن کیا ہے۔

ارشاد حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار سفر کیا اور وہ علم لایا جسے خواص و عوام سب نے قبول کیا۔ دوبارہ سفر کیا اور وہ علم لایا جسے خواص نے قبول کیا عوام نے نہ مانا۔ سہ بارہ سفر کیا اور وہ علم لایا جو خواص و عوام کسی کی سمجھی میں نہ آیا۔

یہاں سفر سے سیر اقدام مرا نہیں بلکہ سیر قلب ہے ان کے علوم کی حالت تو یہ ہے کہ ادنیٰ درجہ ان سے اعتقاد ان پر اعتماد تسلیم ارشاد جو سمجھی میں آیا بھا ورنہ کل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب ۵ حضرت شیخ اکبر اور اکابر فن نے فرمایا ہے کہ ادنیٰ درجہ علم باطن کا یہ ہے کہ اس کے عالموں کی تصدیق کرے کہ اگر نہ جانتا تو ان کی تصدیق نہ کرتا نیز حدیث میں فرمایا ہے اگد عالما او متعلم او مستمع او محب او لا تکن الخامس فتهلک۔ صحیح کراس حالت میں کہ خود عالم ہے یا علم سکھتا ہے یا علم کی باتیں سنتا ہے یا ادنیٰ درجہ یہ کہ علم سے محبت رکھتا ہے اور پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا۔

عرض کیا واعظ کا عالم ہونا ضروری ہے۔

ارشاد غیر عالم کو وعظ کہنا حرام ہے۔

عرض عالم کی کیا تعریف ہے؟

ارشاد عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے۔

عرض کتب بنی ہی سے علم ہوتا ہے؟

ارشاد یہی نہیں بلکہ علم افواہ رجال سے بھی حاصل ہوتا ہے۔

عرض حضور مجاہدہ میں عمر کی قید ہے۔

ارشاد مجاہدے کے لئے کم از کم اسی برس درکار ہوتے ہیں باقی طلب ضرور کی جائے۔

عرض ایک شخص اسی (۸۰) برس کی عمر سے مجاہدات کرے یا اسی (۸۰) برس مجاہدہ کرے۔

ارشاد مقصود یہ ہے کہ جس طرح اس عالم میں مسبات کو اسباب سے مربوط فرمایا گیا ہے اسی طریقہ پر اگر چھوڑیں اور جذب و عنایت ربانی بعید کو قریب نہ کر دے تو اس راہ کی قطع کو اسی (۸۰) برس درکار ہیں اور رحمت توجہ فرمائے تو ایک آن میں نصر انی ابدال کر دیا جاتا ہے اور صدق نیت کے ساتھ یہ مشغول مجاہدہ ہو تو امداد الہی ضرور کار فرمایا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا نہ دینہم سبلنا۔ وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھادیں گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحكام شریعت ﴿ حصہ سوم ﴾

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

مسئلہ ۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کرتاش و شترنج کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب دونوں ناجائز ہیں اور تاش زیادہ گناہ و حرام کہ اس میں تصاویر بھی ہیں۔

ومسألة الشطرنج مبسوطة في الدو و غيرها من الغطر والشهادات والصواب اطلاق المنع كما اوضعيه في
رد المحتار۔ والله تعالى اعلم و علمه اتم واحكم

مسئلہ ۲ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سودا اور رشوت کامال توبہ سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے یہاں
نوکری کرنا اور کھانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب زبانی توبہ سے حرام مال پاک نہیں ہو سکتا بلکہ توبہ کیلئے شرط ہے کہ جس جس سے لیا ہے واپس دے وہ نہ رہے ہوں
تو انکے وارثوں کو دے پتہ نہ چلتے اتنا مال صدقہ کر دے بے اس کے گناہ سے برأت نہیں، اس کے یہاں نوکری کرنا تنخواہ لینا کھانا
کھانا جائز ہے جب کہ وہ چیز جو اسے دے اس کا بعینہ مال حرام ہونا نہ معلوم ہو کما فی الہندیۃ عن الذخیرۃ عن محمد
رحمہ اللہ تعالیٰ۔ والله تعالى اعلم و علمه اتم واحکم

مسئلہ ۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید انگریزی ٹوپی یعنی ہیئت استعمال نہیں کرتا ہے مگر پتلون پہنتا
ہے اور پتلون پر ترکی ٹوپی پہنتا ہے یہ لباس درست ہے یا نہیں؟

الجواب درباء لباس اصل کلی یہ ہے کہ جو لباس جس جگہ کفار یا مبتدعین یا فاسق کی وضع ہے اپنے اختصاص و شعاریت کی
مقدار پر مکروہ یا حرام یا بعض صورت میں کفر تک ہے حدیقه ندیہ میں فرمایا: ليس ذى الافرنج كفر على الصريحة۔
ہیئت اسی قسم میں ہے اور پتلون قسم اول میں اور دوسرا ملک میں کسی اسلامی قوم کی وضع ہونا کافی نہیں جب کہ اس ملک میں کفار یا
فاسق کی وضع ہو فان کل بلدة وعوائدھا۔ خصوصاً اس حالت میں کہ ترک نے بھی یہ وضع بہت قریب زمانہ سے اختیار کی اور
وہ بھی نہ طوعاً بلکہ جبراً سلطان محمود خاں کے زمانہ میں سلطنت کی طرف سے اس پر مجبور کیا گیا اور نیچری فوج نے اس پر مخالفت کی اور
کشت و خون واقع ہوا بالآخر بمحرومی مانی۔ والله تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۴

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بوسہ دینا قبر اولیائے کرام اور طواف رہا گر و قبر کے اور سجدہ کرنا تعظیماً از روئے شرع شریف موافق نہ ہب حنفی جائز ہے یا نہیں؟ بیسوا بالکتاب و توجروا یوم الحساب۔

الجواب

بلاشبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احוט منع ہے خصوصاً مزارات طیبہ اولیائے کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم چار ہاتھ فاصلہ سے کھڑا ہو یہی ادب ہے پھر تقبیل کیونکر متصور ہے یہ وہ ہے جس کا فتویٰ عوام کو دیا جاتا ہے اور تحقیق کا مقام دوسرا ہے لکل مقام مقال ولکل مقال رجال ولکل رجال مجال ولکل مجال منال نسال اللہ حسن المال و عنده العلم بحقيقة کل حال۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۵

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ نقالوں کو دینا جیسا کہ تقریب نکاح وغیرہ میں آتے ہیں اور گھیرتے ہیں اور مانگتے ہیں ان کو شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بیسوا توجروا۔

الجواب

اگر انہیں ممنوعات شرعیہ سے اپنے بیہاں باز رکھا جائے اور بغیر کسی امر ممنوع شرعی کی اجرت کے احساناً دیا جائے تو جائز ہے بلکہ اگر اس نیت سے دیں کہ یہ مسلمان اس مال حلال کو پا کر اکل حلال سے بہرہ مند ہوں اور شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو توبہ نصیب فرمائے تو محمود و حسن باعث اجر ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث اللهم لک الحمد علی زانیہ۔ اللهم لک الحمد علی سارق اس پر شاہد عدل ہے اس صورت میں دینے والے کو دینا حلال و طیب ہے عالمگیری وغیرہ میں اس کی تصریح ہے اور اگر یہ صورت ہے کہ نہ دے گا تو اسے مطعون کرتے پھریں گے اس کا مددگار اڑائیں گے نقل بنائیں گے جیسا کہ ان کی عادات سے معروف و مشہور ہے تو اس صورت میں بھی اپنے تحفظ کے لئے دینا جائز و حلال ہے اگرچہ انہیں لینا حرام ہے۔ اس کے جواز پر وہ حدیث شاہد ہے کہ ایک شاعر نے بارگاہ رسالت میں آ کر سوال کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اقطع عنی لسانہ۔ (میری طرف سے اس کی زبان کاٹ دے) درستار وغیرہ میں اس کا جواز مصرح ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اکثر لوگ جب فصل آم آتی ہے تو باغوں کو جا کر آم ھائے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے آموں کی گٹھلیاں مارتے ہیں اور لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں آیا فضل ان کا کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز اور بر تقدیر عدم جواز کے حرام ہے یا بدعت ہے یا مکروہ اور بر تقدیر بدعت کے بدعت حسنہ ہے یا سدیہ۔

الجواب گٹھلیاں مارنا ناجائز و منوع ہے مند امام احمد و صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن الی و سنن ابن ماجہ میں حضرت عبد اللہ مغفل مرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی:

قال نهی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم عن الخذف وقال انه لا يقتل الصيد ولا ينكى للعدو
وانه يفقوا العين ويكس السن

”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً گٹھلی یا انکری پھینک کر مارنے سے منع کیا اور فرمایا اس سے نہ دہمن پر وار ہو سکے نہ جانور کا شکار۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آنکھ پھوڑ دے یادانت توڑے۔“

فی التیسیر ان الخذف مجتین وقاء الرمی بحصاة انواة لانه يفقوا العین ولا يقتل الصید
اور صرف چکلوں سے ہم مرتبہ لوگ نادر الحض طیب قلب کے طور پر با ہم مزاج دوستانہ کریں جس میں اصلاً کسی حرمت یا حشمت دینی کا ضرور حال یا مآلۃ ہو تو مباح ہے۔ عالمگیری میں ہے:

قال القاضی الامام مالک الملوك اللحاب الذی یلعب الشبان ایام الصیف بالبطیخ بان یضرب بعضهم
بعضاً مباح غیر مستکر. کذا فی جواہر الفتاوی فی الباب السادس

عوارف المعرف شریف میں ہے۔ راوی بکر بن عبد اللہ: (رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتbadحون بالبطیخ فاذا کانت الحقائق کانوا هم الرجال یقال بدح یبدح اذارمی ای بترا مون بالبطیخ اہ. ذکر قدس سرہ فی الباب الثالثین۔ والله تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۷ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بیل اور بکرے کو خصی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب بالاتفاق جائز ہے کہ اس میں منفعت ہے۔ خصی کا گوشت بہتر ہوتا ہے اور خصی بیل مخت زیادہ برداشت کرتا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ اگر جانور کے خصی کرنے میں واقعی کوئی منفعت یاد فع مضر مقصود ہو تو مطلقًا حلال اگرچہ جانور غیر مکوں المحم ہو مثلاً بیل وغیرہ ورنہ حرام ہے اسی اصل کی بنا پر ہمارے علماء گھوڑے کو خصی کرنا بھی جائز جانتے ہیں جبکہ مقصود فرع شرارت ہو اگرچہ بعض منع فرماتے ہیں۔

لما فيه من تقليل الله الجهاد اقول الموجود لا يعدم و الموهوم لا يعبر الاترى ان العزل يجوز عن الامة

مطلقاً و عن الحرمة باذنها بخلاف الأكل فان فيه اعدام موجود

ہاں آدمی کا خصی بالا جماع مطلقاً حرام ہے درختار میں ہے۔

و جائز خصاً البهائم حتى الهرة وأما خصاء الأدمي فحرام. قيل والفرس و قيدوه بائمنفعة الأفحرام

رداختار میں ہے:

قوله قيل والفرس ذكر شمس الامة الحلواني انه لا يأس به عندها صحابنا و ذكرشيخ الاسلام انه حرام -

والله تعالى اعلم

مسئلہ ۸ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ وہاں کوں کو پڑھانا کیسا ہے اور جوان کے پاس اپنے لڑکوں کو پڑھنے کے لئے بھیجے اس کے لئے کیا حکم ہے؟

الجواب حرام-حرام-اور جو ایسا کرے بد خواہ اطفال و بیتلائے اثام۔ قال اللہ تعالیٰ: یا يهَا الَّذِينَ امْنَوْا قَوْا
انفسکم و اهليکم نرا۔ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (التحریم: ۶)

مسئلہ ۹ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ انگریزوں کی نوکری سلامی کے کام کی کرنا یا ان کا کپڑا مکان پر لا کر سینا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروں

الجواب انگریز کسی مخدود رشی پر مشتمل نہ ہو۔ فتاویٰ قاضی خاں میں ہے:

اجر نفسه من نصرانى ان استاجره لعمل غير الخدمة جازل^{لُج} وتمامه فى غمز العيون . والله سبحانه وتعالى اعلم علمه جل مجده اتم واحكم

مسئلہ ۱۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جھوٹے کام کا جوتا مردوں کو پہننا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروں

الجواب یہ جزیہ کتب متداولہ فقہ میں فقیر غفر اللہ تعالیٰ کے نظر سے گزر اگر ظاہر یہ ہے والعلم عند اللہ کہ جھوٹے کام کا جو تھا مردو زن سب کے لئے مکروہ ہوتا چاہئے۔

فإن المنسوج كفيرة ولا شك أن النعال من أنواع الملبوسات و النساء والرجال سواء في كراهة لبس

النحاس

ہاں پچ کام کا جو تاعروتوں کیلئے مطلقاً جائز اور مردوں کے واسطے بشرطیکہ مفرق نہ ہو۔ نہ اس کی کوئی بولی چار انگل سے زیادہ کی ہو یعنی اگر متفرق کام کا ہے اور ہر بولی چار انگل یا کم کی ہے تو کچھ مضائقہ نہیں اگرچہ جمع کرنے سے چار انگل سے زیادہ ہو جائے خلاصہ یہ ہے کہ جوتی اور رٹوی کا ایک ہی حکم ہونا چاہئے۔

وفى الفتاوى الهندية يلبس الذكور قلنسوة من الحرير او الذهب او الكرباس الذى يخبط عليه ابريشم كثيراً وشى من الذهب او الفضة اكثر من قدر لاربع اصابع انتهى. قال العالمة الشامي وبه يعلم حكم العراقية المساته بالطاقية فإذا كانت منقشة بالحرير و كان احد نقوشها اكثرا من اربع اصابع لا تعل وان كان اقل تعل وان زاد مجموع نقوشها على اربع اصابع بناء على ما مامر من ان ظاهر المذهب عدم جميع المترافق انتهى وقد قال العالمة الشامي ايضا ان قد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرجمة فترخيص الحرير ترخيص غيره بدلالة المساواة ويوئيد عدم الفرق ما مامر من اباحة الثواب المنسوج من ذهب اربعة اصابع او ملخصا فافهم وتبشت اذبه تحرر ما كان العالمة الطحاوى متوقفا فيه والله تعالى اعلم وعلم جل مجده اتم واحكم

مسئله ۱۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ شوہ را پنی بی اور بی بی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں اور اس چھونا کیسا ہے یعنی مرد اپنی عورت کو اور عورت اپنے شوہر کو چھوٹتی ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب زن و شوہر کا باہم ایک دوسرے کو حیات میں چھوننا مطلقاً جائز ہے حتیٰ کہ فرج و ذکر کو بہ نیت صالحہ موجب ثواب و اجر ہے۔

كمانص عليه سيدنا الامام الاعظم رضي الله تعالى عنه

البته بحالت حیض و نفاس زیر ناف زن سے زیر انوکھ چھونا منع ہوتا ہے علی قول اشیخین رضي الله عنہما و به متفق اسی طرح اور عواض خاصہ مثل صوم و اعتکاف و حرام وغیرہ اسکے باعث ان عوارض تک ممانعت ہو جاتی ہے اور شوہر بعد وفات اپنی عورت کو دیکھ سکتا ہے مگر اس کے بدن کو چھونے کی اجازت نہیں لانقطاً النکاح بالموت اور عورت جب تک عدت میں ہے اپنے شوہر مردہ کا بدن چھوٹتی ہے اسے غسل دے سکتی ہے جب کہ اس سے پہلے باس نہ ہو چکی ہو۔ لبقاء النکاح فی حقها بالعدة نص على ذلك فی تنوير الابصار و الدر المختار وغيرهما من معتمدات الاسفار والله سبحانه و تعالى اعلم۔

مسئلہ ۱۶ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع تین ان مسلمانوں کے حق میں جو آریہ سماجوں میں جا کر کاپی نویں کرتے ہیں یا پر لیں میں ہے یا ان کے اخبار اور مذہبی پرچے روانہ یا تقسیم کرتے ہیں حالانکہ ان پر چوں میں قرآن کریم اور رسول رحیم پر کھلے کھلے اعتراض والزام ہوتے ہیں اور خداوند عالم کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ رسول مقبول علی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ منهماً۔ اور علمائے متقد میں و متاخرین کو محلی محلی گالیاں دی جاتی ہیں جس کی شاہد سماجی کتب ترک اسلام۔ تہذیب الاسلام آریہ مسافر جاندھر۔ آریہ مسافر میگزین۔ مسافر بہزادج آریہ پتر بریلی۔ ستیارتھ پرکاش موجود ہیں۔ نمونہ کے طور سے چند الفاظ نقل ذیل ہیں:

- ۱۔ ستیارتھ پرکاش
۲۔ مسافر بہزادج

آیا ان مسلمانوں سے جو سماجوں میں ملازم ہیں میں میں جول رکھا جائے اور وہ مسلمان سمجھے جائیں ایسے مسلمان جو مخالفین اسلام و دشمنان خدا اور رسول کی اعانت کرنے والے ہیں ان کے جنازہ کی نماز پڑھنا درست ہے اور ان کے ساتھ شرکت نکاح جائز ہے یا نہیں۔ مفصل بیان فرمائیے اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔

الجواب اللہ عزوجل اپنے غضب سے پناہ دے۔ الحمد للہ فقیر نے وہ ناپاک ملعون کلمات نہ دیکھے کہ جب سوال کی اس سطر پر آیا جس سے معلوم ہوا کہ آگے کلمات بعینہ ملعونة منقول ہوں گے ان پر نگاہ نہ کی نیچے کی سطریں جن میں سوال ہے باحتیاط دیکھیں ایک ہی لفظ جو اور پرسائل نے نقل کیا اور نادانستگی میں نظر پڑا وہی مسلمان کے دل پر زخم کو کافی ہے اب کہ جواب لکھ رہا ہوں کاغذ تھہ کر لیا ہے

۱۔ (اس جگہ الفاظ کفریہ ملعونہ تھے لہذا بیاض چھوڑ دی گئی ۱۲) یہاں سطور ملعونہ تھیں ۱۲

۲۔ (اس مقام پر بھی کلمات خبیثہ تھے لہذا نقل نہ کئے گئے اقوال تعجب اور نہایت عجب ان مسلمانوں سے جو کاپی نویں و صحیح ایسی ناشائستہ کتابوں کی کرتے ہیں اور ایسے سچے پکے قائم بالحق مسلمان بھی ہیں جو ان کتابوں کی جلدیں نہیں باندھتے چنانچہ بعد اسال اسی سوال کے سائل صاحب راقم کے پاس آئے اور دو کتابیں آریہ ک ان کے ہاتھ میں تھیں اس میں سے انہوں نے ایک ایک مقام سے کچھ پڑھ کر سنایا ایک میں یہی قصہ منقول تھا کہ ایک کتاب آریہ نہ اپنے مذهب کی کتابیں ایک مسلمان کو مجلد کرنے کو دیں مگر اس نے اسی بناء پر کہ یہ کفر کی کتابیں ہیں جلد باندھنے سے انکار کر دیا جس پر اس آریہ کو بڑا غصہ آیا مختصرًا (مولوی نواب سلطان

کہ اللہ تعالیٰ ملعونات کو نہ دکھائے نہ سنائے جو نام کے مسلمان کا پی نویسی کرتے ہیں اور اللہ عزوجل و قرآن عظیم محمد رسول اللہ تعالیٰ اللہ عزوجل و سلم کی شان میں ایسے ملعون کلمات ایسی گالیاں اپنے قلم سے لکھتے یا چھاپتے یا کسی طرح اس میں اعانت کرتے ہیں ان سب پر اللہ عزوجل کی لعنت اترتی ہے وہ اللہ و رسول کے مخالف اور اپنے ایمان کے دشمن ہیں تھراہی کی آگ ان کے لئے بھڑکتی ہے۔ صحیح کرتے ہیں تو اللہ کے غضب میں اور شام کرتے ہیں تو اللہ کے غضب میں اور خاص جس وقت ان ملعون کلموں کو آنکھ سے دیکھتے قلم سے لکھتے مقابلہ وغیرہ میں زبان سے نکالتے یا پتھر پر اس کا ہلاکا بھرا بناتے ہیں ہر کلمہ پر اللہ عزوجل کی سخت لغتیں ملائکہ اللہ کی شدید لغتیں ان پر اترتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا۔ قرآن فرماتا ہے:

ان الذين يوذن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعدلهم عذاباً مهيناً (احزاب: ٢٧)

بیشک وہ لوگ جو ایذہ ادیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں۔ اللہ نے ان کیلئے تیار کر رکھا ہے ذلت کا عذاب۔

ان ناپاکوں کا یہ گمان کہ گناہ تو اس خبیث کا ہے جو مصنف ہے ہم تو نقل کر دینے یا چھاپ دینے والے ہیں سخت ملعون و مردو و گمان ہے زید کسی دنیا کے عزت دار کو گالیاں لکھ کر چھپوانا چاہے تو مگر ہرگز نہ چھاپیں گے۔ جانتے ہیں کہ مصنف کے ساتھ چھاپنے والے بھی گرفتار ہوں گے مگر اللہ واحد قہار کے قہر عذاب و لعنت و عتاب کی کیا پرواہ ہے یقیناً یقیناً کا پی لکھنا والا پتھر بنانے والا چھاپنے والا کل چلانے والا غرض جان کر کہ اس میں یہ کچھ ہے کسی طرح اس میں اعانت کرنے والا سب ایک رسی میں باندھ کر جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈالے جانے کے مستحق ہیں اللہ عزوجل فرماتا ہے:

ولا تعاونوا على الاثم والعداون (المائدہ: ٢٨)

حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من مشى مع ظالم ليعينه وهو بعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام

”جو دانستہ کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد دینے چلا وہ یقیناً اسلام سے نکل گیا۔“

یہ اس ظالم کے لئے ہے جو ہرگز میں یا چار پیسے کسی کے دبالے یا زید عمر و کسی کو باحق سخت سوت کہے اس کے مددگار کو ارشاد ہوا کہ اسلام سے نکل جاتا ہے نہ کہ یہ اشد ظالمین جو اللہ و رسول کو گالیاں دیتے ہیں ان باقوں میں ان کا مددگار کیونکر مسلمان رہ سکتا ہے۔

رواه الطبراني في الكبير والقياء في صحيح المختار عن اوس ابن شرجل رضي الله تعالى عنه

من افات الید کتابة ما یحرم تلفظه من شعر المجنون والفواش والقذف والقصص التي فيها نحو ذلك
والاها جى نشراو نظما والمصنفات والمتعلمة على مذاهب الفرق الضالة فان القلم اهدى اللسانين
فکانت الكتابة في معنى الكلام بل ابلغ منه لبقائها على صفحات الليالي والايات و الكلمة مذهب في
الهواء ولا تبقى اه مختصرا

ایے اشد فاسق فاجر اگر توبہ نہ کریں تو ان سے میل جوں ناجائز ہے ان کے پاس دوستانہ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے پھر منا کھت تو بڑی چیز
ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

واما ينسينك الشيطن ولا تقعده بعد الذكرى مع القوم الظالمين (الانعام: ۲۸)

اور جوان میں اس ناپاک کبیرہ کو حلال بتائے اس پر اصرار اشکار و مقابلہ شرع سے پیش آئے وہ یقیناً کافر ہے اس کی عورت اس کے
نکاح سے باہر ہے اس کے جنازہ کی نماز حرام اسے مسلمانوں کی طرح غسل دینا کفن دینا و فن کرنا اس کے دفن میں شریک ہونا اس کی
قبر پر جانا سب حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولاتصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره . والله تعالى أعلم (التریہ: ۸۳)

فقیر کے یہاں فتاوے مجموعہ پر نقل ہوتے ہیں میں نے نقل فرمانے والے صاحب سے کہہ دیا ہے کہ ان ملعون الفاظ کی نقل نہ کریں
سنا گیا کہ سائل کاقصد اس فتویٰ کے چھانپے کا ہے درخواست کرتا ہوں کہ ان ملعونات کو نکال ڈالیں । ان کی جگہ دو ایک سطریں خالی
صرف نقطے لگا کر چھوڑ دیں کہ مسلمانوں کی آنکھیں ان لعنتی بآپا کیوں کے دیکھنے سے باذنه تعالیٰ محفوظ رہیں۔

فالله خير حافظاً وهو ارحم الراحمين

مسئلہ ۱۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ نامحرم عورتوں کو اندھے سے پردہ کرنا لازم ہے اس زمانہ
میں یا نہیں اور تدقیقی احتیاط کیا ہے۔ بینوا توجرو ا

الجواب اندھے سے پردہ دیا ہے جیسا آنکھ والے سے اور اس کا گھر میں جانا عورت کے پاس بیٹھنا ویسا ہی ہے جیسا
آنکھ والے کا حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعومیا وان انتما۔ والله تعالى أعلم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ کبوتر اڑانا اور پان اور مرغ باری۔ بازی۔ کن کیا بازی اور فروخت کرنا کنکیا اور ڈورا اور ما بھاجا جائز ہے یا ناجائز اور ان لوگوں سے سلام علیک کرنا اور سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا

الجواب کبوتر پالنا جائز ہے جب کہ دوسروں کے کبوتر نہ پکڑے اور کبوتر اڑانا حرام کہ گھنٹوں ان کو اترنے نہیں دیتے حرام ہے اور مرغ یا بیٹر کا لڑانا حرام ہے ان لوگوں سے ابتداء سلام نہ کی جائے جواب دے سکتے ہیں واجب نہیں کنکیا اڑانے میں وقت و مال کا ضائع کرنا ہوتا ہے یہ بھی گناہ ہے اور گناہ کے آلات کن کیا ڈور بیچنا بھی منع ہے اصرار کریں تو ان سے بھی ابتداء سلام نہ کی جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۱۵ کیا فرماتے ہیں علمائے دین شرع متین اس مسئلہ میں کہ فاتحہ گیارہویں میں ربائی شریف پڑھنا چاہئے یا نہیں ربائی یہ ہے۔

(جس وقت حضرت صاحب نے یہ فتویٰ مرتب فرمائی جس سائل میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس تحریر حضرت کو دیکھ کر اسی وقت انہوں نے اپنے سوال میں ان بآپ کلمات پر قلم پھیر دیا اور کہا میں نے صرف دکھانے کے واسطے یہ کلمات سوال میں نقل کر دیئے تھے (۱۲۳۱)

سید و سلطان فقیر و خواجہ مخدوم و غریب بادشاہ و شیخ و درویش و ولی مولانا

اور اگر یہ ربائی پڑھنا جائز ہے تو کل طریقہ فاتحہ گیارہویں شریف کا براہ مہربانی تحریر فرمادیجئے۔

الجواب یہ ربائی نہ پڑھی جائے اس میں بعض الفاظ خلاف شان اقدس ہیں۔ فاتحہ ایصال ثواب کا نام ہے جو کچھ قرآن مجید و درود شریف سے ہو سکے پڑھ کر ثواب نذر کرے اور ہمارے خاندان کا معمول یہ ہے کہ سات بار درود غوثیہ پھر ایک بار الحمد شریف و آیت الکریم پھر سات بار سورہ اخلاص پھر تین بار درود غوثیہ درود غوثیہ یہ ہے:

اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجودو الکرم و علی الله وبارک وسلم
اور فقیر اتنا زائد کرتا ہے۔

وعلی الله الکرام و ابنه الکریم و امته الکریم و بارک وسلم۔ واللہ تعالیٰ اعلم

پر۔ بینوا توجروا

الجواب جب آب مطلق اصلاح نہ ملے تو یہ پانی بھی آب مطلق ہے اس کے ہوتے ہوئے تم ہرگز صحیح نہیں اور اس تمیم سے نماز باطل۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئہ ۱۷ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سوتی موزہ پرسح جائز ہے یا نہیں۔ بینوا توجروا

الجواب سوتی یا اوپنی موزے جیسے ہمارے بلاد میں رائج ہیں ان پرسح کسی کے نزدیک درست نہیں کہ نہ وہ مجلد ہیں یعنی ٹخنوں تک چڑا منڈھے ہوئے نہ متعلق یعنی تلاچڑے کا لگا ہوانہ ٹخنیں یعنی ایسے دیزرو محکم کہ تنہ انہیں کو پہن کر قطع مسافت کریں تو شق نہ ہو جائیں اور ساق پر اپنے دیزرو نے کے سبب بے بندش کے رکے رہیں ڈھلک نہ آ جائیں اور ان پر پانی پڑے تو روک لیں فوراً پاؤں کی طرف چھمن نہ جائے جو پائنا بے ان تینوں وصف مجلد متعلق ٹخنیں سے خالی ہوں ان پرسح بالاتفاق ناجائز ہے ہاں اگر ان پر چڑا منڈھائیں یا چڑے کا تلمہ لگائیں تو بالاتفاق یا شاید کہیں اس طرح کے دیزرو بنائے جائیں تو صاحبین کے نزدیک پرسح جائز ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے۔ فی المنیۃ والغنية:

والمسح على الجوارب لا يجوز عند أبي حنيفة (الا ان يكونا مجلدين) اى استوعب المجلد ما يستر القدم الى الكعب (او منعلين) اى حمل الجلد على ما يليلي الارض منها خاصة كالنعل للرجل (وقالا يجوز اذا كان ثخين لا يشفان) فان الجوارب اذا كان بحيث لا يجاوز الماء منه الى القدم فهو بمنزلة الاذيم والصرم في عدم جذب الماء الى نفسه الا بعد لبسه و ذلك بخلاف الرقيق فإنه يجذب الماء وينفذ الى الرجل في الحال (وعليه) اى على قول ابى يوسف و محمد (الفتوى و الشخين ان يستمسك على الساق من غير ان يشد بشنى) هكذا فسرده كلامهم و ينبغي ان يقييد بما اذا لم يكن ضيقا فانه نشاهد ما يكون فيه ضيق يستمسك على الساق من غير شد والحد بعدم جذب الماء اقرب و بما يمكن فيه متابعة المشي اصوب وقد ذكر نجم الدين زاهد عن شمس الائمة الحلواني ان الجوارب من الغزل او لشعر ما كان رقيقا منها لا يعجز المسع عليه اتفاقا الا ان يكون مجلدا او منعلا وما كان ثخينا منها فان لم يكن مجلدا او منعلا فمحظوظ فيه وما كان فلا خلاف فيه اه ملقطا قلت و ههنا وهم عرض للمولى الفاضل اخي يوسف جلبي في حاشية شرح الوقاية فلا عليك منه بعد ما سمعت نص امام الشان شمس الائمة و كذلك نص في الخلاصة بما يكفي لا زاحة كما حرقه في الغنية و ذكر طرفا منه في رد المحتار فراجعهما ان شئت والله سبحانه وتعالى اعلم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ عمر پر غسل جنابت یا احتلام کا ہے اور زید سامنے ملا اور سلام کہا تو اس کو جواب دے یا نہیں اور اگر اپنے دل میں کوئی کلام الہی یا درود شریف پڑھے تو جائز ہے یا نہیں؟

الجواب دل میں بایں معنی کہ نرے تصور میں بے حرکت زبان تو یوں قرآن مجید بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن مجید بحال جنابت جائز نہیں اگرچہ آہستہ ہوا درود شریف پڑھ سکتا ہے مگر کلی کے بعد چاہئے اور جواب سلام دے سکتا ہے اور بہتر یہ کہ بعد تعمیر ہو۔ کما فعلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

تعمیر میں ہے:

لَا يُكْرَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ (إِنَّ الْقَرْآنَ) الْجَنْبُ وَ حَائِضُ وَ نَفَسَاءٌ كَاوِعَةٌ

رواجخوار میں ہے:

نَصٌ فِي الْهُدَىٰ عَلٰى اسْتِحْبَابِ الْوَضُوءِ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالٰى

اسی میں بھر سے ہے:

وَتَرْكُ الْمُسْتَحْبِ لَا يُوجِبُ الْكُراْهَةَ۔ وَاللَّهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ

مسئلہ ۱۹ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر کسی اردو کتاب یا اخبار میں چند آیات قرآن بھی شامل ہوں تو ان کو بلاوضو چھونا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب کتاب یا اخبار میں جس جگہ آیت لکھی ہے خاص اس جگہ کو بلاوضو ہاتھ لگانا جائز نہیں اسی طرف ہاتھ لگایا جائے جس طرف آیت لکھی ہے خواہ اس کی پشت پر دونوں نا جائز ہیں۔ باقی ورق کے چھونے میں حرج نہیں پڑھنا بےوضو جائز ہے نہانے کی حاجت ہو تو حرام ہے۔ وَاللَّهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ

- (۱) معدود صبح کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟
- (۲) معدود نے ایسے آخروقت میں نماز شروع کی کہ دوسرے وقت میں تمام ہوئی مثلاً ظہر کی عصر میں یا عصر کی مغرب میں تو نماز ہو گئی یا اس کو پھر قضا پڑھے در صورت ثانیہ جب ایسا وقت آخر ہو گیا کہ نماز دوسرے وقت میں جا کر ختم ہو گی تو نماز پڑھ کر پھر اس کی قضا پڑھے یا نہیں جب تک وقت دوسرا نہ ہو جائے کہ پہلے نماز اول پڑھے پھر دوسری۔ بینوا توجروا۔

الجواب (۱) کہ خروج وقت ناقص وضوے معدود ہے ہاں اشراق کے وضو سے آخراً ظہر تک نمازیں فرض و فعل پڑھ سکتا ہے کہ دخول وقت ناقص وضوئیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) نماز بالاجماع باطل ہو گئی کہ خروج وقت و دخول دونوں پائے گئے تو خلال نماز میں وضو جاتا رہا۔ ہاں اگر بعد قعده اخیرہ کے قبل سلام وقت جاتا رہا تو صاحبین کے نزدیک نماز ہو جائے گی اور امام کے نزدیک نہیں کمانی المسائل الا ثنا عشریۃ اگر وقت قلیل رہ گیا اور درمیان نماز میں خروج وقت کا اندر یہ ہے واجبات پر اقصار کرے مثلاً شنا و تعوز و درود و دعا ترک کرے۔ رکوع و سجود میں صرف ایک بار تسبیح رکوع و سجود کہے اور اگر واجبات کی بھی گنجائش نہیں تو بجائے فاتحہ کے صرف ایک آیت پڑھے غرض فرائض پر قناعت کرے اور خروج وقت مشکوک ہو جائے تو شک سے نہ وقت خارج مانا جائے گا نہ وضو ساقط لان اليقین لا یزول بالشك۔ ہاں اگر اقصار علی الفرائض پر بھی خروج وقت بالیقین ہو جائے گا تو اگر کسی امام کے نزدیک نماز ہو سکے گی اس کے اتباع سے پڑھ لے۔ فان الاداء الجائز عند البعض اولى من الترک۔ كما في الدر۔ پھر قضا پڑھے اس وقت مذاہب دیگر کی طرف مراجعت کی مہلت نہ ملی۔ واللہ اعلم

مسئلہ ۴۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حالت جنابت میں اگر پیمنہ آئے اور کپڑے تر ہو جائیں تو نجس ہو جائیں گے یا نہیں؟ بینوا توجروا

الجواب نہیں کہ جب کا پیمنہ مثل اس کے لعب دہن کے پاک ہے۔ فی الدر المختار رسور الادمی مطلاقاً ولو جنباً او كافراً طاهراً و حکم العرق كسور اه ملخصاً۔ واللہ تعالیٰ اعلم

نہیں۔ بینوا توجروا

الجواب بادای رنگ کی پڑیا میں تو کوئی مضاائقہ نہیں اور رنگت کی پڑیا سے درع کے لئے بچنا اولی ہے پھر بھی اس سے نماز نہیں ہونے پر فتویٰ دینا آج کل سخت حرج کا باعث ہے پھر بھی:

والحرج مدفوع بالنص و عموم البلوى من موجبات التخفيف لاسيما في مسائل الطهارة والنجاسة
الهذا اس مسئلہ میں مذهب حضرت امام اعظم و امام ابو يوسف رحمۃ اللہ علیہمہ سے عدول کی کوئی وجہ نہیں ہمارے ان اماموں کے مذهب پر پڑیا کی رنگت سے نماز بلاشبہ جائز ہے۔ فقیر اس زمانہ میں اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہے۔ وقد ذکرنا علی ہذه المسئلة کلاماً اکثر من هذَا فِي فتاویٰ و تحقق الامر بما لامزيد عليه ان ساعد التوفيق من الله سبحانه و تعالى والله تعالى اعلم

مسئلہ ۴۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ گداروئی کا جس میں نجس ہونے کا شہر قوی ہے نیچے بچھا ہے اور اس پر پاک رضائی اوڑھی ہے بارش سے چھٹ پٹکی رضائی اور گدا خوب تر ہو گیا رضائی پیروں کے تلے بھی دبی تھی یعنی گدے سے ملحق تھی اس صورت میں رضائی کی نسبت کیا حکم ہے۔ بینوا توجروا۔

الجواب شبے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی کہ اصل طہارت ہے والیقین لا یزول بالشك ہاں ظن غالب کہ بر بنائے دلیل صحیح ہو فہیمات میں ملحق بیقین ہے نہ بر بنائے تو ہمات عامہ پس اگر گدے میں کسی نجاست کا ہونا معلوم تھا اور یہ بھی معلوم ہو کہ رضائی گدے کے خاص موضع نجاست سے ملحق تھی اور گدے میں خاص اس جگہ تری بھی اتنی تھی کہ چھوٹ کر رضائی کو لگے یا رضائی کے موضع اتصال میں اس قدر رطوبت تھی کہ چھوٹ کر گدے کے محل نجاست کو تر کر دے غرض یہ کہ موضع نجاست پر رطوبت خواہ وہیں کی خواہ دوسرا چیز مجاور کی پہنچ ہوئی اس قدر ہو جس کے باعث نجاست ایک کپڑے سے دوسرے تک تجاوز کر سکے اور اس تجاوز کے یہ معنی کہ کچھ اجزاء رطوبت نجست اس سے متصل ہو کر اس میں آجائیں نہ صرف وہ جسے سیل یا ٹھنڈک کہتے ہیں کہ حکم فقه میں یہ انفصل اجزاء نہیں صرف انتقال کیفیت ہے اور وہ موجب نجاست نہیں اور اس قابلیت تجاوز کی تقدیر رطوبت کا اس قدر ہونا ہے جسے نچوڑے سے بوند پٹکے کے ایسے ہی رطوبت کے اجزاء دوسرا شے کی طرف متجاوز ہوتے ہیں جب تینوں شرطیں ثابت ہوں تو البتہ رضائی کے اتنے موضع پر تجاوز نجاست کا حکم دیا جائے گا پھر اگر موضع بقدر محض فی الشرع مثلاً ایک درہم سے زائد ہو تو رضائی ناپاک پھرے گی اور اسے اوڑھ کر نماز ناجائز ہوگی ورنہ حکم غنویں رہے گی اور اگر چہ ایک درہم کی قدر میں کراہت تحریکی اور کم میں صرف تنزیہی ہوگی اور اگر ان تینوں شرط میں کسی کی بھی کمی ہوئی تو رضائی سرے سے اپنی طہارت پر باقی اور سراپا پاک ہے مثلاً گدے کی کسی کی بھی کمی ہوئی تو رضائی سرے سے اپنی طہارت پر باقی اور سراپا پاک ہے مثلاً گدے کی نجاست مخلوق تھی یا وہ سب

بپاک تھا اور رضائی کا خاص موضع نجاست سے ملنا معلوم نہیں یا محل نجاست کی رطوبت خواہ رضائی سے حاصل کی ہوئی قابلِ بجا ورثہ
تھی۔ یہ سب صورتیں طہارت مطلقہ تامہ کی ہیں:

هذا هو التحقيق الذى عولنا حلية لظهور وجهه ولكونه احوط وان كان الكلام فى المسئلة طويل الذيل ذكر بعضه
فى رد المحتار اخر الانجاس وآخر الكتب وفيه عن البرهان ولا يخفى منه انه لا يتيقن بأنه مجدد نداوة الا اذا
كان النجس الرطب هو الذى لا يتقاطر بعصره اذا يمكن ان يصيب الشوب الجاف قدر كثير من النجاسة ولا
ينبع منه شئى بعصره كما هو شاهد عند البداية بفسله الخ وفيه عن الامام الزيلعى لا انه اذ لم يتقاطر منه بالعصر
لا ينفصل منه شئى و انما يتبل ما يجاوره بالندادة وبذلك لا ينجس الخ وعن الخانية اذا غسل رجله فمشى
على ارض مکعب فاتبل الارض من بلل رجله واسود وجه لكن لم يظهر اثر بلل الارض في رجله فصلی جازت
صلاته وان كان بلل الماء في رجله كثيرا حتى ابتل وجه الارض وصار طينا ثم اصاب الطين. رجله لا يجوز
صلاته الخ والله سبحانه و تعالى اعلم و عمله جل مجده اتم واحكم

مسئله ۴ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ہڈی مردار جانور کی پاک ہے یا ناپاک ہے کیونکہ سینگ تو
ہرجانور کا پاک ہے اگر مسوک میں ہڈی ہاتھی دانت کی ہو کیسی ہے۔ بینوا توجروا۔

الجواب ہڈی ہرجانور کی پاک ہے حلال ہو یا حرام مذبوح ہو یا مردار جب کہ اس پر بدن میتہ کی کوئی رطوبت نہ ہو ساور
کے کہ اس کی ہرجیز ناپاک ہے۔ مسوک میں ہاتھی دانت کی ہڈی ہوتی کچھ حرج نہیں ہاں اس کا ترک بہتر ہے لمحل خلاف
محمد فانہ قائل بنجاسة عئسینة کالخنزیر كما في فتح القدیر و رد المحتار وغيرهما و رعاية الخلاف
مسحبة بالاجماع۔

در مختار میں ہے:

شعر المیتة غیر الخنزیر و عظمها ظاهر اہ لمختصا۔ والله تعالیٰ اعلم

مسئله ۵ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ شیر خوار بچہ کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟

الجواب آدمی کا بچہ اگرچہ ایک دن کا ہواں کا پیشاب ناپاک ہے اگرچہ لڑکا ہو والمسئلة واردۃ متونا و شروحہ۔
والله تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۴۶ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حاف تو شک وغیرہ روئی دار کپڑے ناپاک ہو جائیں تو وہ من روحی کے دھل کر پاک ہو سکتے ہیں یا روز علیحدہ ہو کر کپڑا الگ دھونے سے پاک ہو گا اور اگر روز کا سوت کات لیا جائے تو وہ سوت بغیر اس کے کہ دری وغیرہ بنوائی جائے دھونے سے پاک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا

الجواب جو کپڑے نچوڑنے میں آسکیں جیسے بلکی تو شک رضائی وغیرہ وہ یو ہیں دھونے سے پاک ہو جائیں گے ورنہ بہتے دریا میں رکھیں یا ان پر پانی بہائیں یہاں تک کہ نجاست باقی نہ رہنے پر ظن حاصل ہو یا تین بار دھوئیں اور ہر بار اتنا وقفہ کریں کہ پہلا پانی نکل جائے۔

فی الدر المختار يطهر محل غير مرية بغلبة ظن غاسل طهارة محلها بلا عدد به يفتى وقد ذلك لموسوس بغسل
عصر ثلثا فيما ينحصر و تثليث جفاف اى انقطاع تقاطر في غيره مما يشرب النجاست وهذا كله اذا غسل في
غدير او صب عليه ماء كثيرا وجري عليه الماء طهر مطلقا بلا شرط عصر و تخفيف و تكرار غمس هو المختار . اه
ناپاک روز کا سوت دھونے سے بخوبی پاک ہو سکتا ہے بلکہ دری بنا کر پاک کرنے سے سوت کی تطہیر آسان ہے کہ وہ نچوڑنے میں
سہل آ سکتا ہے۔ كما لا يخفى۔ والله سبحانه وتعالى اعلم

مسئلہ ۴۷ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حلوائیوں کی کڑھائیوں کو کہتے چاٹتے ہیں انہی کڑھائیوں میں وہ
شیرینی بنتاتے ہیں اور دودھ گرم کرتے ہیں ان کے یہاں شیرینی یاد دودھ لے کر کھانا پینا درست ہے یا کہ نہیں؟ بینوا توجروا

الجواب طہارت و نجاست ظاہری میں شرع مطہرہ کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ احتمال سے نجاست ثابت نہیں ہوتی جس خاص
شے کی نجاست معلوم ہو وہی خاص بخش و حرام ہے۔ وہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہ ناخذ مالم نعرف شيئا حرام
بعینہ۔ مسئلہ کی تمام تحقیق و تفصیل ہمارے رسائل "الاحلى من السكر" میں ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۴۸ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ انگلی پر نجاست الگ جائے اور اسے چاث لیا جائے تو انگلی پاک ہو
جائے اور منہ بھی پاک رہے۔ بینوا توجروا

الجواب انگلی کی نجاست چاث کرنا سخت گندی ناپاک روح کا کام ہے اور اسے جائز جانا شریعت پر افترا و اتهام
اور تحمل حرام اور قاطع اسلام ہے اور یہ کہنا محض جھوٹ ہے کہ منہ بھی پاک رہے گا نجاست چاٹنے سے قطعاً ناپاک ہو جائے گا
اگرچہ بار بار بخش ناپاک تھوک یہاں تک نکلنے سے کہ اثر نجاست کامنہ سے دھل کر سب پیٹ میں چلا جائے پاک ہو جائے گا۔ مگر
اس چاٹنے نکلنے کو وہی جائز رکھے گا جو بخش کھانے والا ہو۔ الخیثت للخیثین والحبشون للخیثت. الطیت للطیین

والطیین للطیت. اولنک مبترون مما يقولون۔ والله تعالیٰ اعلم (النور: ۲۶)

مسئلہ ۲۹

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ہنود سے اشیاء خوردنی جیسے دودھ۔ وہی۔ گھی۔ رکاری۔ سیری وغیرہ تر یا خشک کا استعمال اہل سنت کے نزدیک درست ہے یا حرام اور آیہ انما المشرکون نجس سے اہل تشیع کا اشیاء مذکورہ میں کیا خیال ہے اور مجدد صاحب کا اس امر میں کیا فتویٰ ہے۔ بینوا توجروا

الجواب آیہ کریمہ انما المشرکون نجس (التوبہ: ۲۸) ان کے بجائے ونجاست قلب ونجاست دین کے بارے میں ہے اجسام اگر ملوث بنجاست ہیں نجس ہیں ورنہ نہیں۔ تمام کتب فقہ متون و شروح و فتاویٰ اس کی تصریحات سے مالامال ہیں ان کے یہاں کا گوشت تو ضرور حرام مگر اس حالت میں کہ مسلمانوں نے اللہ عز وجل کے لئے ذبح کیا اور بنانے پکانے لانے کے وقت مسلمانوں کی نگاہ سے غائب نہ ہوا کوئی مسلمان اسے دیکھتا رہا تو اس وقت تک حلال ہے ورنہ حرام اور باقی اشیاء جن میں نجاست یا حرمت متحقق و ثابت ہو نجس و حرام ہیں ورنہ ظاہر و حلال اصلی اشیاء میں طہارت و حلت ہے۔ **قال تعالیٰ خلق لكم ما فی الارض جمیعاً**۔ (البقرہ: ۲۹) جب تک کسی عارض سے اس اصل کا زوال ثابت نہ ہو حکم اصل ہی کے لئے رہے گا۔ محترمہ المذہب سیدنا محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہ ناخذ مال ملم نعرف شيئاً حرام بعینہ مگر اس میں شک نہیں کہ ہنود بلکہ تمام کفار اکثر ملوث بنجاست رہتے ہیں بلکہ اکثر نجاستیں ان کے نزدیک پاک ہیں بلکہ بعض نجاستیں ہنود کے خیال میں پاک کرندا ہیں تو جہاں ایک دشواری نہ ہوان سے بچنا اولیٰ ہے۔ غرض فتویٰ جواز اور تقویٰ احتراز روافض کا خیال ضلال ہے اور اس مسئلہ میں حضرت مجدد کا کوئی خیال مجھے اس وقت یاد نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۳۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ بینوا توجروا

الجواب زیر عرش ایک لوح ہے جس کا طول پانچ سو برس کی راہ ہے اس میں ما کان و ما یکون الی یوم القيامة ثبت ہے۔

مسئلہ ۳۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے اس کو تبدل و تغیر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب صحیح یہ ہے کہ لوح تغیر سے محفوظ ہے تغیر و تفتیں و صحف ملائکہ میں ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۲ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جو کچھ اللہ عز وجل نے بعد آفرینش دنیا کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ایک ہی مرتبہ اس کا انتظام کر دیا ہے یا بتدریج اس کی ترمیم و تنشیخ ہوتی رہتی ہے۔ بینوا توجروا۔

الجواب نئے صحف میں ہے نہ لوح میں۔

www.alahazrat.net مسئلہ ۳۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع تین اس مسئلہ میں کہ حدیث حفظ اقتام اور تجربہ سے علوم ہوتے ہیں جو کچھ ہونا تھا ہولیا مدد بر انسانی کچھ فائدہ نہیں دیتی؟

الجواب دنیا عالم اسباب ہے اور سب و مسبب سب مقدر مطلقًا ترک تذیر جہل شدید ہے اور اس پر اعتماد تمام ضلالی بعید۔
واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۳۴ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ شقی سعید ازی کوشش انسانی سے سعید بن سکتا ہے یا نہیں اور سعید ازی پر صحبت بد کا اثر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب نہ شقی ازی سعید ہو سکے نہ سعید ازی شقی سعید ازی پر صحبت بد کا اثر ممکن ہے یو ہیں شقی ازی پر صحبت نیک کا مگر انجام اسی پر ہو گا جس لئے بنائے گئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۳۵ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ دنیا میں جو کچھ ہورہا ہے اور ہو گا بوساطت فرشتگان اور سیارگان و عقول عشرہ ہی ہورہا ہے یا ہر آن میں بلا توسل ان سب کے خود حاکم حقیقی نظم و نسخ فرماتا ہے۔ بینوا توجروا۔

الجواب اللہ اکبر۔ حاکم حقیقی عز جلالہ پاک ہے اس سے کہ کسی سے ترسیل کرے۔ وہی اکیلا حاکم، اکیلا خالق، اکیلا مدد بر ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اس نے عالم اسباب میں ملائکہ کو تذیر امور پر مقرر فرمایا ہے قال تعالیٰ والدبرات امرا۔ علماء نے کہا کہ پہلے بعض کام ارواح کو اکب سے بھی متعلق تھے زمانہ اقد رحضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ان سے نکال لیا گیا اب ملائکہ مدد بر ہیں اور عقول عشرہ جس طرح فلاسفہ مانتے ہیں ان کاہذیان بین البطلان ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۶ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کہ میں زید اپنے رسالہ میں لکھتا ہے کہ کا ہن جو غیب کا حال بتاتا ہے اس پر یقین کرنا کفر ہے وہ کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا حال نہیں معلوم تھا۔ آیا یہ دونوں عقیدے زید کے موافق عقائد سلف الہست و جماعت کے ہیں یا نہیں؟ بینوا توجروا

الجواب اللهم لک الحمد علم ذاتی کہ بے عطائے غیر ہو اور علم مطلق تفصیلی کہ جملہ معلومات الہیہ کو محیط ہو اللہ عز وجل سے خاص ہیں مگر مغایت کا مطلق علم تفصیلی بعطائے الہی ضرور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے ثابت ہے انبیاء سے اس کی نفی مطلقان کی نبوت ہی سے منکر ہوتا ہے امام مجتہد الاسلام محمد غزالی قدس سرہ، العالی فرماتے ہیں النبی ہو المطلع على الغیب۔ یعنی نبی کہتے ہیں اسے جو غیب پر مطلع ہوا بن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ امام مجاہد تلمیذ خاص سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں:

انہ قال فی قوله تعالیٰ ولئن سئالتهم لیقولن انما کنا نخوض و نلعب قال رجل من المنافقین یحدثنا محمد

ان ناقۃ فلاں بوادی کذا و ما یدریه بالغیب.

یعنی کسی شخص کی اونٹی گم ہو گئی اس کی تلاش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے اس پر ایک منافق بولا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بتاتے ہیں کہ اونٹی فلاں جگہ ہے۔ محمد غیب کیا جائیں اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت اتاری کہ کیا اللہ اور اس کی آئتوں اور اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد۔ تو جو نقی مطلق کرے بلاشبہ کافر ہے اور اگر علم ذاتی یا علم محیط جملہ معلومات الہی سے تاویل کرے تو کفر سے نجح جائے گا مگر شان اقدس میں ایسا موهوم کلام بولنے کا اس پر ازالہ قائم ہے کہ اس کا ظاہر کلام یعنیہ وہی ہے جو اس منافق نے کہا اور اللہ عزوجل نے اس کے کفر کا فتوی دیا کیوں نہ کہا کہ بے اللہ کے بتائے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۳۷ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ حقد کے بارے میں تحقیق حق کیا ہے۔

الجواب حق یہ ہے کہ معمولی حق جس طرح تمام دنیا کے عامہ بلاد کے عوام و خواص یہاں تک کہ علماء و عظماء حریم و محترمین زادہما اللہ شرف اونکریما میں رانج ہے شرعاً مباح و جائز ہے جس کی ممانعت پر شرع مطہر سے اصلاً دلیل نہیں تو اسے ممنوع و ناجائز کہنا یا احوال حقہ سے بے خبری پڑتی۔ كما عرض لكثير من المتكلمين عليه في بدء ظهوره قبل اختياره و وضوح أمره فقيل مسکروه قيل مفتiro قيل مضرأى مطلقاً كالسموم و قيل و قيل يا بعض احوال عارضة بعض فساق متاذلين كنظر متنبئي۔ کقول من قال انه مما مجتمع عليه الفاق کا جتما عهم على المرحرمات و قول اخر انه بصد عن ذكر الله و عن الصلة يا بعض عوارض مخصوصه بعض بلاد وبعض اوقات کے لحاظ سے ناشی جن کا حکم ان کے غیر اعصار و امصار کو ہرگز شامل نہیں۔ کمن احتج بالنهی السلطاني على کلام فيه للعلامة النابلسي

یا بعض مفترات کا ذبحة مختصرات ذاہبہ پر متفرع کتهور من تفوہ ان کل دخان حرام۔ و جعله حدیثا عن سید الانام عليه افضل الصلة و اکمل السلام و کجراء من قال اجمعوا على حرمة والاجماع

فقیر نے اس باب میں زیادہ بیبا کی متفقہ افغانستان سے پائی کہ چند کتب فقه پڑھ کر تلقیف و تصلیف کو حد سے بڑھاتے اور عامہ امت مرحومہ کو ناحق فاسق و فاجر بتاتے ہیں اور جب اپنے دعوے باطل پر دلیل نہیں پانے ناچار حدیثیں گڑھتے بناتے ہیں میں نے ان کی بعض تصانیف میں ایک حدیث دیکھی کہ:

”جس نے حقہ پیا گویا اس نے پیغمبروں کا خون پیا۔“

من شرب الدخان فکانما شرب دم الانبياء

من شرب الذخان فكان مازنی بامه فی الكعبه ”جس نے حقہ پیا گویا اس نے کعبہ معظمہ میں اپنی ماں سے زنا کیا۔“
انا للهُ انا إلَيْهِ راجعون - جہل بھی کیا بدلا ہے خصوصاً مرکب کہ لا دوا ہے مسکین نے ایک مباح شرعی کے حرام کرنے کو دیدہ دانتہ
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اٹھایا اور حدیث متواتر:

من كذب على متعبد افليتبوء مقعده من النار

کو اصلاح ہیاں نہ لایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

اللَّهُمَّ تَبْعَدْنَا وَعَلَيْهِ أَنْ كَانَ حَيَا وَاغْفِرْنَا وَلَهُ أَنْ كَانَ مِيتاً

یا قواعد شرع میں بے غوری اور نظر و فکر کی بیطوری سے پیدا

کرام من زعم ان بدعة وكل بدعة ضلاله و منه زعم الزاعم ان فيه استعمال الله العذاب يعني النار و ذاك حرام
 و هذا من البطلان بابین مكان نقضه المحدث الدهلوی فيما نسب اليه باستعمال الماء المعدب به قوم نوح
 عليه الصلوة والسلام قلت و في الترويح بالمرواح استعمال الله العذاب عاد. وأما اصلاح الفاضل الكهنوی
 بزيادة قيد على هيئة اهل العذاب. فاقول لا يجدى نفعا والالم يجز الاغتسال بماء حار قال تعالى يصب من
 فوق روسهم الحميم وماذا يزعم الزعم في دخول الحمام فيكون على هذا حراما منهيا عنه لذاته بل من الكبائر
 أما مطلقا على ما اختار هذا الفاضل من كون تعاطي المكرهه تحريمها من الكبائر او بعد الاغنياد على ما عليه
 الاعتماد من كونه في نفسه من الصغائر و ذلك لأن الحمام كما افاد العلامة المنادى في التيسير اشبه شيء
 بجهنم النار من تحت والظلام من فوق وفيه الغم والحبس والضيق ولذالماد خله سيدنا سليمان نبی اللہ علیہ
 الصلوة والسلام تذكر به النار و عذاب الجبار اخرج العقيلي و الطبراني و ابن عدي والبيهقي في السنن عن ابی
 موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه يرفعه الى النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم قال ادل من دخل
 الحمامات و ضعفت له النورة سليمان بن داود و فلما دخله وجد حرره و غمه فقال ادہ من عذاب الله ادہ قبل ان
 لا تكون ادہ قلت وبهذا يرد حديث التشبيه باهل النار و حديث الملاسبة بالنار كما لا يخفى على اولى
 الابصار

وہذا اعلان محققین واجل معتمدین مذاہب اربعہ نے بعد تشقیح کا روا مکان افکار اس کی اباحت کا حکم فرمایا۔

وهو الحق الحقيق بالقبول

علامہ سیدی احمد حموی غمز العيون والبصائر میں فرماتے ہیں۔ یعلم منه حل شر بالدخان

اس قاعدة سے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے حقہ پینے کی حلت معلوم ہوئی۔ علامہ عبدالغنی بن علامہ اسماعیل نابسی قدس سرہما القدی حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں:

من البدع العادیة استعمال النتن والقهوة الشائع ذكرهما في هذا الزمان بين الاسافل والا عيال والصواب

له لا وجه لحرمتها ولا لكرهتها في الاستعمال الخ

بدعات عادیہ سے ہے حقہ اور کافی کا پینا جن کا چرچا آج کل عوام خواص میں شائع ہے اور حق یہ ہے کہ ان کی حرمت کی کوئی وجہ ہے نہ کراہت کی۔ علامہ محقق علاؤ الدین مشقی در مختار میں عبارت اشباہ نقل کر کے فرماتے ہیں: فیفهم منه حکم النتن شامی میں ہے: وہوا الاباحة على المختار

یعنی اس سے تمباکو کا حکم مفہوم ہوتا ہے اور وہ اباحت ہے مذہب مختار میں۔ پھر فرمایا:

وقد كرهه شيخنا العمامي في هديه الحقاله بالثوم والبصل باولي
ہمارے استاد عبد الرحمن بن محمد عباد الدين مشقی نے اپنی کتاب ہدیہ میں اسے سیر و پیاز سے متعلق تکھڑا کر مکروہ رکھا۔
علامہ سیدی ابوالسعود علامہ سیدی طحطاوی نے حاشیہ در مختار میں فرمایا:

لا يخفى ان الكراهة تنزيهية بدلليل الالحاق بالثوم والمصل والمكروه تنزيها يجامع الجواز

پوشیدہ نہیں کہ یہ کراہت تنزیہی ہے جیسے لہس پیاز کی اور مکروہ تنزیہی جائز ہوتا ہے۔

علامہ حامد آفندی عمامی ابن علی آفندی مفتی دمشق الشام اپنے فتاوے مفتی المستفتی عن سوال لمفتی میں علامہ مجی الدین بن احمد بن مجی الدین حیدر دی جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل فرماتے ہیں:

فی الافتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين فان اکثرهم مبتلون بتناوله فاما اکثرهم مبتلون بتناوله مع ان
تحلیله ایسر من تحريمہ وما خیر رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بین امرین الاختار ایسرہما واما
كونه بدعة فلا ضرر فانه بدعة في التناول لا في الدين فاثبات حرمته امر عسیر لا يکاد يوجد له نصير

حلت قلیان پرفتوئی دینے میں مسلمانوں سے دفع حرج ہے کہ اکثر اہل اسلام اس کے پینے میں بنتا ہیں مگر ہذا اس کی تحلیل تحریم سے آسان تر ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوکاموں میں اختیار دیئے جاتے جو ان میں زیادہ آسان ہوتا سے اختیار فرماتے رہا اس کا بدععت ہونا یہ کچھ باعث ضرر نہیں کہ یہ بدععت کھانے پینے میں ہے نہ امور دین میں تو اس کی حرمت ثابت کرنا ایک دشوار کام ہے جس کا کوئی معین ویا اور ملت نظر نہیں آتا۔

علامہ خاتم تحقیقین سیدی امین الملة والدین محمد بن عابدین شامی قدس سرہ السامی رواجخوار حاشیہ درجتیار میں فرماتے ہیں:

لعلة الشیخ علی اجهوری المالکی رسالۃ فی حلہ نقل فیها انه افتی بعد من یعتمد علیه من ائمۃ المذاہب الاربعة
علامہ شیخ علی جھوری مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حقہ کی حلت میں ایک رسالہ لکھا جس میں نقل فرمایا کہ چاروں مذاہب کے ائمۃ معتدین
نے ان کی حلت پر فتویٰ دیا۔

پھر فرماتے ہیں:

قلت و الف فی حلہ ایضاً سیدنا العارف عبد الغنی النابلسی رسالۃ سماها الصلح بین بین الاخوان فی اباحة
شرب الدخان و تعرض له فی کثیر من تالیف الحسان و اقامۃ الطامة الكبری علی القائل بالحرمة او بالکراهة
فانهم حکمان شرعیان لا بد لهم من دلیل ولا دلیل علی ذالک فانه لم یثبت اسکارہ ولا تفتیرہ ولا اضرارہ بل
ثبته له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل فی الاشیاء الاباحة وان العسل یضر باصحاب الصفراء الغالبة و
ربما امرضهم مع انه شفاء بالنص القطعی وليس الاحتیاط فی الافتراء علی الله تعالیٰ باثبات الحرمة او الکراهة
الذین لا بد لهم من دلیل بل فی القول بالا بابحة التي هی الاصل وقد توقف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم مع انه هو المشرع فی
بل فی القول بالا بابحة التي هی الاصل وقد توقف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم مع انه هو المشرع فی
تحريم الخمر ام الخبائث حتى نزل علیه النص القطعی فالذی ینبغی للانسان اذا سئل عنه سواء كان من يتعاطاه
او لا كهذا العبد الضعیف و جميع من فی بیته ان یقول هو مباح لكن راحته تستکرها الطبع فهو مکروه طبعاً
لا شرعاً الى اخر ما اطال به رحمه الله تعالیٰ

حلت قلیان میں ہمارے سردار عارف باللہ حضرت عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک رسالہ تالیف فرمایا جن کا نام الصلح بین
الاخوان فی اباحة شرب الدخان رکھا اور اپنی بہت تایفات نفیسہ میں اس سے تعرض کیا اور حقہ کی حرمت یا کراہت مانے
والے پر قیامت کبریٰ قائم فرمائی کہ وہ دونوں حکم شرعی ہیں جس کے لئے دلیل درکار اور یہاں دلیل معدوم کہ نہ اس کا نشہ لانا ثابت
ہوانہ عقل میں فتوڑا نا نہ مضرت کرنا بلکہ اس کے منافع ثابت ہوئے ہیں تو وہ اس قاعدہ کے نیچے داخل ہے کہ اصل اشیاء میں
اباحت ہے اور اگر فرض کیجئے کہ بعض کو ضرر کرے تو اس سے سب پر حرمت نہیں ثابت ہوتی جن مزاجوں پر صفر ا غالب ہوتا ہے شہدا
نہیں نقصان کرتا بلکہ بارہ بیمار کر دیتا ہے با آنکہ وہ نفس قرآنی شفا ہے اور یہ کوئی احتیاط کی بات نہیں کہ حرمت یا کراہت ٹھہرا کر خدا
پر افترا کر دیجئے کہ ان کے لئے دلیل کی حاجت ہے بلکہ احتیاط مباح مانے میں ہے کہ وہی اصل ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہ
نفس نفیس صاحب شرع ہیں شراب جیسی ام الخبائث کی تحريم میں توقف فرمایا جب تک نص قطعی نہ اتری تو آدمی کو چاہئے کہ جب اس
سے حقہ کے بارہ میں سوال کیا جائے تو اسے مباح ہی بتائے خواہ آپ پیتا ہو یا نہ پیتا ہو جیسے میں اور میرے گھر میں جس قدر لوگ

www.alahazrat.net
ہیں کہ ہم میں کوئی نہیں پیتا مگر فتویٰ اباحت ہی پر دیتا ہوں) ہاں اس کی بوطیعت کو ناپسند ہے تو وہ مکروہ طبعی ہے نہ شری اور ہنوز علامہ مذکور کا کلام طویل اس کی تحقیق میں باقی ہے۔

بالجملہ عند الحقيقة اس مسئلہ میں سوا حکم اباحت کے کوئی راه نہیں خصوصاً ایسی حالت میں عجماء عرباً و شرقاً عامِ مومنین بلا دو بقاع تمام دنیا کو اس سے ابتلا ہے تو عدم جواز کا حکم دینا عامہ امت مرحومہ کو معاذ اللہ فاسق بنانا ہے جسے ملتِ حقیقہ سمجھ سیہلہ غرابیضا ہرگز گوار نہیں فرماتی اسی طرف علامہ جزری نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا کہ: فی الافتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين اور اسے علامہ حامد عما دی پھر مُشَكّح علامہ محمد شامی آفندی نے برقرار رکھا۔ اقول:

ولسنا نعنى بهذهان عامة المسلمين اذا ابتلوا بحرام حل بل الامران عموم البلوى من موجبات التخفيف شرعاً
ما ضاق امر الا اتسع فاذ اوقع ذلك في مسئلة مختلف فيها ترجع جانب اليسر هونا لل المسلمين عن العسر ولا
يخفى على خادم الفقه ان هذا كما هو اجار في باب الطهارة والنجاسة كذلك في باب الاباحة والحرمة
والذاتراه من مسوغات الافتاء بقول غير الامام الاعظم رحمته الله عليه كما في مسئلة المخابرة وغيرها مع
تنصيصهم بأنه لا يعدل عن قوله الى قوله غيره الابضورۃ بل هو من مجوزات الميل الى روایة النوادر على
خلاف ظاهر الروایة كما نصوا عليه مع تصريحهم بأن ما خرج عن ظاهر الروایة فهو قول مرجوع عنه ما جع عنه
المجتهد بما يق قولا له وقد ثبت العلماء بهذا في كثير من مسائل الحلال والحرام ففي الطريقة وشرحها
الحديقة في زماننا هذا لا يمكن الاخذ بالقول الا حوط في الفتوى الذي افتى به الائمه هو ما اختاره الفقيه ابو
اللیث انه ان كان في غالب الظن ان اكثر مال الرجل حلال جاز قبول هدية و معاملة والا لا اه ملخصا . وفي
رجال المحترم مسئلة بيع الشمار لا يخفى تحقيق الضرورة وفي زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام وفي نزعهم
عن عادتهم حرج وما ضاق الامر الا اتسع ولا يخفى ان هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الروایة اه ملخصا . وفيه من كتاب الحدود
مسئلة العلم في الثوب هو ارفق باهل هذا الزمان لثلاثة يقعوا في الفسق والعصيان اه . وفيه من كتاب الحدود
مقتضى هذا كله ان من زفت اليه زوجة ليلة عرسه ولم يكن يعرفها لا يحل له وطءها مالم يقل واحدة
او اکثر انها زوجتك وفيه حرج عظيم لانه يلزم منه تأثیم الامة اه ملخصا انى غير ذلك من مسائل يكثر عدها
ويطول سردتها ناندفع ما عسى متوجه من القول الفاضل اللکھنؤی ان عموم البلوى انما یوثر في باب
الطهارة والنجاسة لا في باب الحرمة والا باحة صرخ به الجماعة اه

ہاں بنظر بعض وجوہ اسے مکروہ تئزیہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ محقق علائی و علامہ ابوالسعود و علامہ طحطاوی و علامہ شامی نے الحاق بالشوم و
المصل افادہ فرمایا:

على ما فيه لبعض الفضلاء مع كلام المنا في ذلك المرأة.

علامہ شامی فرماتے ہیں: الحاقہ بما ذکر هو النصف
اقول۔ یہیں ظاہر کہ اس وجہ کو موجب کراہت تحریم جانا۔

کما جزم به الفاضل اللکھنوی فی فتاواه تردد فی رسالۃ و اضطراب فیه کلام المحدث الدهلوی
فیما نسب الیہ فاوہم اولاً انه یوجب کراہة التحریم و عاداً خرافقال التنزیہ سراسر خلاف تحقیقیت ہے۔

ثُمَّ اقول پھر کراہت تنزیہ کا حاصل صرف اس قدر کہ ترک اولیٰ ہے نہ کہ فعل ناجائز ہو علماء تصریح فرماتے ہیں کہ یہ
کراہت مجامع جواز و اباحت ہے جانب ترک میں اس کا وہ مرتبہ ہے جو جہت فعل میں مستحب کا کہ مستحب بات کیجئے تو بہتر نہ کیجئے تو
گناہ نہیں مکروہ تنزیہ کیجئے تو بہتر کیجئے تو گناہ نہیں پس مکروہ تنزیہ کی کو داخل دائرہ اباحت مان کر گناہ صغیرہ اور احتیاک کو کبیرہ قرار دینا
کما صدر عن الفاضل الکھنوی وجہہ السید المشہدی ثُمَّ المکدوی سخت لغرض و خطأ فاحش ہے یا رب مکروہ گناہ کو ناجوش عاصی مباح ہو اور
مباح کیسا جوش عاصی گناہ ہو۔

فقیر غفرلہ المولی القدیر نے اس ذلت کے رو میں ایک مستقل تحریر مکی بہ جملہ مجلیۃ ان المکروہ تنزیہا لیس بمعصیۃ
تحریر کی و باللہ التوفیق۔

ثُمَّ اقول یو ہیں مانحن فیہ میں تین وجہ کراہت تنزیہ کھہرا کر کراہت تحریم کی طرف مرتفق کر دینا کما وقع فیما نسب
الی المحدث الدهلوی محض نامعقول قطع نظر اس سے کہ ان وجہو سے اکثر محل نظر شرع سے اصلاً اس پر دلیل نہیں کہ جو چیز
تین وجہ سے مکروہ تنزیہ کی ہو مکروہ تحریمی ہے۔ ومن ادعی فعلیہ البیان۔ خود محدث دہلوی کے تلمیذ رشید مولانا رشید الدین خان
دہلوی مرحوم اپنے رسالہ عربیہ میں صاف لکھتے ہیں علمائے تحقیقین حقہ میں کراہت تنزیہ کی مانتے ہیں۔

حيث قال اما المحققون القائلون بکراهة تنزیہها فهم ايضاً تشبثوا بالروايات الفقهية مثل ما قال صاحب الدر المختار
اور اس میں تصریح ہے کہ مالت مشائخنا الیها اسی کراہت تنزیہ کی طرف ہمارے اساتذہ نے میل کیا۔ اس رسالہ پر شاہ
عبد العزیز صاحب و شاہ رفع الدین صاحب کی تقریظین ہیں شاہ صاحب ن اسے تحریر۔ اینق و تقریر و سبق و صحیح والمبانی و مستحب
المعانی و موافق روایات و مطابق درایات بتایا اور شاہ رفع الدین صاحب نے استحسنست غایۃ الا ستحسان مانش ربانیہ من
جو اہر لالیہ فی مبانیہ و معانیہ فرمایا تو ظاہراً و دوسراً تحریر کی نسبت غلط ہے یا اس میں تحریفیں واقع ہوئیں اور اس پر دلیل یہ
بھی ہے کہ اس تحریر کے اکثر جوابات مخدوش و مضمض اور خلاف تحقیق با توں پر مشتمل ہیں اور نسبت بہمہ جہت صحیح ہی مانئے تو رسالہ
تلمیذ کی مدح و تقریظ معارض و مناقض ہو گی و تحریر پا یہ اعتبار سے یوں بھی گرگئی اور اس سے بھی قطع نظر کیجئے تو مقصود اتباع حق ہے نہ

تقلید اہل عصر و اتباع زید و عمر واللہ الہادی و ولی الایادی۔

الحاصل معمولی حق کے حق میں تحقیق حق و تحقیق بھی ہے کہ وہ جائز و مباح و صرف مکروہ تنزیہ ہی ہے یعنی جو نہیں پتے بہت اچھا کرتے ہیں جو پتے ہیں کچھ برائیں کرتے۔ فان الاسادہ فوق کراہۃ التنزیہ کما حققه العلامہ الشامي البتہ وہ حق جو بعض جہاں بعض بلا وہنہ ماه رمضان مبارک شریف میں وقت افطار پتے اور دم لگاتے اور حواس و دماغ میں فتوح لاتے اور دیدہ و دل کی عجب حالت بناتے ہیں بے شک منوع و ناجائز و گناہ ہے اور وہ بھی معاذ اللہ ماه مبارک میں اللہ عزوجل ہدایت بخش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مفتر چیز سے نبی فرمائی اور اس حالت کے حالت تفتیر ہونے میں کچھ کلام نہیں۔ احمد و ابو داؤد و سند صحیح عن ام سلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن کل مسکرو مفتر۔ والله تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۳۸ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین درباب قلیان کشیدن کہ بعضے مکروہ تنزیہ می فرمانید و بعضے مکروہ تحریکی میگوئید و بعض حرام مطلق میدانند و بعضے میفرمانید کہ کے کے قلیان میکشد از مشاہد جہاں آرائی حضرت خواجه عالم و عالمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و از احضار مجلس حضور پر نور القدس و اعلیٰ محروم می ماند پس قال میگوییم کہ آیات مذہب مختار حنفی چیست گودریں باب استفہا علماء تختخط فرمودند مگر مفصل ارقام زرفت و تکیہ نشہ الہذا امیدوارم کہ تشریح مفصل ارقام روود۔ بینوا تو جروا

الجواب باید دانست کہ در مسئلہ کشیدن قلیان کہ اختلاف بظہور آمدہ اند بروقتسم اند یکے اختلاف علمائے کاملین و دیگر اختلاف مخصوصین۔ اما اختلافات علماء کاملین کہ بظہور رسیدہ بنظر غور و تعقیب راجع طرف اختلاف حال تمبا کو یا اختلاف حال شاریین است۔ اما اختلاف مخصوصین پس متعلقی بر اختراق اقوال شاذہ مردودہ مختلف جمہور یا حکایات بے سروپا مشتمله بر کذب وزور است تفصیل ایں اجمال آنکہ از روئے احادیث و آثار و اقوال جمہور فقہاء کبار اصل و راشیاء اباحت است پس چیز یکہ در آں دلیلے کہ منصوص الحرمۃ است یافہ شود مشیت یا اسکار البتہ حرام و منوع است و چیز یکہ در آں دلیل منصوص حرمت یافہ نشود و حکمش مسکوت عنہ بود باعتبار ذات حلال و مباح است اگر کراہت و حرمت در کدامی صورت خاصہ یافہ خواہ شد مکروہ و حرام گفتہ خواہ شد ورنہ براصل خود باقی خواہ ماند و چوں در تمبا کو کہ در بعض بلا و یافہ میشود اسکار توفیر موجود است مثل بلا و بخار وغیرہ علماء آنجا حکم ممانعت فرمودہ اندر و در تمبا کوئے بعض بلا و ہرگز اثر تفتیر و اسکار نیست مثل تمبا کوئے مصروف وغیرہ علمائے محققین آنجا حکم بحلت و جواز فرمودہ اند و قول منکر امر و نمودہ اند و علی ہذا القیاس اختلاف حال شاریین را ہم خلی است معتقد در حکم آں پس کے کہ بطور ہبوب اشہاک عبیث در آں می نماید حکمش جدا است و کے کہ برائے منافع کہ انکار ازاں نتوال نمود بلقدر ضرورت استعمال می سازد حکمش جدا است پس ایں اختلاف کہ در اقوال محققین یافہ میشود فی الحقيقة اختلاف فی نیست و انجوے مخصوصین حرام مطلق میگوئید قطع نظر ازاں کہ برائے

منفعت باشد یا بطور لہو و لعب و عبث تباکو ہم خواہ مسکر و مفتر باشد و بغیر نقل از شارع و مجتهدین شریعت اصل در اشیاء حرمت فرار داده
اند پس تعصی است باطل و از حلیه صدق و انصاف عاطل و قول و حکم قائل که از کشیدن قلیان حرمان از مشاهد لمعان جمال حضرت سید
انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم حاصل می گردد بے دلیل کامل در همیں تعصب لا حاصل داخل است ہر چند علمائے دین دریں مسئلہ رسائل
مستقلہ المختار بعد ازاں کے فرمودہ: قد اضطررت اراء العلماء فيه بعضهم قال بکراهة و بعضهم قال بحرمتہ

بعضهم با باحة الخ

و یک دو قول ممانعت ذکر نموده و در آخر فرموده:

وللعلامة الشیخ علی الاجھوری المالکی رسالۃ فی حلہ نقل فیها انی افتی بحلہ من یعتمد علیه من ائمۃ
المذاہب الاربعة قلت و الف فی حلہ ایضا سیدنا العارف عبدالغنی النابلسی رسالۃ سماها بالصلح بین الاخوان
فی اباحة شرب الدخان و تعرض له فی کثیر من تالیف الحسان و اقام الطامة الکبری علی القائل بالحرمة او
بالکراهة فانهما حکمان شرعیان لا یدلہما من دلیل ولا دلیل علی ذلك فانه لم یثبت اسکارہ ولا تفیرہ ولا
ضرارہ بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل فی الاشیاء الاباحة وان فرض اضراره للبعض لا یلزم منه
تحریمه علی کل احد فان العسل یضر باصحاب اصفراء و ربما امر ضھم مع انه شفاء بالنص القطعی و ليس
الاحتیاط فی الافتقاء علی الله تعالی باثباتات الحرمة او الكراهة الذين لا یدلہما من دلیل بل فی القول بالا باحة
التي هي الاصل وقد توقف النبی صلی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلم مع انه هو المشرع فی تحريم الخمیر ام
الخبائث حتى نزل علیه النص القطعی فالذی ینبغی للانسان اذا ستل عنه سواء كان من یعا طاه او لا کھدا
العبد الضعیف و جميع من فی بیته یقول هو مباح لكن رائحة تستکر مها الطیاع فهو مکروه طبعا لا شرعا الى

آخر ما قال الى اخره

حررة التیر الکھیر عبدال قادر محبت الرسول القادری البدایوی علی عغفی عنہ۔

مسئلہ ۳۹ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع دین ایسے شخص کی نسبت اور اس کے معاونین کی بابت کہ جو طرح
طرح کی درخواست ممبران آریہ سماج سے کرتا ہوا اور ادھر و عظ اور امامت بھی مسلمانوں کی کرتا رہے اور جو اپنے وعظ میں بھی آریوں
کو اپنا ولی اور دوست اور جگر کا نکلا ابتلاء اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے مرتبہ کو حضور سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان کے برابر سمجھے اور جس کا کذب اور وعدہ خلافی بھی اکثر مرتبہ ظاہر ہوئی ہوا یا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کا وعظ کرنا
اور سننا جائز ہے یا نہیں اور اس کے معاونان کس حکم شرعی کے مصدق ہیں عند اللہ و عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بروئے قرآن و حدیث و
فقہ بہت جلد جواب تحریر فرمادا خل حنات ہوں اس کے بعد سائل نے چھوڑ ق میں وہ خطوط لکھے تھے جو اس شخص نے آریوں کے

پاس بھیجے تھے۔ بینوا توجروا۔

الجواب یہ کلمات اگر اس شخص نے دل سے کہے جب تو اس کا کفر صریح ظاہر واضح ہے جس میں کسی جاہل کو بھی تامل نہیں ہو سکتا اسلام کی حقانیت میں اس کو شبہ ہے کفر کی طرف مائل بلکہ اس کا مشتاق اور اس کے لئے اپنے آپ کو بے چین بناتا ہے کفر کی عزت و فخر اور سرفرازی کہتا ہے تو اس کے شکوہ رفع ہوں یا نہ ہوں وہ آریہ بنے یا نہ بنے اسلام سے تو اس وقت نکل گیا والعیاذ باللہ تعالیٰ اور اگر دل میں ان باتوں کو جھوٹ جانتا ہے آریہ کو دھوکہ دینے کے لئے ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں تو اول تو یہ دھوکہ کا عندر مغض جھوٹ باطل ہے اور بفرض غلط اگر ہو بھی تو دھوکہ دینا کیا ضرور ہے اور بفرض غلط ضرور بھی ہو تو وہ اکراہ تک نہیں پہنچ سکتا واحد قہار عز جلالہ نے صرف اکراہ کا تستثناء فرمایا۔ الامن اکراہ و قلبہ مطمئن بالایمان بہر حال اس کو واعظ بنانا حرام اس کا وعظ سننا تاجائز اس کو امام بنانا حرام اس کے پیچھے نماز باطل رہا امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے مرتبہ کوشان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کہنا اس کے کفر صریح وارد ادھاصل ہونے میں کسی راضی کو کلام نہیں ہو سکتا نہ کہ اہل سنت جن کا ایمان یہ ہے کہ کسی غیر نبی کو کسی نبی کا ہمسر کہنے والا کافر ہے ایسے شخص کے جتنے معاون ہیں وہ سب بھی اسی کے حکم میں ہیں مارہرہ شریف کے صاحزوادوں میں ایسے تاریک ناپاک گندے خیالوں کا کوئی شخص معلوم نہیں خصوصاً عالم ظاہرا نے یہ انتساب مغض جھوٹ طور پر کیا اور اگر بالفرض صحیح بھی تھا توبہ جھوٹ ہو گیا۔ **قال الله تعالى انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح۔ والله تعالى اعلم** (ہود: ۲۶)

مسئلہ ۴ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لئے جھوٹی بات کہنا کہاں تک جائز ہے۔ بینوا توجروا

الجواب اپنا حق مردہ زندہ کرنے کے لئے پہلو دار بات کہنا جس کا ظاہر دروغ ہو اور واقع میں اس کے پچے۔ معنے مراد ہوں اگرچہ سننے والا کچھ سمجھے بلاشبہ با تفاق علماء دین میں جائز اور احادیث صحیح سے اس کا جواز ثابت ہے جبکہ وہ حق بے اس طریقہ کے ملنا میسر نہ ہو ورنہ یہ بھی جائز نہیں پہلو دار بات یوں مثلاً ظالم نے ظلم اس کی کسی چیز پر قبضہ مخالفانہ اس مدت تک رکھا جس کے باعث انگریزی قانون میں تماوی عارض ہو کر حق نا حق ہو جاتا ہے مگر مخالف کے پاس اپنے قبضہ کا کاغذی ثبوت نہیں اس کے بیان پر رکھا گیا اگر یہ اقرار کئے دیتا ہے کہ واقعی مثلاً بارہ برس سے میرا قبضہ نہیں گو حق جاتا اور ظالم فتح پاتا ہے لہذا یوں کہنے کی اجازت ہے کہ ہاں میرا قبضہ رہا ہے یعنی زمانہ گذشتہ اور زیادہ تصریح چاہی جائے تو یوں کہہ سکتا ہے کہ آج تک میرا قبضہ چلا آیا اور نیت میں لفظ آیا کو کلمہ استفہام لے جیسے کہتے ہیں آیا یہ بات حق ہے یعنی کیا نہ بات حق ہے تو استفہام انکاری کے طور پر اس کلمہ کا یہ مطلب ہوا کہ کیا آج تک میرا قبضہ منقطع ہو کر مخالف کا قبضہ ہو گیا۔ یا یوں کہے کل تک برابر میرا قبضہ رہا آج کا حال نہیں معلوم کہ کچھری کیا حکم دے اور لفظ کل سے زمانہ قریب مراد لے جیسے نوجوان اڑ کے کو کہتے ہیں کل کا بچہ ہے حالانکہ اس کی عمر بیس بائیس سال کی ہو اسی معنی

پر قیامت کو روز فردا کہتے ہیں کل آنے والی ہے یعنی بہت نزدیک ہے یا مخالف کے قبضہ کی نسبت سوال ہو تو کہے اس کا بضمہ بھی نہ ہوا اور مراد یہ ہے کہ بھی وہ وقت بھی تھا کہ اس کا بضمہ نہ تھا زیادہ تصریح درکار ہو تو کہے اس کا بضمہ اصلاح کی وقت ایک آن کو بھی نہ ہوانہ ہے اور معنی یہ ہے کہ حقیقی قبضہ ہر شے پر اللہ عزوجل کا ہے دوسرے کا بضمہ ہو ہی نہیں سکتا غرض جو شخص تصرفات الفاظ و معانی سے آگاہ ہے سو پہلو نکال سکتا ہے مگر ان کو جواز بھی صرف اسی حالت میں ہے جب یہ واقعی مظلوم ہے اور بغیر ایسی پہلو دار بات کے ظلم سے نجات نہیں مل سکتی ورنہ اور مذکور ہوا کہ یہ بھی ہرگز جائز نہیں۔

اب رہی یہ صورت کہ جہاں پہلو دار بات سے کام نہ چلے ہاں صریح کذب بھی دفع ظلم و احیاء حق کے لئے جائز ہے یا نہیں اس بارہ کلمات علماء مختلف ہیں، بہت روایات سے اجازت نکلتی اور بہت اکابر نے منع کی تصریح فرمائی ہے حتی الوعظ احتیاط اس سے اجتناب میں ہے اور شاید قول فیصل یہ ہو کہ اس ظلم کی شدت اور کذب کی مصیبت کو عقل سلیم و دین قویم کی میزان میں تو لے جدھر کا پلے غالب پائے اس سے احتراز کرے مثلاً اس کا ذریعہ رزق تمام و کمال کسی ظالم نے چھین لیا اب اگر نہ لے تو یہ اور اس کے اہل عیال سب فاقہ مرسیں اور وہ بے کذب صریح مل نہیں سکتا تو اس ناقابل برداشت ظلم اشد کے دفع کو امید ہے کہ غلط بات کہہ دینے کی ہو اجازت ہو اور اگر کسی مالدار شخص کے سود و سور و پے کسی نے دبائے صریح جھوٹ کی اجازت اسے نہ ہونی چاہئے کہ جھوٹ کا فساد زیادہ ہے اور اتنے ظلم کا تحمل اس مالدار پر ایسا گراں نہیں حدیث سے ثابت اور فقہہ کا قاعدہ مقررہ بلکہ عقل و نقل کا ضابطہ کلیہ ہے کہ:

جو شخص دو بلاؤں میں گرفتار ہوان میں جو آسان ہے اسے اختیار کرے۔

من ابتعلی ببلین اختارا ہونهما

هذا ما عندى والعلم بالحق عند ربى

در مختار میں ہے: **الکذب مباح لاحياء حقه و دفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال وهو الحق قال تعالى قتل الخراسون. الكل من المجبى وفي الوهابية قال**

وللصلاح جاز الكذب او دفع ظالم و اهل لترضى و القتال ليظفروا

رد المختار میں ہے:

الكذب مباح لاحياء حقه كالشفيع يعلم بالبيع بالليل فإذا اصبح يشهدوا يقول علمت الان و كذا الصغيرة تبلغ في الليل و تختار نفسها من الروح وتقول رأيت الدم الان واعلم ان لکذب قد يباح وقد يجب و الضابطة فيه كما في تبیین المحارم وغيره عن الاحياء ان كل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والکذب جميما فالکذب فيه حرام وان امكن التوصل اليه بالکذب وحده فمباح ان ابیح تحصیل ذلك المقصود و واجب ان وجہ کما لورائی معصوما اختفت من ظالم یرید قتلہ و ایذاء فالکذب هنا واجب و کذا الوسالہ من و دیعة یرید اخذها یجب انکارها و مهما کان لا يتم مقصود حرب او صلاح ذات الہیں او استعمال قلب المحبی علیہ الا

بالكذب فيباح ولو ساله سلطان عن فاحشة وقعت منه سراً كثناً أو شرب فله أن يقول ما فعلته لأن المثل ما ذكره
آخر وله أيضاً يكره سراً كثيناً وإن ينبع أن يقاتل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدق فأن كانت
مفسدة الصدق أشد فله الكذب وإن بالعكس أوشك حرم وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق
لغيره لم تجر المسامحة لحق غيره والحرم تركه حيث أبى.

نيزاس میں اور حاشیہ طحاویہ میں ہے:

قوله جاز الكذب قال الشارح ابن الشيخة نقل في البزارية ان اراد المعارض لا الكذب الخالص
کی میں ہے: حيث يباح اتعریض لحاجته لا يباح بغيرها لانه يوهم الكذب وإن لم يكن اللفظ كذباً الخ
حدائقهندیہ میں ہے: بکره التعریض کراهة تحريم بدون الحاجة اليه اه باختصار
طحاوی میں ہے:

قالت عند القاضي ادركت الان و فسخت فالقول لها لانها قادرة على نشاء الرد لا يشرط ان يكون حالة
البلوغ حقيقة بل لو كان باخبارها كذبا انه بلغت الان و قيل لمحمد كيف يصح وهو كذب لانها انما ادركت
قبل هذا الوقت فقال لا تصدق بالاستاد مجاز لها ان تكذب كيلا يبطل حقها اه وانما يسوغ لها ذلك اذا كانت
اختلاف عند البلوغ بالفعل و اخذ من ذلك جواز الكذب لا حياء الحق وهي منصوصة
خلاصة وہندیہ میں ہے:

ان رأت الدم في الليل تقول فسخت النكاح و تشهد اذا اصحت و تقول انما رأيت الدم الان لانها تصدق ان
تقول رأيت الدم في الليل و نسخت ذكره في مجموع التوازن قال رضي الله تعالى عنه وإن كان هذا كذباً لكن
الكذب في بعض المواقع مباح
بزاریہ وہندیہ میں ہے:

ليس هذا بکذب محض بل من قبيل المعارض المسوغة لاحياء الحق كانه الفعل الممتد لدوامه حكم
الابداء والضرورة داعية الى هذا الالى غيره اه
طحاویہ میں ہے: قلت لا يظهر بعد التقيد بالان انه من المعارض بل من محض الكذب الخ
روايخمار میں ہے:
حاصله انها بقولها بلغت الان انی الان باللغة ثلا يکون كذبا صريحا الخ اقول و وجه اخر وهو اراده
القرب بقوله الان كما قدمنت في صدر الجواب.

اشاییں ہے: الكذب مفسدة محمرة وهي مئی تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز الخ
غزا العيون میں ہے:

فی البزاریة يجواز الكذب فی ثلاثة مواضع فی الاصلاح بین الناس و فی الحرب دمع امراته قال فی
ذخیرۃ اراد بها المعارض لا الكذب الخالص او مثله فی اواخر الجیل عن المبسوط.

طریقہ محمدیہ میں ہے:

يحوز الكذب في ثلث وما في معناهات عن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله
تعالى عليه وسلم لا يحل الكذب الا في ثلث رجل كذب امراته ليرضيها و رجل كذب في الحرب مان الحرب
خدعه و رجل كذب بين مسلمين ليصلاح بينهما وزاد في روایة عن ام كلثوم رضي الله تعالى عنها المرأة
تحدث زوجها والحق بهذا الثلث دفع ظلم الظالم و احياء الحق و قيل المباح في هذا الموضع التعرض اما
الكذب فحرام لا يحل بحال اه

مرقاۃ میں زیر حدیث صحیحین:

عن ام كلثوم رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الكذب الذى
يصلح بين الناس ويقول خيرا وainمی خيرا
فرمایا:

بان يقول الاصلاح مثلا بين زيد و عمرو يا عمرو يسلم عليك زيد و يمدحك ويقول انا رجه و
كذلك يحيى الى زيد و يبلغه من عمرو مثل ما سبق.

عمدة الباری شرح بخاری میں ہے:

فيه اي في الحديث الجبل في التخلص من الظلمة بل اذا اعلم انه لا تخلص الا بالكذب جاز له الكذب الصريح
و قد يجحب في بعض الصور بالاتفاق ككونه ينجي نبيا او ولها من يريد قتله او لنجاة المسلمين من عدوهم.
وقال الفقهاء لو طلب ظالم و دية لانسان ليأخذها غضبا وجوب عليه الانكار و الكذب في انه لا يعلم موضعها.
غزا العيون میں اسے نقل کر کے فرمایا: فليحفظ.

شیخ محقق ترجمہ مشکوہ میں زیر حدیث مذکور فرماتے ہیں: ”یکے از مواضع کہ دروغ گفتن دراں رواست اصلاح ذات الہیں ست صلح
دادون و دور کردن نزان و عداوت کہ میان دوکس ست و یکے دیگر ازال مواضع کہ دروغ گفتن دراں جائز است نگاہ داشت برخون و
مال کے ست کہ بنائیں میر و دور روغ گفتن بازن بقصد اصلاح و رضاۓ وے نیز جائز داشتہ چنانکہ گوید ترا دوست میدارم ہر چند

مسئلہ ۴۱

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اپنے حق کے وصول کے لئے چھینا جبھی زبردستی دباینا و
امثالہا امور جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا

الجواب عین حق یا جنس حق کے لئے اجازت ہے جب کہ فتنہ ہو اور اس پر کذب کا قیاس مع الفاروق ہے کہ یہاں
غصب و نہب کی صورت ہے حقیقت نہیں کہ حقیقتاً انہا حق لیتا ہے اور کذب ہو گا تو حقیقتاً ہو گا کما لا یخفی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۲

کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ مولانا عبدالقدیر صاحب بدایوانی کی خدمت میں میں نے اپنے جواب
کو اس لئے پیش کیا تھا کہ اگر صحیح ہو تو یہی رہے اس وقت تک میں نے جو جواب لکھا تھا وہ صرف بحوالہ و سند احیاء العلوم تھا حضرت
مولانا نے فرمایا کہ احیاء العلوم سے جواب کافی نہیں فقه سے لکھوا اور کچھ نہ فرمایا۔ فقه میں جو دیکھا تو اس میں بھی احیاء العلوم کی سند
موجود ہے۔ آیا احیاء العلوم وغیرہ امثالہا سے سند لانا اور غیر مذہب کے علماء سے سند لانا صحیح ہے یا نہیں اگر ہے تو کس قسم کے مسائل
میں اکثر یہ لوگ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خنفی کو اپنی فقہ سے ہی سند ضرور ہے۔ علماء احتجاف اہل سنت جو اپنی کتب مناظرہ وغیرہ میں
دوسرے علماء اور ان کی کتب یا تصوف وغیرہ علوم کی کتب سے سند دے دیتے ہیں وہ معاذ اللہ خاطی ہیں۔ بینوا توجروا۔

الجواب مسائل اختلافیہ حنفیہ وغیر حنفیہ میں غیر حنفیہ سے استناد صحیح نہیں اور ان کے ماوراء میں قدیماً و حدیثاً ہر مذہب والے
چاروں مذہب کے اکابر سے سند لاتے ہیں یونہی مسائل غیر متشابہات میں ائمہ تصوف قدسنا اللہ تعالیٰ باسرارہم سے استناد اور
ایسوں کو خاطی جانے والا خود سخت خاطی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۴۳

حضرت مولانا المعظم والمکرم دامت برکاتہم العالیہ۔ پس از تسلیم مع التکریم معروض کہ
(۱) جس نے فرض عشاء با جماعت نہیں پڑھے اور وتر کی جماعت میں شریک ہو گیا اس کے یہ وتر سرے سے ہوئے ہی نہیں یا
ہوئے مگر مکروہ تو تحریکی یا تنزیہ ہی۔

(۲) اگر جماعت سے فرض عشاء پڑھ لئے تھے تو اب جس امام کے پیچھے چاہے وتر جماعت سے پڑھ لے اگرچہ وہ امام فرض و
تروتھ دنوں سے غیر ہو یا صرف ایک سے یا اس امام نے فرض وتر اتوتھ با جماعت نہ پڑھے ہوں بہر حال بلا کراہت صحیح ہوں گے یا کیا؟
(۳) جماعت وتر میں استحقاق شرکت کے لئے تروتھ با جماعت پڑھنا کتنا دخل رکھتا ہے یا کچھ نہیں۔

(۴) آج کل علی العموم سفر پہلے سے اس کے بیسیوں حصہ زائد تیز رو سواریوں پر ہوتا ہے۔ اس کے لئے بحسب مسافت اندازہ
کی ضرورت ہے یہ فرمائیں کہ کس قدر کوں مروج کے سفر میں قصر وغیرہ احکام سفر ہوں گے اور کوں مروج سے اپنی مراد کی تشریح فرمائیں
دیں کہ وہ کوں مثلاً اس قدر قدموں کا ہے بہر حال ایسا کوئی اندازہ بتانا چاہئے جس سے سب عام و خاص سہولت کے ساتھ یہ سمجھ سکیں

کہ ہمارا سفر قصر ہوا نہیں اور تیز روسوار یوں میں بڑی ہوں یا بھری جو سفر کیا ہے اس کا اس سفر بحساب ایام سے موازنہ نہ رہیں۔

بینوا توجروا

الجواب حضرت والا دامت برکاتہم۔

(۱) وتر ہو جانے میں شبہ نہیں ہاں مکروہ ہے بقول الشامی: احوال صلاہا جماعتہ مع غیر ثم صلح الوتر معه لا کراہة اور کراہت تحریم کی کوئی وجہ نہیں ظاہر اگر کراہت تنزیہ ہے۔

(۲) اگر فرض جماعت سے پڑھے تو خود امام ہو کر بھی اور مطلقاً ہر ایسے امام کے پیچھے بھی وتر پڑھ سکتا ہے خواہ وہ امام فرض ہو یا تراویح یا محض جدید ہاں جس امام نے فرض جماعت نہ پڑھے ہوں جماعت وتر سے مکروہ ہو گی اور اس کی کراہت سے میں سراحت کرے گی کہ جماعت وتر ہر واحد کے حق میں تفصیلاتاً تابع جماعت فرض ہے:

فما المتفرد في الفرض ينفرد في الوتر كما بينا في فتاوننا

(۳) کچھ نہیں سواء اس کے اگر ابھی مسجد میں جماعت تراویح ہوئی ہی نہیں تو جماعت وتر مکروہ ہے کہ جماعت وتر اجماعاً تابع جماعت تراویح ہے۔

(۴) قصر تین منزل پر ہے فقیر نے متوں کے تجربہ سے ثابت کیا کہ یہاں منزل ۱۹۔۵ میل ہے تو مدت قصر ۷۔۵ میل ہے جسے تقریباً ساڑھے ستاؤں میل کہنے میل سے یہی راجح میل ۲۰۔۷ اگر زکار مراد ہے سفر بھری میں باڈی کشتی کی او سط چال بحال اعتدال ہوا مراد ہے دخانی جہازوں کا اعتبار نہیں جیسے ریل کا مجھے ہر بار دخانی ہی جہاز میں اتفاق سیر ہوا البتہ اس دفعہ جدہ سے را بغہ تک ساعیہ میں گیا تھا کہ تین دن میں پہنچی براہ خشکی چھ منزل ہے اس ایک بار کے مشاہدہ پر میں بھری سفر کے لئے میلوں کی تعین نہیں کر سکتا۔ خصوصاً جب کہ لوگوں کا بیان تھا کہ ہو اکم ہے ورنہ ایک دن میں پہنچتی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۴۴

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کتب عقائد وغیرہ میں جوابات نبوت حضرت ابوالبشر آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ادلہ میں حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں وہ حدیث کس نے کن الفاظ سے تحریج کی ہے۔ بینوا توجروا۔

الجواب حضرت با برکت دامت برکاتہم السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ حدیث سیدنا ابوذر علیہ الرضوان سے مندا امام احمد میں یوں ہے قال قلت یا (رس) ای انبیاء کان اول قال ادم قلت یا (رس) نبی کان قال نعم نبی مکلم اور نوادرالاصول تصنیف امام حکیم الامتہ ترمذی کبیر میں ان سے مرفو عایوں ہے:

اول الرسل ادم و اخرهم (رس) علیہ و علیہم افضل الصلوٰۃ والسلام

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و شرع متنین مسائل ذیل میں،

- (۱) عورت کو اس مکان میں جہاں محارم وغیر محارم مرد عورتیں ہوں جانا جائز ہے یا ناجائز؟
- (۲) جس گھر میں نامحرم مرد عورات ہیں وہاں عورتوں کو کسی تقریب شادی یا غنی میں برقع کے ساتھ جانا اور شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟
- (۳) جس مکان کا مالک نامحرم ہے لیکن اس جلسے عورات میں نہیں ہے اور اس کا سامنا بھی نہیں ہوتا ہے مگر مالک مکان کی جورو اس عورت کی محروم ہے تو اس کو وہاں جانا جائز ہے یا نہیں؟
- (۴) ایسے گھر میں جس کے مالک تو نامحرم ہیں مگر اس گھر میں کوئی عورت بھی اس عورت کی محروم نہیں تو اس عورت کو جانا جائز ہے یا نہیں؟
- (۵) ایسے گھر میں کہ جس کا مالک نامحرم ہے مگر وہاں ایک عورت اس عورت کی محروم ہے اور جو عورت محروم ہے وہ مالک مکان کی نامحرم ہے مگر اس گھر میں عورات اس عورت کی محروم ہیں اور مالک جو نامحرم ہے وہ گھر میں جہاں جلسے عورات ہے آتا نہیں ہے تو اس عورت کو جانا جائز ہے یا نہیں؟
- (۶) ایسے گھر میں جہاں مالک تو نامحرم ہے مگر اس گھر میں عورات اس عورت کی محروم ہیں اور مالک جو نامحرم ہے وہ گھر میں جہاں جلسے عورات ہے آتا نہیں ہے تو اس عورت کو جانا جائز ہے یا نہیں؟
- (۷) جس گھر کا مالک تو نامحرم ہے اور گھر میں آتا نہیں اور عورات بھی اس گھر کی نامحرم ہیں تو اس عورت کو جانا جائز ہے یا نہیں؟
- (۸) جس گھر کا مالک محروم ہے اور لوگ نامحرم تو جانا جائز ہے یا ناجائز.
- (۹) جس گھر میں مالک نامحرم ہے مگر دوسرے شخص محروم ہیں حالانکہ سامنا نامحربوں سے نہیں ہوتا تو اس عورت کا جانا جائز ہے یا ناجائز؟
- (۱۰) جس گھر کے دو مالک ہیں اس عورت کا خاوند ہے اور دوسرا نامحرم ہے تو اس گھر میں جانا جائز ہے یا ناجائز؟
- (۱۱) جس گھر میں عام محفل ہے جہاں مذکورالصدر سب اقسام موجود ہیں اور عورات پر دشمن وغیرہ پر دشمن دونوں قسم کی موجود ہیں اور مرد بھی محارم وغیر محارم ہیں مگر یہ عورت نامحرم مرد سے چادر وغیرہ سے پر دشمن کے ان عورتوں میں بیٹھ سکتی ہے تو ایسی حالت میں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
- (۱۲) جس گھر میں ایسی تقریب ہو رہی ہے جس میں منہیات شرعیہ ہو رہے ہیں اس میں کسی مرد یا عورت کو اس طرح جانا کہ وہ علیحدہ ایک گوشہ میں بیٹھے جہاں مواجهہ تو اس کی شرکت میں نہیں ہے مگر آواز وغیرہ آرہی ہے گو اس آواز وغیرہ ناجائز امور سے

اسے کچھ خط بھی نہیں ہے اور نہ متوجہ اس طرف ہے تو جانا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۴) جس گھر میں مالک وغیرہ نامحرم مگر اس عورت کے ساتھ محارم عورات بھی ہیں گو اس گھر کے لوگ ان عورات کے نامرم ہیں تو اس کو جانا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۵) شوق مذکور الصدر میں سے جوشوق ناجائز ہیں ان میں کسی شق میں عورت کو شوہر کا اتباع جائز ہے یا نہیں؟

(۱۶) مرد کو اپنی بی بی کو ایسی مجالس و مخالف میں شرکت سے منع کرنے اور نہ کرنے کا کیا حکم ہے اور عورت پر اتباع و عدم اتباع سے کس درجہ نافرمانی کا اطلاق اور کیا اثر ہوگا اور مرد کو شریک ہونے اور نہ ہونے کا کیا حکم ہے؟

(۱۷) جس مکان میں مجتمع عورات محارم وغیر محارم کا ہوا و عورات محارم و نامحارم ایک طرف خاص پرده میں با جمیع ہوں اور مجتمع مردوں کا بھی ہر قسم کے اسی مکان میں عورات سے علیحدہ ہو لیکن آواز ہو لیکن آواز نامحرم مردوں کی عورات سنتی ہیں اور ایسے اپنے مکان میں مجلس وعظ یا ذکر شریف نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام منعقد ہے تو ایسے جلسے میں اپنے محارم کو بھیجنایا نہ بھیجنایا کیا حکم ہے اور نہ بھیجنے سے کیا محظوظ شرعی لازم ہوتا ہے اور انعقاد ایسی مجالس کا اپنے زنانہ مکانات میں کیا ہے اور اس ذکر یا وعظ کو اپنے محارم یا غیر محارم کے ایسے مکان میں جانا چاہئے یا نہیں؟ فقط بینوا توجروا۔ عند الله الوهاب مقصودسائل عورات محارم سے وہ قرابت دار ہیں جن کے مرد فرض کرنے سے نکاح جائز نہ ہو۔ بینوا توجروا

الجواب صور جزئیہ کے عرض جواب سے پہلے چند اصول و فوائد ملحوظ خاطر عاطر ہیں کہ بعونہ عز مجدہ شوق مذکورہ وغیرہ مذکورہ سب کا بیان میں اور فہم حکم کے موید و معین ہوں و بالله التوفیق۔

اول اصل کلی یہ ہے کہ عورت کو اپنے محارم رجال خواہ نساء کے پاس ان کے یہاں عیادت یا تعزیت یا اور کسی مندوب یا مباح دینی یا دینیوی حاجت یا صرف ملنے کے لئے جانا مطلقاً جائز ہے جب کہ منکرات شرعیہ سے خالی ہو مثلاً بے ستری نہ ہو مجع فساق نہ ہو تقریب منوع شرعی نہ ہونا چ یا گانے کی محفل نہ ہو زنا فواحش و بیباک کی صحبت نہ ہو چوبے شربت کے شیطانی گیت نہ ہوں سدھنوں کی گالیاں سننا نہ ہونا محرم دواہا کو دیکھنا نہ ہو۔ رت جگے وغیرہ میں ڈھول بجانا گانا نہ ہو۔

دوم اجائب کے یہاں کے مرد زن سب اس کے نامحرم ہوں شادی غنی زیارت عیادت ان کی کسی تقریب میں جانے کی اجازت نہیں اگرچہ شوہر کے اذان سے اگر اذان دے گا خود بھی گنہگار ہو گا سوا چند صور مفصلہ ذیل کے اور ان میں بھی حتی الوضت ستر و تحرز اور فتنہ و مظاہن فتنہ سے تحفظ فرض۔

سوم کسی کے مکان سے مراد اس کا مکان سکونت ہے نہ مکان مالک مثلاً اجنبی کے مکان میں بھائی کرایہ پر رہتا ہے جانا جائز بھائی کے مکان میں اجنبی عاریتہ ساکن ہے جانا جائز۔

پنجم محروم عورتوں سے وہ مراد کہ دونوں میں جسے مرد فرض کیجئے نکاح حرام ابدی ہوا یک جانب سے جریان کافی نہیں مثلاً اس بہوت باہم محروم ہی ہیں کہ ان میں جسے مرد فرض کریں دوسرے سے بیگانہ ہے۔ سوتیلی ماں پیٹیاں بھی آپس میں محروم نہیں کہ اگرچہ بیٹی کو مرد فرض کرنے سے حرمت ابدی یہ ہے کہ وہ اس کے باپ کی مدخلہ ہے مگر ماں کو مرد فرض کرنے سے محض بیگانگی کہ اب اس کے باپ کی کوئی نہیں۔

ششم رہے وہ موضع جو حارم واجانب کسی کے مکان میں نہیں اگر وہاں تہائی و خلوت ہے تو شوہر یا محرم کے ساتھ جانا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مکان میں شوہر و حارم کے ساتھ رہنا اور مکان قید و حفاظت ہے کہ ستر و تحفظ پر اطمینان حاصل اور ادیشہائے فتنہ یکسر زائل تو یوں بھی حرج نہیں، اس قید کے بعد استثناء ایک روزہ راہ کی حاجت نہیں کہ بے معیت شوہر یا مرد محرم عاقل بالغ قابل اعتماد حرام ہے اگرچہ محل خالی کی طرف وجہ یہ کہ عورت کا تہما مقام دور کو جانا اندر یہ فتنہ سے عاری نہیں تو وہی قید اس کے اخراج کو کافی اور اگر مجمع محل جلوت ہے تو حاجت شرعی اجازت نہیں خصوصاً جہاں فضولیات و بطالات و خطبات و جہالت کا جلسہ ہو جیسے سیر۔ تماشے، باجے، تاشے ندیوں کے پن گھٹ ناؤ چڑھانے کے جھمگٹ بے نظیر کے میلے پھول والوں کے جھمیلے نوچندی کی بلا میں مصنوعی کر بلا میں علم تعزیوں کے کاوے۔ تخت جریدوں کے دھاوے۔ حسین آباد کے جلوے۔ عباسی درگاہ کے بلوے ایسے مواقع مردوں کے جانے کے بھی نہیں نہ کہ یہ نازک شیشاں جنہیں صحیح حدیث میں ارشاد ہوا ویدک الخشبة رفقا بالقواریر اور محل حاجت میں جس کی صورتیں مذکور ہوں گی بشرط ستر و تحفظ و تحریز فتنہ اجازت یکروزہ راہ بلکہ نزد تحقیق مناط اس سے کم میں بھی محافظہ مذکور کی حاجت۔

www.alahazrat.net ہفتہ یہ اور وہ یعنی مکان غیر وغیر مکان میں جانا بشرط اٹمذ کو رجائز ہونے کی نصوص تیں ہیں۔ قابلہ، غاسلہ، نازلہ، مریضہ، مضطہ، حاجہ، مجاہدہ، مسافرہ، کاسبہ۔

قابلہ یہ کہ کسی عورت کو درد زہ ہوا یہ دائی ہے۔

غاسلہ جب کوئی عورت مرے یہ نہلانے والی ہے ان دونوں صورتوں میں اگر شوہر دار ہے تو اذن شوہر ضرور جب کہ مہر متحمل نہ ہو یا تھا تو پاچکی۔

نازلہ جب اسے کسی مسئلہ کی ضرورت پیش آئے خود عالم کے یہاں جائے بغیر کام نہیں نکل سکتا۔

مریضہ کہ طبیب کو بلا نہیں سکتی نبض کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح زچہ و مریضہ کا علاج آ جام کو جانا جب کہ وہاں کسی طرف سے کشف عورت اور بند مکان میں گرم پانی سے گھر میں نہانا کفایت نہ ہو۔

مضطہ کہ مکان میں آگ لگی یا گرا پڑتا ہے یا چور گھس آئے یا درندہ آتا ہے غرض ایسی کوئی حالت واقع ہوئی کہ حفظ دین یا ناموس یا جان کے لئے گھر چھوڑ کر کسی جائے امن و امان میں جائے بغیر چارہ نہیں اور عضو نفس اور مال اس کا شقیق ہے۔

حاجہ ظاہر ہے اور زائرہ اس میں داخل کہ زیارت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تحریۃ حج بلکہ متہ حج ہے۔

مجاہدہ جب عیاذ باللہ عیاذ باللہ اسلام کو حاجت اور بحکم امام نفیر عام کی نوبت ہو فرض ہے کہ ہر غلام بے اذن مولیٰ ہر پر بے اذن والدین ہر پرده نہیں بے اذن شوہر جہاد کو نکلے بلکہ استطاعت جہاد و صلاح وزاد ہو۔

مسافرہ جو عورت سفر جائز کو جائے مثلاً والدین مدت سفر پر ہیں یا شوہرنے کہ دور نوکر ہے اپنے پاس بلا یا اور محروم ساتھ ہے تو منزلوں پر سرا وغیرہ میں اترنے سے چارہ نہیں۔

کاسبہ عورت بے شوہر ہے یا شوہر بے جوہر کہ خبر گیری نہیں کرتا نہ اپنے پاس کچھ کہ دن کاٹے نہ اقارب کو توفیق یا استطاعت نہ بیت المال منتظم نہ گھر بیٹھے دستکاری پر قدرت نہ محارم کے یہاں ذریعہ خدمت نہ بحال بے شوہر کسی کو اس سے نکاح کی رغبت تو جائز ہے کہ بشرط تحفظ و تحریز جانب کے یہاں جائز و سیلہ رزق پیدا کرے جس میں کسی مرد سے خلوت نہ ہو حتیٰ الامکان وہاں ایسا کام لے جو اپنے گھر آ کر کرے جیسے سینا پسینا اور نہ اس گھر میں نوکری کرے جس میں صرف عورتیں ہوں یا نابالغ بچے ورنہ جہاں کا مرد مقیٰ پر ہیز گارہ ہو اور سائنس ستر برس کا پیر زال بد شکل کر یہہ المنظر کو خلوت میں بھی مضاائقہ نہیں۔

تنبیہیہ ان کے سواتین صورتیں اور بھی ہیں شاہدہ، طالبہ، مطلوبہ۔

شاهدہ وہ جس کے پاس کسی حق اللہ مثل رویت ہلال رمضان و سماع طلاق و عحق وغیرہ میں شہادت ہو اور ثبوت اس کی گواہی و حاضری دار القضا پر موقوف خواہ بشرط مذکور کسی حق العبد مثل حق غلام و نکاح و معاملات مالیہ کی گواہی اور مدعی اس سے طالب اور قاضی عادل اور قبول معمول اور دون کے دن گواہی دے کر واپس آسکے۔

طالبہ جب اس کا کسی پر حق آتا ہو اور بے جائے دعویٰ نہیں ہو سکتا۔

مطلوبہ جب اس پر کسی نے غلط دعویٰ کیا اور جواب دی میں جانا ضروری یہ صورتیں بھی علماء نے شمار فرمائیں۔ مگر بحمد اللہ تعالیٰ پر وہ نہیں کو ان کی حاجت نہیں کہ ان کی طرف سے وکالت مقبول اور حاکم شرع کا خود آ کر نائب بحیث کران سے شہادت لینا معمول یہ بیان کافی و صافی بحمد اللہ تعالیٰ تمام صور کو حاوی و وافی بعونہ تعالیٰ اب جواب جزئیات ملاحظہ ہوں۔

جواب ۱ وہ مکان محارم ہے یا مکان غیر یا غیر مکان اور وہاں جانے کی طرف حاجت شرعیہ داعی یا نہیں سب صور کا مفصل بیان میں شرائط و مستحبات گزرا۔

جواب ۲ اگر یہ مراد کہ زن محرم بھی ہیں تو وہی سوال اول ہے اور اگر یہ مقصود کہ نا محرم ہی ہیں تو جواب ناجائز مگر بصورت استثناء۔

جواب ۳ زن محرم کے یہاں اس کی زیارت عیادت و تعزیت کسی شرعی حاجت کے لئے جانا بشرط مذکورہ اصل اول جائز مگر کتب معتمدہ مثل مجموع النوازل و خلاصہ فتح القدر و بحر الرائق و اشباه و غمز العيون و طریقہ محمد یہ در مختار و ابوالسعود و شربلا یہ وہندیہ وغیرہ میں ظاہر کلمات ائمہ کرام شادیوں میں جانے سے مطلقاً ممانعت ہے اگرچہ محارم کے یہاں۔ علامہ احمد طحطاوی نے اسی پر جزم اور علامہ مصطفیٰ حمتی و علامہ محمد شامی نے اسی کا استطریحہ کیا اور یہی مقتضی ہے حدیث عبد اللہ بن عمر و حدیث خولہ بنت انتہمان و حدیث عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فلتنتظر نفس ماذا تری اور اگر شادیاں ان فواحش و منکرات پر مشتمل ہوں جن کی طرف ہم نے اصل اول میں اشارہ کیا تو منع یقینی ہے اور شوہر دار کو تو شوہر بہر حال اس سے روک سکتا ہے جب کہ مہرجل سے کچھ باقی نہ ہو۔

جواب ۴ نہ مگر باستثناء مذکور۔

جواب ۵ وہ مکان اگر اس زن محرم کا مسکن ہے تو اس کے پاس جانا تفصیل مذکور جواب سوم پر ہے ورنہ یوں کہ نا محروم کے یہاں دو یہیں جائیں کہ وہاں ہر ایک دوسرے کی محرم ہو گی اجازت نہیں کہ ممنوع و منوع عمل کرنا ممنوع ہوں گے۔

جواب ۶ اگر وہ مکان ان زنان محارم کا ہے تو جواب جواب سوم ہے کہ گذر اور نہ جواب ہفتہ کہ آتا ہے۔

جواب ۷

اللَّهُمَّ انِي اعوْزُ بِكَ مِنَ الْفَتْنَ وَالاَفَاتِ وَعَوْرَلِعُورَاتٍ - يہ مسئلہ مکان اجانب میں زبان اجنبی کے پاس عورتوں کے جانے کا ہے علماء کرام نے مواضع استثناء ذکر کر کے فرمایا لافیما عدا ذلک و ان اذن کانا عاصیین - نہ کہ ان کے ماوراء میں اور اگر شوہرا ذن دے تو وہ بھی گنہگار اس نقی کا عموم سب کو شامل پھر ان مواضع میں ماں کے پاس جانا بھی شمار فرمایا اور دیگر محارم کے پاس بھی اور اس کی مثال خانیہ وغیرہ میں خالہ و عمه و خواہر سے دی۔ نیز علمائے قابلہ و غاسلہ کا استثناء کیا اور پھر ظاہر کہ وہ نہ جائیں گی مگر عورات کے پاس اگر زنان اجنبی کے پاس جانا مواضع استثناء سے مخصوص نہ ہوتا استثناء میں مادر و خالہ و خواہر و عمه و قابلہ و غاسلہ کے ذکر کے کوئی معنی نہ تھے۔ احادیث ثلثہ مشار الیہار میں ارشاد ہوا عورتوں کے اجتماع میں خیر نہیں حدیثیں اولین میں اس کی علت فرمائی کہ وہ جب اکھٹی ہوتی ہیں بیہودہ باتیں کرتی ہیں حدیث ثالث میں فرمایا ان کے جمع نہ ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے صیقل گرنے لوہا تپایا جب آگ ہو گیا کوشا شروع کیا جس چیز پر اس کا پھول پڑا جلا دی۔ رواہن جمیعا الطبرانی فی الکبیر عورتیں کہ بوجہ نقصان عقل و دین سنگ دل اور امر حق سے کم منفعل ہیں ولذالم يکمل منهن الاقليل - لوہے سے تشیہ دی گئی اور نار شہوات و خلاغات کے ان میں رجال سے حصہ زائد مشتعل لوہا کی بھٹی اور ان کا مخلص بالطبع ہو کر اجتماع لوہے اور ہتوڑے کی صحبت۔ اب جو چنگا ریاں اڑیں گی دین ناموس حیا غیرت جس پر پڑیں گی صاف پھوک دیں گی سلے پارسا ہے ہاں پارسا ہے وبارک اللہ مگر جان پر اور کیا پارسا میں معصوم ہوتی ہیں کیا صحبت بد میں اثر نہیں جب قیمتوں سے جدا خود سرو آزاد ایک مکان میں جمع اور قیمتوں کے آنے دیکھنے سے بھی اطمینان حاصل۔ فانما خلقت من ضلع اعوج - کج سے نبی کج ہی چلے گی آپ نادان ہے تو شدہ شدہ سیکھ کر رنگ بد لے گی جسے تشقیف زنان کی پرواہ نہیں یا حالات زمان سے آگاہ نہیں اول ظالم کا تو نام نہ لیجئے اور ثانی صالح سے گزارش کیجئے۔

معدور وارمت کہ تو اور اندر یدہ

مجموع زنان کی شناعت وہ ہیں کہ لاینبغی ان تذکر فضلا ان تسطر جسے ان نازک شیشیوں کی صدمے سے بچانا ہو تو راہ یہی ہے کہ شیشیاں بھی بے حاجت شرعیہ نہ ملنے پائیں کہ آپس میں مل کر بھی بھیس کھا جاتی ہیں حاجات شرعیہ وہی جو علمائے کرام نے استثناء فرمادیں غرض احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہلکا نہیں کہ اجتماع نساء میں خیر و صلاح نہیں آئندہ اختیار بدست مختار۔

جواب ۸، ۹ ان دونوں سوالوں کا جواب بعد ملاحظہ اصل سوم وجوابات سابقہ ظاہر کہ بعد اس قطاع اعتبار ملک و لحاظ سکونت یہ ان سے جدا کوئی صورت نہیں۔

جواب ۱۰ ملک کا حال وہی ہے جو اوپر گذر اور شوہر کے پاس جانا مطلقاً جائز جب کہ ستر حاصل اور تحفظ کامل اور ہر گونہ اندیشہ فتنہ زائل اور موقع غیر موقع من nou و باطل ہوا اور شوہر جس مکان میں ہے اگرچہ ملک مشترک بلکہ غیر کی ملک ہواں کے پاس رہنے کی بھی بشرط معلومہ مطلقاً اجازت بلکہ جب نہ مہر مجھل کا تقاضا نہ مکان مخصوص وغیرہ ہونے کے باعث دین یا جان کا ضرر ہوا اور شوہر شرائط سکناے واجبہ مذکورہ فقہ بجالا یا ہوتا واجب انہیں شرائط سے واضح ہو گا کہ مسکن میں اور اس کی شرکت سکونت کہاں تک تخلی کی جاسکتی ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ عورت کو ضرر دینا بھی قطعی قرآن عظیم حرام ہے اور شک نہیں کہ اجنبی مردوں ہیں سوت کی شرکت بھی ضرور سا اور جہاں ساس نند دیور انی جھٹکانی سے ہوتوان سے بھی جدا رکھنا حق زنان والتفصیل فی رد المحتار۔

جواب ۱۱ یہ تقریباً وہی سوال ہے محارم کے یہاں بشرط جائز۔ جواب سوم بھی ملحوظ رہے ورنہ خدا کے گھر یعنی مساجد سے بہتر عام محفل کہاں ہو گی اور ستر بھی کیسا کہ مردوں کی ادھر ایسی پیٹھ کہ منہ نہیں کر سکتے اور انہیں حکم کہ بعد سلام جب تک عورتیں نہ نکل جائیں نہ انھوں مگر علماء نے اولاً کچھ تخصیص کیں جب زمانہ زیادہ زیادہ فتن کا آیا مطلقاً ناجائز فرمادیا۔

جواب ۱۲ اگر جانے کہ میں اس حالت میں جانے سے انکار کروں تو انہی منہیات کا چھوڑنا پڑے گا تو جب تک ترک نہ کریں جانا ناجائز اور جانے کہ میں جاؤں تو میرے سامنے منہیات نہ کر سکیں گے تو جانا واجب جب کہ خود اس جانے میں منکر کا ارتکاب نہ ہوا ورنہ یہ نہ وہ تخلی عار و طعن و بدگوئی و بدگمانی سے احتراز لازم خصوصاً مقتداً کو ورنہ بشرط معلومہ جب کہ حالت حالت مذکورہ سوال ہو کہ اسے نہ حظ نہ توجہ اگرچہ تحریم نہیں مگر حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوشہنائی کی آوازن کر کانوں میں انگلیاں دیں اور یہی فعل حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا اس سے احتراز کی طرف داعی خصوصاً نازک دل عورتوں کے لئے حدیث الخبيرة ابھی گذری اور اصلاح پر اعتماد نہیں غلطی بسا کیم آفت ازا و از خیزد حسن بلائے چشم ہے نغمہ و بال گوش ہے

جواب ۱۳ جواب چشم ملاحظہ ہو عورت کا عورت کے ساتھ ہونا زیارت عورت ہے نہ حفاظت کی صورت سونے پر سونا جتنا بڑھاتے جائیے محافظت کی ضرورت ہو گی نہ کہ ایک توڑا دوسرے کی تگہداشت کرے۔

جواب ۱۴ گناہ میں کسی کا اتباع نہیں ہاں وہ صورتیں جہاں منع صرف حق شوہر کے لئے ہے جیسے مہر مجھل نہ رکھنے والی کا ہفتے کے اندر والدین یا سال کے اندر دیگر محارم کے یہاں جانا وہاں شب باش ہونا یا اجازت شوہر سے جائز ہو جائے گا والا۔

جواب ۱۵ الرجال قوامون علی النساء - (النساء: ۳۲) مدد کو لازم ہے کہ اپنی اہل کو حتی المقدور مناہی سے روکے یا یہاں الذین امنوا اقوا انفسکم و اهليکم نارا (التحريم: ۲) عورت بحال نافرمانی دوہری گنہگار ہو گی ایک گناہ شرع دوسرے گناہ نافرمانی شوہر اس سے زیادہ اثر جو عوام میں مشتہر کہ بے اذن جائے تو نکاح سے جائے غلط اور باطل مگر جب کہ شوہر نے ایسے جانے پر طلاق بائن متعلق کی ہو مرد مجلس خالی عن المنکرات میں شریک ہو سکتا ہے اور نبی عن المنکر کے لئے مجلس منکرہ میں بھی جانا ممکن

جب کہ مشیر قتنه ہو۔ والفتنة اکبر من القتل۔ مگر تجسس و اتباع عورات و دخول دار غیر بے اذن کی اجازت نہیں۔

جواب ۱۶ عورتوں کے لئے محرم عورت کے معنی اصل پچم میں گذرے اور نہ بھینے میں اصلاح مذکور شرعی نہیں اگرچہ مجلس محارم زن کے یہاں ہو بلکہ اگر وعظ اکثر واعظان زمانہ کی طرح کہ جاہل نا عاقل و بیباک و ناقابل ہوتے ہیں مبلغ علم کچھ اشعار خوانی یا سروپا کہانی یا تفسیر مصنوع یا تحدث موضوع نہ عقائد کا پاس نہ مسائل کا احفاظ نہ خدا سے شرم نہ رسول کا لحاظ غایت مقصود پسند عوام اور نہایت مراد جمع حاطم یا ذا کرایے ہی ذا کرین غافلین مبظلين جاہلین سے کہ رسائل پڑھیں تو جہاں مغزور کے اشعار گائیں تو شعرائے بے شعور کے انبياء کی تو ہیں خدا پر اتهام اور نعمت و منقبت کا نام بدناام جب تو جانا بھی گناہ بھینا بھی حرام اور اپنے یہاں انعقاد مجتمع آشام آج کل اکثر موعظ و مجالس عوام کا یہی حال پر ملاں فاتح اللہ وانا الیہ راجعون۔

اسی طرح اگر عادت نساء سے معلوم یا مظنون کہ بنام مجلس وعظ ذکر اقدس جائیں اور سنیں نہ سنائیں بلکہ عین وقت ذکر اپنی کھریاں پکائیں جیسا کہ غالب احوال زنان زماں تو بھی ممانعت ہی سبیل ہے کہ اب یہ جانا اگرچہ بنام خیر ہے مگر مروجه غیر ہے ذکر و تذکیر کے وقت لغو و لفظ شرعاً ممنوع و غلط اور اگر ان سب مفاسد سے خالی ہوا اور وہ قلیل و نادر ہے تو محارم کے یہاں بشرائط معلومہ بھینے میں حرج نہیں اور غیر محارم یعنی مکان غیر یا غیر مکان میں بھینا اگر کسی طرح احتمال قتنه یا منکر کا مظنه یا وعظ و ذکر سے پہلے پہنچ کر اپنی مجلس جمانا یا بعد ختم اسی مجتمع زنا کا رنگ منانا ہو تو بھی نہ بھیجے کہ منکر و نا منکر مل کر منکر اور بخلاف تقریر جواب سوم و هفتم یہ شرائط عام ترا اور اگر فرض کیجئے کہ واعظ و ذا کر عالم سنی متدين ماہر اور عورتیں جا کر حسب آداب شرع بحضور قلب سمع میں مشغول رہیں اور حال مجلس سابق و لاحق و ذہاب و ایاب جملہ اوقات میں جمع منکرات و شناع مالوفہ و غیرہ مالوفہ معروفہ و غیرہ معروفہ سب سے تحفظ تام تحریز تمام اطمینان کافی و وافی ہوا اور سبحان اللہ کہاں تحریز اور کہاں اطمینان تو محارم کے یہاں بھینے میں اصلاح حرج نہیں ہے ا جانب فہذا امام استخیر اللہ تعالیٰ فیہ وجیز کروری میں فرمایا عورت کا وعظ سننے کو جانا لا باس بہے جس کا حاصل کراہت تنزیہی امام فخر الاسلام نے فرمایا وعظ کی طرف عورت کا خروج مطلقاً مکروہ جس کا اطلاق مفید کراہت تحریکی اور انصاف کیجئے تو عورت کا ستر کامل و حفظ شامل اپنے گھر کے پاس کی مسجد صلحاء میں محارم کے ساتھ تکبیر کے وقت جا کر نماز میں شریک ہونا اور سلام ہوتے ہی دو قدم رکھ کر گھر میں ہو جانا ہرگز قتنه کی گنجائشوں تو سیوں کا ویسا احتمال نہیں رکھتا جیسا غیر محلہ غیر جگہ بے میعت محرم مکان اجانب و احاطہ مقبوضہ اباعد میں جا کر مجمع ناقصات العقل والدین کے ساتھ مخلے بالطبع ہونا پھر اسے علانے بخلاف زماں مطلقاً منع فرمادیا با آنکہ صحیح حدیثوں میں اس سے ممانعت موجود اور حاضری عیدین پر تو یہاں تک تاکید اکید کہ حیض والیاں بھی لکھیں اگر چادر نہ رکھتی ہوں دوسری اپنی چادروں میں شریک کر لیں مصلے سے الگ بیٹھی خیرو دعا مسلمین کی برکت لیں تو یہ صورت اولیٰ بالمنع ہے شرع مطہر فقط ہی سے منع نہیں فرماتی بلکہ کلیتاں اس کا سد باب کرتی اور حیلہ و سیلہ شر کے یکسر پر کرتی ہے گھر تو غیروں کے گھر جہاں نہ اپنا قابو نہ اپنا گزر۔ حدیث میں تو اپنے

مکانوں کی نسبت آیا لا تسکنونهن الغرف۔ عورتوں کو بالا خانوں پر نہ رکھو یہ وہی طائرنگاہ کے پرکرنے میں شرع مطہر ہیں فرماتی کہ تم خاص لیسو سلمی پر بدگمانی کرو یا خاص زید و عمرو کے مکانوں کو مظہر فتنہ کہو یا خاص کسی جماعت زبان کو مجمع نابا یستنی بتاؤ مگر ساتھ ہی یہ بھی فرماتی ہے کہ ان من الخرم سوء الظن۔

گند دار داں شوخ در کیسہ در
کہ داند ہمہ خلق را کیسہ در

صالح و طالع کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا ظاہر ہزار جگہ خصوصاً اس زمن فتن میں باطن کے خلاف ہوتا ہے اور مطابق ہو تو صالحین و صالحات معصوم نہیں اور علم باطن و ادراک غیب کی طرف راہ کھاں اور سب سے درگز رے تو آج کل عامہ خاص خصوصاناء میں بڑا ہشراں ہوئی جوڑ لینا طوفان لگادینا ہے کا جل کی کوٹھری کے پاس ہی کیوں جائے کہ دھبا کھائے لا جرم سبیل یہی ہے کہ بالکل دریا جلا دیا جائے وہ سرہی ہم نہیں رکھتے جسے سودا ہو سامان کا

شرع مطہر حکیم ہے اور مومنین اور مومنات پر رووف و رحیم اس کی عادت کریمہ ہے کہ ایسے مواضع احتیاط میں ماہہ باس کے اندیشہ سے ملا باس بہ کو منع فرماتی ہے جب شراب حرام فرمائی اس صورت کے برتوں میں نبیذ ذالنی منع فرمادی جن میں شراب اٹھایا کرتے تھے زید کہے بارہا ایسے مجامع ہوتے ہیں کبھی فتنہ نہ ہوا جان برادر علاج واقعہ کیا بعد الوقوع چاہئے۔

ماکل مرہ تسلیم الجرة ہر بار سبوز چاہ سالم نزد

اکل و شرب وغیرہما کی صدھا صورتوں میں اطباء کھتے ہیں یہ مضر ہے اور لوگ ہزار بار کرتے ہیں طبیعت کی قوت ضد کی مقاومت تقدیر کی مساعدت کہ ضر نہیں ہوتا اس سے اس کا بے غالہ ہونا سمجھا جائے گا۔ خدا پناہ دے بری گھڑی کہہ کر نہیں آتی اجنبیوں سے علا کا ایجاد جا ب آخرا سد فتنہ کے لئے ہے پھر چند توفیق رفیق بندوں کے پچھا ماموں، حالہ، پچھوپی کے بیٹوں کنے بھر کے رشتہ داروں کے سامنے ہونے کا کیسا رواج ہے اور اللہ بچاتا ہے فتنہ نہیں ہوتا اس سے بدتر عام خدار ترس ہندیوں کے وہ بدلحاظی کے لباس آدھے سر کے بال اور کلاسیاں اور کچھ حصہ گلو و شکم و ساق کا کھلا رہنا تو کسی گنتی شمار ہی نہیں اور زیادہ بانکپن ہوا توڈ و پٹہ شانوں پر ڈھلکا ہوا کریب یا جالی باریک یا گھاس ململ کا جس سے سب بدن چمکے اور اس حالت کے ساتھ ان رشتہ داروں کے سامنے پھرنا بایں ہمہ ورووف رحیم حفظ فرماتا ہے فتنہ نہیں ہوتا ان اعضا کا ستر کیا بعینہ واجب تھا باشا بلکہ وہی منع وداعی و سد باب پھر اگر ہزار بار داعی نہ ہوئے تو کیا حکم حکمت باطل ہو جائیں گے شرع مطہر جب مظہر پر حکم دائر فرماتی ہے اصل علت پر اصلاح ارنہیں رکھتی وہ چاہے کبھی نہ ہو نفس مظہر پر حکم چلے گا فقیر کے پاس تو یہ ہے۔ اور جو اس سے بہتر جانتا ہو مجھے مطلع کرے بہر حال اس قدر یقینی کہ بھیجنے محتمل اور نہ بھیجنابا جماع جائز و بے خلل لہذا غفر اللہ تعالیٰ لہ کے نزدیک اسی پر عمل رہا واعظ و ذاکر وہ بشرطیکہ جس منکر پر اطلاع پائے حسب قدرت انکار وہدایت کرے ہر مجلس میں جا سکتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و عملہ جل مجده اتم واحکم

مسئلہ ۶ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ چاندی سونے کی گھریاں رکھنا یا سیم وزر کے چراغ میں بغرض اعمال کے فتیلہ روشن کرنا جس سے روشنی لینا کہ مقصود متعارف چراغ ہی مرا دنیں ہوتا بلکہ قوت عمل و سرعت اثر موکلات مقصود ہوتی ہے جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب دونوں ممنوع ہیں علامہ سید احمد طحطاوی حاشیہ درمختار میں فرماتے ہیں:

قال العلامة الروانى المنهى عنه استعمال الذهب و الفضة اذا الاصل فى هذا الباب قوله عليه الصلة والسلام
هذا حرام على امتى حل لناناتهم ولما بين ان المراد عن قوله حل لناناتهم ما يكون حل لهم بقى ماعداه على
حرمة سواء استعمل بالذات او بالواسطة اه اقر العلامة نوع وايده باطلاق الاحاديث الواردة في هذا الباب اه
ابو السعود و منه تعلم حرمة استعمال ظروف فناجين القهوة وال ساعات من الذهب و الفضة اه ملخصا
علام شامي رد المحتار میں ان تصریحات علامہ طحاوی کو ذکر کر کے فرماتے ہیں وہ ظاهر۔

الذى كله فضة يحرمه استعماله باى وجه كان كما قد مناه بلا مس بالجد ولذا حرم ايقاد العود فى مجرمة الفضة و مثله بالا ولئن ظروف فنجان القهوة والساعة وقدرة التباك التى يوضع فيها الماء وان لا يمسها بيده ولا يضمها لانه استعمال فيما صنعت له الخ

اور یہ عذر کہ چار غاستھ بار یعنی روشنی لینے کے لئے ہوتا ہے اور یہاں اس نیت سے مستعمل نہیں تو جواز چاہئے۔

لما في در المختار ان هذ اذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس والاكراف
مقبول ہے کہ اول اعنة تحقیق مطلق استعمال منوع ہے اگرچہ خلاف متعارف ہو لاطلاق الاحادیث والادلة کمام
کثورا پانی پینے کے لئے بنتا ہے اور رکابی کھانا کھانے کو پھر کوئی نہ کہے گا کہ چاندی سونے کے کٹورے میں پانی پینا یا اس کی رکابی میں
کھانا کھانا جائز ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

ما ذكره في الدار من اناطة الحرمة بالاستعمال فيما صنعت له عرفا فيه نظر فانه يقتضي انه لو شرب او اغتسل بانيته الدين او الطعام انه لا يحرم مع ان ذلك استعمال بلا شبهة داخل تحت اطلاق المتنون والادلة الواردة في ذلك الخ

ثانیاً اصحاب چراغ خانہ سے مقصود ہوتا ہے۔ یہ چراغ اس غرض کے لئے بناتی نہیں اور جس غرض کے لئے بناتا ہے اس میں استعمال قطعاً متحقق تو استعمال فيما صنع لہ موجود ہے اور حکم تحريم سے مضر مقصود ہاں اگر سونے کا ملمع یا چاندی کی قلعی کر لیں تو کچھ

اما التمویہ الذی لا يخلص فلا باس به بالاجماع لانه ستهلک فلا عبرة ببقاءه لونا انتہی. والله تعالیٰ
اعلم بالصواب والیہ المرجع والماب

مسئلہ ۷۴ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اکثر بلا وہند میں یہ رسم ہے کہ میت کے روز وفات سے اس کے اعزہ واقارب و احباب کی عورات اس کے یہاں جمع ہوتی ہیں اس اہتمام کے ساتھ جو شادی میں کیا جاتا ہے پھر کچھ دوسرے دن اکثر تیرے دن واپس آتی ہیں بعض چالیسویں تک بیٹھتی ہیں، اس مدت اقامت میں عورات کے کھانے پینے پان چھالیاں کا اہتمام اہل میت کرتے ہیں جس کے باعث ایک صرف کثیر کے زیر بار ہوتے ہیں اگر اس وقت ان کا ہاتھ خالی ہو تو قرض لیتے ہیں یوں نہ ملے تو سودی نکلواتے ہیں اگر نہ کریں تو مطعمون و بد نام ہوتے ہیں یہ شرعاً جائز ہے یا کیا؟ بینوا تو جروا

الجواب سبحان اللہ اے مسلمان یہ پوچھتا ہے یا کیا یوں پوچھ کہ یہ ناپاک رسم کتنے فتح اور شدید گناہوں سخت و شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے۔

او لا یہ عوت خود ناجائز و بدعت شیعہ و قبیحہ ہے امام احمد اپنے منداور ابن ماجہ سنن میں بہ سند صحیح حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی:

کنا نعد الاجتماع الى اهل الميت و صعهم الطعام من النياحة

ہم گروہ صحابہ اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرنے کو مردے کی نیاحت سے شمار کرتے تھے جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں ناطق امام محقق علی الاطلاق فتح القدر شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں:

یکرہ اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي الشرور وهي بدعة مستقبحة
اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنا منع ہے کہ شرع نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کغمی میں اور یہ بدعت شنیعہ ہے۔ اسی طرح علامہ شربن الالی نے مرافق الفلاح میں فرمایا:

ولفظ یکرہ الضيافة من اهل الميت لانها شرعت في السرور لافي الشرور وهي بدعة مسقبحة
فتاویٰ خلاصہ فتاویٰ سراجیہ و فتاویٰ ظہیریہ تاتارخانیہ اور ظہیریہ سے خزانۃ المحتفين کتاب الکراہیہ اور تاتارخانیہ سے فتاویٰ ہندیہ میں بالفاظ متقارب ہے:

وللفظ للسراجیہ لا يباح اتخاذ الضيافة عند ثلاثة ايام في المضيبيه او زاد في الخلاصۃ لان الضيافة يتخذ عند السرور

غمی میں تیرے دن کی دعوت جائز نہیں کہ دعوت تو خوشی میں ہوتی ہے۔ فتاویٰ امام قاضی خان کتاب الحظر والاباحة میں ہے:

يكره اخذ الضيافه فى ايام المصيبة لانها ايام تاسف فلا يليق بها ما يكون للسرور
غمی میں ضیافت منوع ہے کہ یا فسوس کے دن ہیں تو خوشی میں ہوتا ہے کہ لا چنہیں تمیں الحقائق امام زین العابدین میں ہے:

لاباس الجلوس المصيبة الى ثلث من غير ارتکاب مخظور من فرش البسط والا طعمة من اهل الميت
مصیبت کے لئے تین دن بیٹھنے میں کوئی مضاائقہ نہیں جب کہ کسی امر منوع کا ارتکاب نہ کیا جائے جیسے مکف فرش بچھانے اور میت والوں کی طرف کھانے۔ امام برازی وجیز میں فرماتے ہیں: يكره اتخاذ الطعام فى اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع
یعنی میت کے پہلے یا تیرے دن یا ہفتہ کے بعد جو کھانے تیار کرائے جاتے ہیں سب مکروہ و منوع ہیں۔ علامہ شامی رداختار میں
فرماتے ہیں۔ اطال ذلک فى المعراج وقال هذه الافعال كلها السمعة والرياء فيحترز عنها

یعنی معراج الدرايم شرح بدایہ نے اس مسئلہ میں بہت کلام طویل کیا اور فرمایا کہ یہ سب ناموری اور دکھاوے کے کام ہیں ان سے
احتراز کیا جائے۔ جامع الرموز آخر الکرامۃ میں ہے: يكره الجلوس لمصيبة ثلاثة ايام او اقل في المسجد ويكره
اتخاذ الضيافه في هذا لايام و كذا اكلها كما في خيرة الفتاوى

یعنی تین دن یا کم تعزیت لینے کے لئے مسجد میں بیٹھنا منع ہے اور ان دنوں میں ضیافت بھی منوع اور اس کا کھانا بھی منع جیسا کہ خیرۃ
الفتاوی میں تصریح کی فتاوی القروی اور واقعات المقتیین میں ہے: يكره اتخاذ الضيافه ثلاثة ايام و اكلها لانها
مشروعۃ اللسرور تین دن ضیافت اور اس کا کھانا مکروہ ہے کہ دعوت تو خوشی میں مشروع ہوتی ہے۔

کشف الغطا میں ہے: ”ضیافت نمودن اہل میت اہل تعزیت را پختن طعام برائے آنہا مکروہ است اب اتفاق روایات چایشان
را بسب اشتغال بمعصیت استعداد و تہیہ آں دشوار است۔“

اسی میں ہے ”پس انچہ متعارف شده از پختن اہل مصیبت طعام را ورسوم و قسم نمودن آں میاں اہل تعزیت و اقران غیر مباح
ونا مشروع است و تصریح کردہ بدال درخزانہ چہ شرعیت ضیافت نزد سرورست نہ زد شرور وہ لمشہور عندا لجھور۔“

ثانیاً غالباً ورشہ میں کوئی یتیم بچہ نابالغ ہوتا ہے یا بعض ورثاء موجود نہیں ہوتے نہ ان سے اس کا اذن لیا جاتا ہے جب تو یہ امر سخت
حرام شدید پر مخصوص ہوتا ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے۔

ان الذين يأكلون اموال اليتيم ظلماً انما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيراً (النساء : ١٠)

بیشک جو لوگ یتیموں کے مال ناقص کھاتے ہے بلاشبہ وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور قریب ہے کہ جہنم کے گھروں میں
جائیں گے۔

مال غیر میں بے اذن غیر تصرف خود نا جائز ہے قال اللہ تعالیٰ **لَا تَكُلُوا اموالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ** (النّاء ٢٩) حصوصاً نابع

کمال ضائع کرنا جس کا اختیار نہ خود اسے نہ اس کے باپ نہ اس کے وصی کو لان الولایہ للنظر للضرور علی الخصوص اگر ان میں کوئی یتیم ہو تو آفت سخت تر ہے اولیاً فدا بالله رب العالمین۔ ہاں اگر محتاجوں کے دینے کو کھانا پکوائیں تو حرج نہیں بلکہ خوب ہے بشرطیکہ یہ کوئی عاقل بالغ اپنے مال خاص سے کر لے یا ترکہ سے کریں تو سب وارث موجود بالغ و نابالغ راضی ہوں۔

خانیہ و بزاریہ و تمار خانیہ ہندیہ میں ہے: واللہ لفظ لہاتین ان اتخاذ طعاماً للفقراء کان حسناً اذا کانت الورثة بالغین

فان کان في الورثة صغير لم يتخذوا بذلك من التركة

نیز فتاویٰ قاضی خان میں ہے: ان اتخاذ دولی المیت طعاماً للفقراء کان حسناً الا ان یکون في الورثة صغير فلا
تیخذ من التركة

ثالثاً یہ عورتیں کہ جمع ہوتی ہیں افعال منکرہ کرتی ہیں مثلاً چلا کر روتا پینتا بناوٹ سے منہ ڈھانکنا ای غیر ذکر اور یہ سب نیاحت ہے اور نیاحت حرام ہے ایسے مجمع کے لئے میت کے عزیزوں دوستوں کو بھی جائز نہیں کہ کھانا بھیجیں کہ گناہ کی امداد ہو گی قال اللہ تعالیٰ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - نہ کہ اہل میت کا اهتمام طعام کرنا کہ سرے سے ناجائز ہے تو اس مجمع ناجائز کے لئے ناجائز تر ہو گا۔

کشف الغطا میں ہے: ”ساقین طعام در روز ثانی و ثالث برے اہل میت اگر نوح گرا جمع باشند مکروہ ست زیراً کہ اعانت ست ایشان را بر گناہ۔

رابعہ اکثر لوگوں کو اس رسم شنیع کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ تکلیف کرنا پڑتی ہے یہاں تک کہ میت والے بے چارے اپنے غم کو بھول کر اس آفت میں بنتا ہوتے ہیں کہ اس میلہ کے لئے کھانا پان چھالیاں کہاں سے لا میں اور بارہا ضررت قرض لینے کی پڑتی ہے ایسا تکلف شرع کو کسی امر مباح کے لئے بھی زنہار پسند نہیں نہ کہ ایک رسم منوع کے لئے پھر اس کے باعث جو وقتیں پڑتی ہیں خود ظاہر ہیں پھر اگر قرض سودی ملا تو حرام خالص ہو گیا اور معاذ اللہ لعنة اللہ سے پورا حصہ ملا کہ بے ضرورت شرعیہ سود دینا بھی سود لینے کے مثل باعث لعنت ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں فرمایا غرض اس رسم کی شاعت و ممانعت میں شک نہیں اللہ عزوجل مسلمانوں کو توفیق بخیث کہ قطعاً ایسی رسوم شنیعہ جن ان کے دین و دنیا کا ضرور ہے ترک کر دیں اور طعن بیہودہ کا لحاظ نہ کریں واللہ الہمادی۔

Quintlye اگر چہ صرف ایک دن یعنی پہلے ہی روز عزیزوں ہمسایوں کو مسنون ہے کہ اہل میت کیلئے اتنا کھانا پکوائے کہ بھی جسے وہ دو وقت کھائیں اور باصرار نہیں کھلائیں مگر یہ کھانا صرف اہل میت ہی کے قابل ہونا سنت ہے اس میلے کے لئے بھیجنے کا ہرگز حکم نہیں اور ان کے لئے بھی فقط روز اول کا حکم ہے آگے نہیں۔

کشف الغطا میں ہے: ”متحب ست خویشاں وہ سایہ ہائے میت را کہ اطعام کنند طعام را برابرے اہل و لے کے سیر لند ایسا را کیک
شبانہ روز الحج کنند تا بخورند و درخوردن غیر اہل میت ایں طعام را مشہور آئست کہ مکروہ ست اہ ملخصا۔

علمگیری میں ہے: حمل الطعام الى صاحب المصيبة والا کل معهم فى اليوم الاول جائز لتوغلm بالجهاز و
بعده يكره. كذا في التار خانيه

تبییہ قدارینالک قظافر القول وانما الواجب اتباع المنقول وان لم يظهر وجهه للعقل كما صرخ به العلماء
الفحول فكيف اذا كان هو المعقول ولا عبرة بالبحث مع نص ثبت فكيف مع النصوص وقد توافت لا نظر فيه
العلامة الفاضل ابراهيم الحلبي حيث اورد المسالة في اواخر الفنية عن فتح القدير وعن البزارية ثم قال ولا
يخلو عن نظر لانه لا دليل على الكراهة الا حديث جرير بن عبد الله المتقدم وانما يدل على كراهة ذلك
عند الموت فقط على انه قد عارضه مارواه الامام احمد بسند صحيح وابودائود (ای والبیهقی فی دلائل النبوة
کلہم) عن عاصم بن کلیب عن ابیه عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم
فی جنازة تذکر الحديث قال فلما رجع استقبله داعی امراته فجاء وجئی بالطعم فوضع يده و ضع لقوم فاکلوا
رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم یلوک لقمة فی فی الحديث. قال فهذا يدل على اباحة صنع اهل المیت
الطعم والدعاوة اليه اه مختصرنا وقد تکفل بالجواب عنه العلامہ الشامی فی رد المحتار فقال فیه نظر فانه واقعہ
حال لاعموم لها مع احتمال سبب خاص بخلاف ما فی حديث جریر علی انه بحث فی لمنقول فی مذهبنا و
مذهب غيرنا كالشافعیة والحنابلة استدلال بحديث المذکور علی الكراهة الخ۔

اقول ولم يتعرض لاعتراضه الاول لكونه اظهر سقوطا فاو لا نحن مقلدون لا منتقدون فما بآلنا بالدليل وعدم
جداننا لا يدل على العدم وثانيا ما ذکروا جميعا من انه انما شرع في السرور لا في الشرور كاف في الدليل و
ثالثا لا ادرى من این اخذ رحمه الله تعالى تخصيص افادۃ الكراهة فی الحديث بساعة الموت یعنی
الطعم فی اليوم الثاني والثالث ومثل صنعا من اهل المیت لاجل المجتمعین فی الماتم ام انما تحرم النياحة
عند الموت فقط لا بعده فان ارادا ان المعروف فی عهدهم كان هوا اجتماع والصنع عنده لا بعده طول بثبوته
وعلی تسليمه حققنا المناط كما افادوا فتذهب خصوصية الوقت ملغا هذَا ورأیتی كتبت على هامش رد
المحتار علی قوله واقعہ حال مانصه لان وقائع العین مظان الاحتمالات مثلا يمكن ههنا ان الدعوت كانت
موعدة بهذا لیوم من قبل واتفق فیه الموت فانقلت هل من دلیل علیه قلت من دلیل علی نفیه وانما الدلیل
عليکم لاعلینا فهذا هو النظر الرابع فی کلامه علا ان ضیافۃ الموت ضیافۃ تتخذ لاجل الموت و ضیافۃ

الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم تکن موقوفہ علی موت احد ولا حیاتہ فلو ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کما وقع عنہم مرارا فلم یکن فيه احداث شئی من اجل الموت بحیث لولم یقع الموت لم یکن بخلاف ما نحن فيه فانه انما یکون لاجله بحیث لولم. یکن لم یکن فھذا الخامس علان الخاطر والمیح اذا نقول بالماوپة بل يقدم الخاطر هذا السادس هذا ما عندی والعلم بالحق عند ربی وبالجملة فليس لنا البحث فی المنقول فی المذهب وهو النظر السابع المذکور اخر فی کلام الشامی والله تعالیٰ الموافق ۱۵

ما کتبت علیه مزید اواما المولی الفاضل علی القاری علیه الرحمۃ الباری فحاول تاویل نصوص المذهب ظنامنه انها تخالف الحديث فقال فی المرقاۃ شرح المشکوۃ باب المعجزات قبیل الكرامات تحت قول الحديث فاکلوا هذی الحديث بظاهره یرد علی ما قررہ اصحاب مذهبنا من انه یکرہ اتخاذ الطعام فی اليوم الاول او لثالث او بعد الاسبوع کما فی البزاری ثم اورد نصوص الخلاصہ والزیلیعی والفتح قال والکل عللہ بانه شرع فی السرور لا فی الشرور و ذکر قول المحقق حيث اطلق انها بدعة مستقبحة واستدلال له بحديث جریر رضی اللہ تعالیٰ عنه قال ان یقید کلامهم بنوع خاص من اجتماع یوجب استحیاء اهل بیت المیت فیطعمونهم کرها او یحمل علی کون بعض الورثہ صغیرا او غائبًا اولم یعرف رضاہ اولم یکن الطعام من عند احد معین من مال نفسه لان من مال المیت قبل قسمة و نحو ذلك و علیه یحمل قول قاضی خان یکرہ اتخاذ الضیافۃ فی ایام المصیبة لانها ایام تاسف فلا یلیق بها ما یکون للسرور اه اقول ولا قدنا ناک ان الحديث لا وروده علیهم بوجوه۔

وثانیا لا مساغ للتقید فی کلماتهم بعد مانقل هو عنهم جمعا عللہ بانه شرع فی السرور لا فی الشرور وان الامام فقيہ النفس قال انها ایام تاسف فلا یلیق بها عوائد التسروع فان الالجاء الى الطعام کرها او التصرف فی مال بغیر اذن مالکه واحدما لکه لا سیما الصغیر مما لا تجویز قط فی السرور ولا فی الشرور فی هذا یرتفع الفرق وهم مصرحون به عن اخوہم فیكون تحویلا لاتاویلا

وثالثا ما ذکر ثانیا من التقید بمال صغیرا او غائب الخ العدوا بعد و کیف یحل علیه کلام الخانیة من انه قال متصلًا بما مر و ان اخذ طعاما للفقراء کان اذا كانوا بالغیر فان کان فی الورثہ صغیر لم یتخدوا ذلك من الترکة اه مثله کلام البزاری والتار خانیه والهنڈیہ وغيرها فانه ظاهر فی انهم یضرقون بین الضیافۃ و اتخاذ طعام للفقراء فی حکمون علی الاول بالکراهة و علی الثاني بالحسن و یقید و نه بما اذا كانوا بالغین وقد صرحاوا بمفهوم القید بمنعه من الترکه اذا كانوا قاصرين فلو كانت الكراهة في الاول ايضا مقصورة على ذلك لا رفع الفرق۔

ورابعاً لوارد واهذا لكان من استعبد تظافرهم على التعبير لا بالكرامة فان الاتخاذو الحال هذا من اشنع المحرمات القطعية كما لا يخفى

وخامسالث سلمنا ما افاده في التاویل اول لكان الحكم في مسألتنا هذا هو الممنع مطلقاً فانهن يجتمعن عند اهل الميت ويکن في بيته يومین او اکثر والانسان يستحب ان يقيم احد ابنته جائعاً فيضطر الى اطعامه رضي او سخط وقد علم كما ذكر في السؤال انهم لم يفعلوا يصيروا عرضة لمطاعن الناس فليس الاطعام المعهوداً لا على الوجه المردود وهذا ما قال في معراج الدرایة انها كلها للسمعة والرياء كما قدمنا فهذا التخصيص يودي الى التعميم ولو راءى الفضلان الحلبی والقاری ما عليه بلادنا لا طلاق القول جازمين بالتحریم لا شکان في ترجیصه فتح باب لشیطان رجیم وایقاع المسلمين لاسیما اخفاء ذات في حرج عظیم وضيق الیم فنسال الله البات على الصراط المستقیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالیٰ علی سیدنا محمد والہ اجمعین۔

مسئلہ ۴۸ معرض۔ بعض کلمات کے احکام معلوم کرنا چاہتا ہوں امید کہ جواب سے جلد معزز ہوں۔

(۱) ایک سنی شخص کے سامنے ذکر آیا کہ شیعہ معتزلہ دارجت میں رویت باری عزوجل کے منکر ہیں ان صاحب نے کہا وہ حق کہتے ہیں انہیں تو نہیں ہو گئی شاید لفظ موتین کے لئے بھی ذکر میں تھا اگرچہ یہ ایک شبہ ہی شبہ سایاد پڑتا ہے یہ کہنا کیسا ہے ایک صاحب نے خود اپنا نام ابوالبرکات رکھا اس پر اب آزاد کا اور اضافہ کیا جس کی ایک وابی تباہی روایت چھپوا کہ تقسیم کی اس کی بابت ایک صاحب نے کہا کہ یہ نام انہوں نے کہاں سے رکھا کچھ اللہ میاں کے یہاں تو ان کا یہ نام لکھا ہوا ہے نہیں جس پر کہا گیا کہ اور محفوظ میں تو سب لکھا ہوا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے اس پر ان صاحب نے کہا میں نے میں نے اس بنا پر کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو نام ماں باپ رکھتے ہیں وہ نام اللہ میاں کے یہاں لکھا جاتا ہے ظاہر اُن قائل کا مطلب یہ تھا کہ نام کر کے وہ نام ہی لکھا جاتا ہے جو ماں باپ کا رکھا ہے اور جو خود گھرتے ہیں وہ بطور ایک امر واقع کے لکھا ہوتا ہے کہ فلاں اپنا نام یہ رکھے گا نام کر کے نہیں کہ فلاں کا یہ نام ہے غرض ان کا یہ مقولہ کیسا ہے اور اس کی اصل ہے کہ نام وہی ہوتا ہے جو ماں باپ کا رکھا ہونہ خود رکھا ہوا۔ ایک سنی صاحب کے سامنے میں نے کہا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خصائص ہیں بعض وہ احکام شرعیہ جو عام ہیں ان سے حضور نے بعض صحابہ کو منتشر کیا تھا اس پر ان صاحب نے کہا جسی تو بعض جہلا کہنے لگے تھے کہ اللہ عزوجل تو رضا جوئے محمدی ہے اس پر میں نے کہا کہ بعض جہلا کی کیا تخصیص ہے۔ اللہ عزوجل تو رضا جوئے محمدی ہے ہی انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا اور کہا کہ ایسے خصائص دیکھ کر شاید بعض ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم بھی یہ کہنے گئی تھیں مگر اصل بات یہ ہے کہ حضور اللہ عزوجل کے مرموڈہ سے باہر قدم ہی نہیں رکھتے تھے جو اللہ عزوجل کا حکم تھا تو اصل میں حضور تبعیح حکم الہی اور رضا جوئے الہی ہوئے ان کی اس وقت کی طرز تقریر اور حالت سے ان کا مطلب یہ معلوم ہوتا تھا کہ جہلا تو یہ سمجھ کر اللہ عزوجل کو رضا جوئے محمدی کہنے لگے تھے کہ حضور خود ایک حکم دیتے ہیں اور پھر اللہ عزوجل بھی ویسا ہی وحی نازل فرمادیتا

ہے یعنی اللہ عزوجل حضور کا اتباع فرماتا ہے حالانکہ اصل میں حکم الہی وہی ہوتا ہے اور اسی کے اتباع سے حضور حکم دیتے ہیں عرض ان کا یہ مقولہ کہ جبھی تو بعض جہلابھی الحج کا کیا حکم ہے اور اس کا کل مقولہ جو اس کے بعد کہا گیا۔ بعض لوگوں کا قاعدہ ہے کہ مثلاً کسی نے کہا فلاں کے گھر چوری ہوئی انہوں نے کہا اچھا ہوا چوری ہوئی پھر بعض دفعہ تو ظاہر کلام سے وہی مراد ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ مراد ہوتا ہے کہ چونکہ مثلاً مال رہنا مضر تھا یا اس کا انہیں غرور تھا لہذا اچھا ہوا کہ چوری ہوئی کہ غرور جاتا رہا مضر و فحص ہو گیا۔ دونوں تقدیروں پر یہ ممنوع چیز کو اچھا کہنا کیسا ہے ایک شخص سے کوئی کلمہ خلاف نکلا بعد کو اس نے اس سے صراحتا انکار اور اس کا فتح تسلیم کر لیا یا اس کو چھوڑ کر اس کے مخالف کلمہ کا اقرار کیا۔ آیا توبہ ہو گئی یا ضرور ہے کہ لفظ توبہ کہے۔ ہمارے اعزہ میں سے ایک عورت نے اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کہا کہ نہ معلوم تمہیں فلاں مکان (نام لے کر) سے کیا عشق ہے شوہرنے کہا خدا جانے اس پر اس عورت نے کہا کچھ بھی خدا جانے نہیں ہے اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہا جو شاید یہ تھا کہ سب تمہارے حیلے حوالے بیکاریاں بے پرواہیاں ہیں۔ یہ جملہ کیسا ہے اس کا کیا حکم ہے نقل اصولہ میرے پاس موجود ہے جواب سے جلد معزز ہوں۔

میرے لئے دعائے عافیت دارین ضرور فرمائیں اس زمانہ فتن میں مولیٰ تعالیٰ ہم اہل سنت کے ایمان کی خیر کھے آمین ثم آمین بجاہ
النبی الامین صلوات اللہ سلامہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔

الجواب مولیٰ عزوجل فرماتا ہے انا عند ظن عبدي بی۔ روافض معتزلہ کہ روئیت الہی سے مایوس ہیں مایوس ہی رہیں گے وہابیہ کہ شفاعت سے منکر ہیں محروم ہی رہیں گے تو ان کا انکار ان کے اعتبار سے صحیح ہوا ظاہر اقائل کی بھی مراد تھی کہ ان کی لفظی کے حق میں پھی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہاں جو اس کے قول کی تصدیق بمعنی لفظی مطلق کرے وہ ضرور گمراہ اور خارج ازاں سنت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) بلاشبہ لوح محفوظ میں ہر صیغہ و کبیر مستطر ہے جو اسم بحیثیت علم دنیا میں کسی کے لئے ہے لوح محفوظ میں وہی بحیثیت علم مکتبہ ہے خواہ ماں باپ کا رکھا ہے یا اپنایا اور کا۔ اور جس میں تغیر واقع ہوا مغیر الیہ دونوں اپنے اپنے زمانہ کی قید سے مکتبہ ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام تبدیل فرمائے کہ اگلے نام متروک ہو گئے اور وہ انہیں دوسرے ناموں سے روز قیامت پکارے جائیں گے اور جو شخص اپنا نام بدل کر اور کچھ رکھے اور بحیثیت علم معروف نہ ہو تو اللہ عزوجل کے یہاں بھی وہ علم ہو کر نہ لکھا گیا ہاں یہ واقع ضرور مکتبہ ہے ظاہر ایسی مراد۔ قائل نے یہ نہ کہا اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں لکھا ہے بلکہ یہ کہا کہ ان کا نام نہیں لکھا ہے تو یہ سلب کتابت نہیں بلکہ کتابت علمیت ہے اور یہ صحیح ہے جب کہ اس وضع کئے ہوئے نام نے حیثیت علمیت پیدا کی۔ ہاں ایسی جگہ کلام بہت ہوشیاری سے چاہئے جس میں کوئی پہلوئے ناقص نہ نکلے سوال میں اسم جلالت کے ساتھ لفظ میاں مکتبہ ہے یہ ممنوع و معیوب ہے زبان اردو میں میاں کے تین معنی ہیں جن میں دواں پر محال ہیں اور شرع سے ورونوں میں لہذا اس کا

اطلاق محمودیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) قائل کا کہنا کہ جبھی تو بعض جہلائج بہت سخت قبیح و شنیع واقع ہوا اور جو معنی اس نے بعد کو قرار دیئے اس میں بھی وہ حقیقت کو نہ پہنچا بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تابع مرضی الہی ہیں اور بلاشبہ کوئی بات اس کے خلاف حکم نہیں فرماتے اور بلاشبہ اللہ عزوجل حضور اقدس صلی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔

ولسوف يعطيك ربک فترضی (الاضحی ^۵) قدنری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضها

فول وجهك شطر المسجد الحرام (البقرة)

حکم الٰہی بیت القدس کی طرف استقبال کا تھا حضور تعالیٰ فرمان تھے یہ حضور کی طرف رضا جوئی الٰہی تھی مگر قلب اقدس استقبال کعبہ چاہتا تھا مولیٰ عزوجل نے مرضی مبارک کے لئے اپنا وہ حکم منسون خ فرمادیا اور جو حضور چاہتے تھے قیامت تک کے لئے وہی قبلہ مقرر فرمادیا یہ اللہ عزوجل کی طرف سے رضا جوئی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان میں سے جس کا انکار ہو قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المؤمنین صد یقین رضا اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں اوری ربک یسارع فی هولک۔ میں حضور کے رب کو دیکھتی ہوں کہ حضور کی خواہش میں شتابی فرماتا ہے۔ (رواه البخاری)

یہ ہے وہ کلمہ کہ بعض ازدواج مطہرات نے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ فرمایا تو قائل کا کہنا کہا ایسے خصائص دیکھ کر بعض ازدواج مطہرات یہ کہنے لگی تھیں دراصل بات یہ ہے کہ اخ یہ بتا رہا ہے کہ شاید ان بعض ازدواج مطہرات نے خلاف اصل بات کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر رکھی حدیث روز محشر میں ہے رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا: **کلهم يطلبون رضائی وانا اطلب رضاک يا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)**

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خداحا ہتا ہے رضا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

(۲) اس سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ سرقة اچھی بات ہے جس سے حرام قطعی کا احتلال بلکہ احسان ہو کر معاذ اللہ نوبت بہ کفر پہنچے بلکہ اس سے مسرور منہ کے نقصان مال کا احسان سمجھا جاتا ہے اور یہی مقصود ہوتا ہے پھر کبھی یہ براہ حسد ہوتا ہے اور حسد حرام ہے اس صورت میں تو مطلقاً گناہ ہے کبھی براہ عدالت ہوتا ہے کہ دشمن کا نقصان دشمن کو پسند آتا ہے اس کا حکم اس عدالت کا تابع رہے گا مذمومہ ہے یہ بھی فتح و مذموم ہے اگر عدالت محمودہ ہے جیسے کہ اعداء اللہ سے دشمنی تو اس میں بھی حرج نہیں۔

ربنا اشدد على قلوبهم واطمس على اموالهم

www.alahazrat.net
جب دعا سے ان کا نقصان چاہناروا ہے تو بعد وقوع اس پر خوش ہونا کیا یجاتا ہے کبھی وہ صورت ہوتی ہے جو سوال میں مذکور وہ اگر بہ نیت صحیح ہو غیر محظوظ کہ یہ اس کے نقصان پر خوش ہونا نہیں بلکہ لفظ پر۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۵) لفظ تو بہ نہ ضرورتہ کافی جو قول یہ یجا صادر ہوا تھا اس ندامت اور اس سے بدتری درکار ہے۔

السر بالسر و العلانية بالعلانية۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۶) قائلہ کا ہرگز یہ مقصود نہیں کہ باری عزوجل سے معاذ اللہ لفی علم کرے نہ زنہار اس کے کلام سے سامع کا ذہن اس طرف جا سکتا ہے بلکہ شوہرنے کہا تھا۔ خدا جانے یعنی کوئی سبب خفی ہے جو مجھے نہیں معلوم یا جسے میں بتانا نہیں چاہتا اس نے کہا کچھ بھی خدا جانے نہیں یعنی کچھ بھی سبب خفی نہیں مخفی تمہاری بے پرواہیاں ہیں اسے اس ہولناک حکم سے کوئی تعلق نہیں نیز یہاں ایک اور دلیقہ ہے بغرض غلط اگر لفی علم ہی مراد یہی تو معاذ اللہ لفی مطلق کی ہرگز بوجھی نہیں بلکہ اس امر خاص سے یعنی اس کا کوئی سبب خفی اللہ نہیں جانتا۔ اور علم الہی سے کسی شے کی لفی اس کے وقوع کی لفی ہے کہ واقع ہونا ہوتا تو ضرور علم میں ہوتا۔

فَكَانَ مِنْ بَابِ قُولِهِ تَعَالَى وَجْهُ اللَّهِ شَرِكَاءُ قَلْ سَمُوْهُمْ أَمْ تَبَيْنُوهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ

ہاں ارسال لسان ہے جس سے احتیاط درکار اور خود شوہر کے ساتھ بذبائی بھی تکفیرن العشیر میں داخل کرنے کو بس ہے تو بہ چاہئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ علی ہجۃ اتم واحکم

مسئلہ ۶۹ اگر سنت قائم بدعوت ماحی فتن لازالت شش افادہم طالعہ۔ پس از ہزار اسم سلام و تحییہ مدعا نگار کے اس مسئلہ کا جواب روانہ فرمایا جائے کہ بکر کا استاد خالد اب بد نہ ہب ہو گیا تو آیا بکر کو اس کی تعظیم بحیثیت استاد ہی کرنا چاہئے یا نہیں اگرچہ بکر بحیثیت بد عقیدگی اس اپنے استاد سے قطعاً محبت نہیں رکھتا ہے بلکہ بر سمجھتا ہے صرف ظاہری مدارات اور تعظیم کرتا ہے تو کچھ خرابی ہے یا نہیں۔ مدلل ارشاد ہو بکر کہتا ہے کہ مراد اب سبب بد نہ ہبی استاد کی ظاہری تعظیم کو بھی نہیں گوارا کرتا تو زید جو کہ بکر کا ہم نہ ہب ہے کہتا ہے کہ نہیں ظاہری تعظیم کر لیا کرو۔ بحیثیت استادی ہاں اس سے من حيث الاعتقاد نفرت رکھو۔ یہ قول زید کا کیسا ہے۔ زیادہ

ادب فقط

سید اولا درسول محمد میاں عفی عنہ قادری برکاتی مارہری

۲۲/ رجب المرجب روز جمعہ ۱۳۲۹ھ اہاز بداعیوں مدرسہ قادریہ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

بشرف ملاحظہ حضرت والا برکت صاحبزادہ رفع القدر جلیل الشان حضرت مولانا سید شاہ اولا درسول محمد میاں صاحب دامت برکاتہم بعد آداب گزارش۔ کرامت نامہ تشریف لایا بعد اس کے روندہ مخزوں میں بریلی بداعیوں سے پچاس سے زائد رسائل شائع ہوئے تعظیم بد نہ ہب ان کی شناخت آفتاب سے زیادہ روشن کر دی گئی یہاں تک کہ فتاوے الحرمین شائع ہو اب کوئی حاجت اس مسئلہ میں کسی تفصیل کا باقی نہ رہ گئی ہے جس کو شک ہے وہ ان رسائل اور فتاوے الحرمین کی طرف رجوع لائے وہ بھی عام بد نہ ہبوں کے لئے تھا نہ کہ خاص مرتدین ان کے لئے اسی قدر بس ہے کہ در مختار میں ہے۔ تبجیل الكافر کفر۔ والله تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵ کیا فرماتے ہیں حضرت اعلیٰ دین و مفتیان شرع متین ان مسائل میں:

- (۱) جملہ انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والصلیم قبل بعثت بہر حال عمداؤسہوأ کفروضلالت سے باجماع اہل سنت معصوم ہیں۔
- (۲) اسی طرح منفرت ذنوب و تصرفات امور سے باجماع۔
- (۳) اسی طرح بعد بعثت تمام صغار و کبائر سے عمداؤباجماع۔
- (۴) بعد بعثت تمام صغار و کبائر کے بارے میں سہوأ صدور کے بارے میں کیا حکم ہے۔
- (۵) قبل بعثت تمام صغار و کبائر کے عمداؤسہوأ صدور کے بارے میں کیا حکم ہے۔
- (۶) امور تبلیغہ میں کیا اجتماعی ہے اور کیا اخلاقی۔ بینوا تو جروا

الجواب

- (۱) بے شک۔
 - (۲) ہاں نہ صرف ذنوب بلکہ ہر اس امر سے جو باعث نفرت خلق و نگ عار و بدنا می ہو اگرچہ اپنا گناہ نہ ہو جیسے جنون و جذام و برص و دناءت نسب وزنا نے امہات و ازواج۔
 - (۳) بعد بعثت تعمد کبائر سے باکمال اہل سنت معصوم ہیں اور نہ ہب صحیح و حق و معتمد میں صغار سے بھی۔ اور خلاف ضعیف ایسے درجہ سقوط میں ہے کہ قابل اعتداؤ نہیں بلکہ انصاف اسیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے خلاف پر اجماع صحابہ تاریخی ہے مجوز نے اس نکتے سے غفلت کی لہذا اس کا قول نادانستہ مصارم اجماع واقع ہوا کما یاظہر بمطالعة الشفاء الشریف وبالله التوفیق
 - (۴) حق یہ ہے کہ بعد بعثت صدور کبیر اسے بھی معصوم ہیں اور سہوأ صغیرہ غیر منفرہ میں اکثر اہل ظاہر جانب تجویز ہیں اور جماعت اہل قلب جانب منع و اختارہ الامام ابن حجر المکی وغیرہ اور حق یہ کہ زراع صورت صغیرہ میں ہے ورنہ بحال سہو معنی و حقیقتاً نافرمانی خود ہی مرتفع ہے۔
 - (۵) کفروضلال و منفرات سے قبل بعثت بھی معصوم ہیں باقی میں اختلاف ہے اور اس قدر میں شک نہیں کہ وہ ہر عیب و ریب سے ہمیشہ منزہ ہیں یہ عصمت مصطلح اس وقت ثابت ہو یا نہ ہو۔
 - (۶) تبلیغ قولہ ہو یا فعلہ اس میں تعمد مخالفت سے بالارادہ معصوم ہیں اور اقوال تبلیغہ میں سہو دوخطا سے بھی۔ افعال تبلیغہ میں اختلاف ہے ظاہرا ولہ جواز ہے مگر اس پر تقریر ممکن نہیں۔
- بلکہ انتباہ واجب ہے۔ اور ایک جماعت صوفیہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلقہ سہوتا جائز مانتے ہیں اس قول کی تفصیل و تاویل فقیر کے الفیوض المکیہ میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۵۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسائل ذیل میں:

- (۱) کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا تلفظ یا طریقہ ذکر بطور مشائخ کرام سکھانے میں پہلے لفی مع منقی ادا کرنا اور پھر اس کی مفصل ضروری ترکیب ہر حرف ادا کرنے کی بتا کر پھر لا الہ ادا کرنا اور کسی ضرورت یا عذر کی وجہ سے مستثنی منہ میں وقف اور فصل سے ادا کرنے میں کوئی محذور شرعی تو نہیں۔
- (۲) اگر ضرورت حرف مستثنی منہ کے متعلق کچھ دریافت یا بتانے کی ہو تو اس میں حرف تلفظ لفی و منقی پر ہی اقتصار میں کوئی محذور شرعی ہے یا کیا۔ بینوا توجروا

الجواب حالت ضرورت مستثنی ہے اگر صرف مستثنی منہ تک پہنچا تھا کہ چھینک یا کھانی آنے یا سانس ٹوٹ جانے سے مجبوراً رکنا پڑا تو حرج نہیں معادل میں لا الہ کہے پھر بعد رفع عذر زبان سے لا الہ کہے اور بلا عذر مجبوری صرف مستثنی منہ پر اقتصار منوع ہے تعلیم طریقہ ذکر میں ایک ایک کلمہ جدا کرنے میں حرج نہیں مثلاً چار ضربی یوں بتائے کہ پیشانی مجازات زانوے چپ میں لا کرلا کلام شروع کرے اور اس کے الف کو زانوے راست تک کھینچ کر لے جائے اور الہ منہ پھیر کر کہے لا الہ کی ضرب قلب پر کرے اور اس میں کہیں لفی محض نہ آسکی بچوں کو تعلیم کرنی ہو تو اس میں بھی یونہی سکھائے کہ پہلے لا کہے جب وہ اسے کہہ لیں الہ کہے پھر ”الا لله“، کہلوائے اگر کسی مسئلہ کا بیان صرف لفی سے متعلق ہو تو وہ پورا کہہ کر بھی بیان ہو سکتا ہے مثلاً لا الہ الا الله میں لافی جنس کا ہے الہ اس ہے خبر مقدر ہے لا الہ اللہ میں لا کامد زیادہ نہ بڑھا و لا الہ میں الہ پر نہ رکویلا الہ الا اللہ میں الہ کی ہ کشا بن نہ کرو غرض مجبوری و ضرورت کوئی صورت ایسی نہیں معلوم ہوتی کہ خواہی نخواہی لفی پر اقتصار کرنا پڑے اور اگر ایسا معلوم ہو بھی مثلاً بچے کو دودو و لفظ تعلیم کرنے میں پہلے دلفظ کہہ کر اتنا انتظار کرنا ہو گا کہ وہ ان کو ادا کر لے پھر لا الہ کہا جائے (بشرطیکہ حاجت اس کی طرف داعی ہو ورنہ بچے سے بھی اس پر اقتصار کرنا نہ چاہئے) تو یوں کرے کہ تعلیم کی آواز سے دلفظ کہہ کر معا اس سے کم آواز سے لا الہ کہہ لے واللہ تعالیٰ اعلم۔

www.alahazrat.net مسئلہ ۵۶ کیا فرماتے ہیں علمائے دین مسائل ذیل میں کپڑے یا بدن پر کوئی حصہ نہیں ہو گیا اس پر پانی ڈالا اور اسی ہاتھ سے جس سے پہلی مرتبہ قطرے پوچھ ڈالے اسی طرح تین مرتبہ پانی ڈالا اور اسی ہاتھ سے جس سے پہلی مرتبہ قطرے پوچھے تھے اس کے دھوئے بغیر قطرے پوچھے تو آیا یہ عضو مغسول اور وہ ہاتھ دونوں پاک ہو جائیں گے بحالیکہ عضو مغسول کو وہ ہاتھ لگا ہے جس نے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ کے غسالہ کو پوچھا تھا اور خود الگ پانی سے دھویا نہ گیا تھا۔

(۲) اگر اس ترکیب سے پاک نہ ہو سکے تو کیا کیا جائے۔

(۳) بدن کو دھو کر جھنک دیا سب قطرے گرنے جو بال کی جڑ میں ہیں یا بہت ہی باریک ہیں جھنکے سے بھی نہیں گرتے تو ایسی صورت میں عضو تین بار دھو ڈالے پاک ہو جائے گا یا نہیں اگر نہیں تو کیا کرے خاص کر اس صورت میں جب دونوں ہاتھ نہیں ہوں۔

(۴) بدن پاک کرنے میں ہر بار کے دھونے میں تقاطر جاتا رہنا ضروری ہے یا مطلقاً ہر قطرہ کا خواہ وہ چھوٹا ہو اور پوچھنے سے صرف بدن پر پھیل کر رہ جاتا تو اس کا بھی دور کرنا یعنی وہی پھیلا دینا ضروری ہے۔ بینوا توجرو۔

الجواب بدن پاک کرنے میں نہ چھوٹے قطرے صاف کر کے دوبارہ دھونا ضرور نہ انقطاع تقاطر کا انتظار درکار بلکہ قطرات و تقاطر در کنار دھار کا موقوف ہونا لازم نہیں نجاست اگر مرئیہ ہو جب تو اس کے عین کا زوال مطلوب اگرچہ ایک ہی بار میں ہو جائے اور غیر مرئیہ ہو تو زوال کا غلبہ ظن جس کی تقدیر یتیحیث سے کی گئی جہاں عصر شرط ہے اور وہ معذز رہو جیسے مٹی کا گھڑایا متعز ہو جیسے بھاری قالین دری تو شک لحاف وہاں انقطاع تقاطر ذہاب تری کو قائم مقام عصر رکھا ہے۔ بدن میں عصر ہی درکار نہیں کہ ان کی حاجت ہو صرف تین بار پانی بہہ جانا چاہئے اگرچہ پہلی دھار بھی حصہ زیر یس پر باقی ہو مثلاً ساق پر نجاست غیر مرئیہ تھی اوپر سے پانی ایک بار بہایا وہ بھی ایڑی سے بہہ رہا ہے دوبارہ اوپر سے پھر بہایا ابھی اس کا سیلان نیچے باقی تھا سہ بارہ پھر بہایا جب یہ پانی اتر گیا تطہیر ہو گئی بلکہ ایک مذہب پر تو انقطاع تقاطر کا انتظار جائز نہیں اگر انتظار کرے گا تو طہارت نہ ہو گی کہ ان کے نزدیک تطہیر بدن میں عصر کی جگہ تو ای غسلات یعنی تینوں غسل پر درپے ہونا ضرور ہے مذہب ارجح میں اگرچہ اس کی ضرورت نہیں مگر خلاف سے بچنے کے لئے اس کی رعایت ضرور مناسب ہے اس تقریر سے تین سوال اخیر کا جواب ہو گیا۔

درختار میں ہے:

یطہر محل نجاست منیۃ بقلعها ای زوال عینها واثرها ولو بمرۃ او بما فوق ثلث فی الاصح ولا بضر بقاء
الر لازم و محل غیر مرئیہ بغلة ظن غاسل طهارة محلها بلا عدو به یفتی و قدر بغسل و عصر ثلث فيما
ینحصر مبالغاً بحیث لا یقطرو بنشرب النجاست والاف بقلعها

رواجتار میں ہے:

تثليث جفاف ای جفاف کل غسلة من الغسلات الثلاث وهذا شرط في غير البدن و نحوه اما فيه فيقوم مقامه توالى الغسل ثلثا قال في الحيلة الا ظهر ان کلا من التوالى والجفاف ليس بشرط فيه وقد صرح به في النوازل وفي الذخيرة ما يوافقه اه واقره في البحر

ربا سوال اول یہ تو ظاہر ہو گیا کہ ہر بار قطرات کا پونچھنا فضول تھا بلکہ بلا وجہ ہا تھنا پاک کر لینا مگر جب کہ اس نے ایسا کیا مثلاً پاؤں پر نجاست تھی سید ہے ہاتھ میں لوٹا لے کر اس پر ایک بار پانی بہایا اور جو قطرات باقی رہے باعیں ہاتھ سے پونچھ لئے تو یہ ہا تھنا پاک ہو گیا مگر ایسی نجاست سے کہ دوبارہ دھونے سے پاک ہو جائے گی اس لئے کہ ایک بار دھل چکی اب پاؤں پر دوبارہ پانی ڈالنا تھا دوسری بار کے بعد ایک ہی بار ڈالنا رہتا لیکن اس نے دوبارہ دھو کر نجس ہاتھ سے پھر اس کے قطرے پونچھے تو اب پاؤں کو وہ نجاست لگ گئی جو دوبارہ دھونے کی محتاج ہے تو پاؤں کو پھر دوبارہ دھونے کی ضرورت ہو گئی اور ہاتھ بدستور اسی نجاست سے نجس رہا اس میں تخفیف نہ ہوئی کہ اس پر سیلان آب نہ ہواب پاؤں پر سہ بارہ کا پانی دوبارہ کے حکم میں ہے کہ اس کے بعد ایک بار اور دھونے کی حاجت ہے لیکن اس نے اس کے بعد بھی وہی نجس ہاتھ اس کے قطرات صاف کرنے میں استعمال کیا تو اب پھر پاؤں کو دوبارہ دھونے کی ضرورت ہو گئی وہندہ الہذا اسے لازم کہ پاؤں پر دوبارہ پانی نہ بھائے اور قطرات نہ پونچھے اور ہو ہاتھ جدا دوبارہ دھو لے۔ رو المختار میں ہے:

قال في الامداد والمياه الثالثة متفاوة في النجاسة فلا لاولي يظهر ما اصابته بالغسل ثلثا والثانية بالثنين والثالثة بواحدة و كذلك الاولى الثالثة التي غسل فيها واحدة بعد واحدة و قيل يظهر الاناء الثالث بمجرد الارقة والثانى بواحدة والاول بثنين اه والله تعالى اعلم

مسئلہ ۵۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر ہلal شوال دن چڑھے تحقیق ہوا اور بارش شدید ہو بعض اہل شهر نماز عید پڑھ لیں بعض بسبب بارش نہ پڑھیں تو جماعت باقی ماندہ دوسرے دن ادا کریں یا اب انہیں اجازت نہ دی جائے گی کہ نماز ہو چکی اور قہستانی میں ہے۔ اوصیلی الامام صلاتہ مع بعض القوم لا یقضی من فات تلک الصلاۃ عنہ لافی اليوم الاول ولا من الغدا انتہی۔ بینوا توجروا

الجواب اللهم هداية الحق والصواب صورت مستقرہ میں جماعت باقی ماندہ بے شک دوسرے دن ادا کریں کہ نماز عید الفطر میں بوجہ عذر ایک دن کی تاخیر جائز ہے اور بارش کا عذر شرعاً مسموع في الدر المختار:

تخر بعذر كمطر الی الزوال من الغد فقط اه

اور صلاۃ العید میں جواز تعداً متفق علیہ ہے بخلاف جمعہ کہ اس میں خلاف ہے اور راجح جواز فی الدر المختار:

تودی بمصر واحد بمواضع كثيرة اتفاقاً اه

توادي بعض اہل شہر سے بعض دیگر کو دوسرا روز پڑھنا کیونکہ منوع ہو سکتا ہے کام قہستانی وغیرہ اس صورت میں ہے جب عامہ اہل بلد پڑھ لیں اور ایک آدمی باقی رہ جائے کہ نماز عید بے جماعت مشروع نہیں ناچار پڑھنے سے باز رہے گا ہدایہ کی تعطیل اس پر صاف دلیل: حیث قال من فاتحہ صلاة العید مع الامام لم يقضها لأن الصلة بهذا الصفة لم تعرف قربة الابشر ایضاً لاتتم بالمنفرد۔ اه

اس عبارت تنویر البصار مورث تنویر الابصار امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الغزی نے ابتداء اس مسئلہ کو ایسے پیرا یہ میں ادا فرمایا کہ وہم و اہم راہ نہ پائے۔ حیث یقول ولا يصلبها وحدہ ان فاتحہ مع الامام اه یو ہیں امام حافظ الدین ابو البرکات نقی کا اپنے متن و شرح وافی و کافی میں ارشاد ازالہ اوہام و ایقاظ افہام کے لئے کافی و وافی۔
قال رحمۃ اللہ تعالیٰ:

لم تقض ان فاتحہ مع الامام العید وفات من شخص فانه لا تقضی لأنها ما عرفت قربته الابفعله عليه الصلاة والسلام وما فعلها الا بالجماعة فلا تودی البتلك الصفة۔ اه۔ ملخصاً علامہ بدرا الدین محمود عینی رمز الحقائق میں فرماتے ہیں: صلاحاً الامام مع الجماعة ولم يصلبها هولاً یقضیه الافی الوقت ولا بعده لأنها شرعت بشرط لاتتم بالمنفرد۔ اه

متخلص میں زیر قول کنز لم تقض ان فاتحہ مع الامام لکھتے ہیں: معناه لو لم يصل رجل مع الامام لا یقضیها منفرد الان صلاة العید لم تشرع على سبيل الانفراد۔ اه

یا یہ معنی ہیں کہ امام معین ماذون من السلطان ادا کر چکا ہوا وران باقی ماندہ میں کوئی مامور نہیں تو اقامت کون کرے فاضل محقق حسن شربنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام مراثی الفلاح شرح نور الایضاح میں اسی طرف ناظر: اذ قال من فاتحہ الصلاة فلم يدر کھا مع الامام لا یقضیها لأنها لم تعرف قربته الا بشرط لاتتم بدون الامام ای السلطان او ما موره اه اسی لئے فاضل سید احمد مصری اس کے حاشیہ میں فرماتے ہیں: ای وقد صلبتها الامام او ما موره فان کان مامورا باقتمتها له ان یقیمه اه۔ قلت وقد یشیر اليه تعريف الامام في عبارۃ النقاۃ المذکورة وغيرها کمالاً یخفی على العارف باسالیب الكلام

بہر طور عبارت جامع الرموز سے بدیں وجہ کہ نماز ایک بار ہو چکی باقی ماندہ لوگوں کے لئے ممانعت تصور کرنا محض خطأ قول بلکہ اگر نظر

سلیم ہو تو وہی عبارت یعنیا ماحسن فیہ ہیں جواز پر دال کہ اس میں صرف دوسرے ہی دن کی نسبت ممانعت نہیں بلکہ جب امام جماعت کرچکے تو اس روز بھی نہ پانے والوں کو منع کرتے ہیں: حیث قال لافی الیوم ولا من الغد

اول بیان ہو چکا کہ تعدد جماعت نماز عید میں بالاتفاق جائز اور معلوم ہے کہ یہ تعدد تقدم و تأخر سے خالی نہیں ہوتا اگر عبارت شرح مختصر الوقایہ کے یہی معنی ہوتے کہ جب ایک جماعت پڑھ لے تو دوسروں کو مطلقاً اجازت نہیں تو یہ تعدد کیونکر روا ہوتا اور نماز عید کا بھی حکم اس امر میں اس کے مذهب پر جو تعدد جمعہ روانہ نہیں رکھتا مانند نماز جمعہ ہو جاتا ہے یعنی جماعت سابقہ کی تو نماز ہو گئی باقی سب

کی ناجائز کمانی در المختار: علی المرجوح فالجمعة لمن سبق تحريمها

توبالستین معنی کلام وہی ہیں جو ہم نے بیان کئے اور قاطع شعب یہ ہے کہ در مختار میں در صورت فوات مع الامام تصریح کی۔

لوامکنه الذهاب الى امام اخر فعل لانها تودی بمصر واحد الخ

حاشیہ طحا ویہ علی مراثی الفلاح میں ہے:

لوقدر بعد الفوات على ادراكها مع غيره فعل لالاتفاق على جواز تعددها۔ اه

ویکھوںص فرماتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے نہ پڑھی ہو دوسرے کے پیچھے پڑھے اور حالت عذر میں روز اول و دوم یکساں آج نہ پڑھ سکا تو کل کون مانع۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۵۴ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر بلا عذر نماز عید روز اول نہ پڑھیں تو روز دوم مع الکراہتہ جائز ہے جیسا کہ بعض خطبوں میں لکھا ہے یا اصلاح صحیح نہیں۔ بینوا توجروا۔

الجواب نماز عید القطر میں جو بوجہ عذر ایک دن کی تاخیر روا کھی ہے وہاں شرط عذر صرف لفظی کراہت کے لئے نہیں بلکہ اصل صحت کے لئے ہے یعنی اگر بلا عذر روز اول نہ پڑھی ہو تو روز دوم اصلاح صحیح نہیں نہ یہ کہ مع الکراہتہ جائز ہو یا عامہ معتبرات میں اس کی تصریح ہے مصنف خطبہ کہ شخص مجہول ہے قابل اعتماد نہیں اسے نماز عید الاضحی سے اشتباہ گزرا کہ و

للجواز حتى اخر وها الى الغد من غير عذر لا يجوزا ه وفي رمز الحقائق للعلامة العيني مثله وفي شرح النقاية للشمس القهستانى لو تركت بغير عذر سقطت كما في الخزانة اه وفي شرح المنية الكبير للعلامة الحلبي صلاة عيد الاضحى تجوز في اليوم الثاني والثالث سواء اخترت بعدر او بدونه اما صلاة الفطر فلا تجوز لا في الثاني بشرط حصول العذر في الاول اه وفي الفتاوى الخانية ان فاتت صلاة الفطر في اليوم الاول بعدر بغير عذر تصلى في اليوم الثاني وان فاتت بغير عذر فلا تصلى في اليوم الثاني فان فاتت في اليوم الثاني بعدر او بغير عذر لا تصلى بعد ذلك واما عيد الاضحى ان فاتت في اليوم الثاني بعدر او بغير عذر تصلى في اليوم الثالث فان فاتت في اليوم الثالث بعدر او بغير عذر لا تصلى بعد ذلك - اه

باجمل اس کا خلاف کتب متداولہ میں فقیر کی نظر سے کسی روایت ضعیفہ میں بھی نہ گزرا۔

اللهم الا مارايت فى جواهر الاخلاطى من قوله اذا فاتت صلوٰة عيد الفطر فى اليوم الاول بعدر او بغيره صلى فى اليوم الثانى ولم يصل بعده اه فيظن ان يكون خطاء من الناسخ وتحمل ان يكون خلطا من الاخلاطى فانى رايت له غير ما مسئلہ خالف فيها الكتب المعتمدة والامفار المعتبرة . والله سبحانه وتعالى اعلم .

مسئلہ ۵۵ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک جائد امصارف درگاہ بعض اولیاء اللہ کے لئے وقف ہے ہمیشہ اس کا تمام بندوبست و انتظام بدست متولیان والا مقام رہا اپنی جگہ دوسرے کو متولی کرنا بھی اکثر انہیں کی رائے پر رہا بعض متولیوں نے اپنے بعد تویت وصیت کی کہ موصی لہ برہنائے وصیت ان کے بعد متولی ہوا اور بعض نے اپنی حیات و حالت صحت ہی میں تویت اہل خاندان سے کسی دوسرے کو عطا کر دی کہ وہ ان کی صحت میں بجائے ان کی متولی ہو گیا غرض ہمیشہ اختیار ان امور کا بدست متولیان رہا اور عہد قدیم سے اب تک یو ہیں اختیارات عامہ انہیں حاصل رہے کہ کسی نے ان کے افعال سے تعرض یا ان کے تصرفات میں دست اندازی نہ کی اب اگر متولی حال اپنی حیات حالت صحت میں اپنی تویت کلایا بغضا کسی امین رشید کو منتقل کرے تو یہ انتقال جائز اور متولی مددوح کو اس کا اختیار حاصل ہے یا نہیں۔ بینوا توجروا

الجواب جب کہ صورت مسئلہ وہ ہے کہ سوال مذکور ہوئی تو بلال ریب متولی حال کو اپنی حیات و تدرستی میں نقل تویت کا اختیار حاصل اور جس امین رشید کو وہ متولی کرے بے شک مثل اس کے متولی ہو جائے گا تو نور الابصار:

اراد المتولی اقامۃ غیرہ اقامۃ فی حیاته ان کان التفویض له عاماً صح ولا لا وفي الہندیۃ عن المحيط اذا اراد المتولی ان یقيم غیرہ مقام نفسه فی حیاته و صحته لا يجوزا لا اذا كان التفویض اليه على سبيل التعمیم انتهى
قلت وتقریر السوال صريح في عموم الخيار الناشئ عن تعميم التفويض وفي المقام عند تدقيق النظر
تنكشف غوامض لا تقاد تخفي على الفقيه والله سبحانه وتعالى اعلم و علمه جل مجده اتم

کتبہ

عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی عفی عنہ

بمحمد بن المصطفیٰ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم

صورت مسئولہ بلکہ تمام صوراً واقعات میں از روئے قواعد فقہیہ کے اولاً لحاظ شرائط واقع کا تولیت وغیرہ میں اور نیز مصالح قضاء و حکام اسلام کا ضرور تھا اور در صورت نہ ہونے امر سابق کے تعامل قدیم از قدیم کا اعتبار بغیر عرف حادث کے پس اگر قدیم سے تفویض تولیت کی رائے متصرفین اوقات پر بصورت تعمیم ثابت ہو پس بے شک وہ جائز ہے جیسا کہ سوال سے ظاہر ہے۔ حررہ الفقیر عبد القادر عفی عنہ۔ (حاشیہ متعلق مسئلہ نمبر ۵۵) فتویٰ بدایوں

سوال در صورت کہ جائدادی وقف برائے خانقاہ و زیارت و مسجد و درگاہ متعلق آستانہ بزرگے از بزرگان دین از قدیم جاری است و عمل معمول متولیاں سابق برہمنیں است کہ ازاولاد آں بزرگ و شخص یا زیادہ ازاں متولی می شوند بناء علیہ یکے از متولیاں کہ وفات یافتہ در حالت حیات خود برائے تولیت وقف مقبوضہ خود پسرو پسرو دیگر متوفی خود بالمناصفہ بطور وصیت در تولیت شریک فرمودہ پس ایں وصیت صحیح است یا باطل۔

الجواب در صورت مسئول موافق معمول سابق وصیت مذکورہ برائے شرکت در تولیت بالمناصفہ جائے پسرو پسرو پسرو متوفی سابق صحیح است کہ مسئلہ ینظر فی الوقف الی العهود السابق بین المسلمين۔ در کتب فقر راجحہ وغیرہ مصرح است و وصیت کہ برائے وارث مطلقاً باطل است و برائے غیر وارث وزیادہ از شش باطل است مراد ازاں وصیت در متزوکہ مملوکہ موصی است و انہم از رضا مندی و رشیح میگرد کہ حق جملہ وارثان متوفی است و پس کما ہو مصرح فی کتب الفقہ والله تعالیٰ اعلم بالصواب۔ حررہ الفقیر الحنفی عبد القادر عفی عنہ۔

ما ذکرہ جناب الحبیب فلا شک اذ فیہ مصیب والله اعلم

عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی عفی عنہ

محمد بن المصطفیٰ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم

(نحوی فرنگی محل) ہر چند کہ پسرو پسرو وقت وجود پسرو از تر کہ میت محروم الارث است مگر شرکتش در وصیت تولیت درست است ہرگاہ متولی تولیت پسرو شخص کرده و پسرو پسرو را ہم شریک کرده وصیت او نافذ خواهد بود موافق وصیت نامہ مرقوہ متوفی تقلیل کرده خواهد شد الشی المفوض لاثین لا یملکه احدہما کالوا کیلین و الوصیین والناظرین کذا فی الاشباء والله تعالیٰ اعلم حررہ الراجی حضور ربیع القوی ابو الحسنات محمد عبد الحجی تجاوز اللہ عن ذنبہ الحبیب والحنفی

مسئلہ ۵۶ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بزرگان دین قدس اللہ تعالیٰ اسراءہم اجمعیں سے ایک بزرگ نے کہ اپنے آبائے کرام کے سجادہ نشین اور جائد و قفیہ درگاہ خانقاہ کے متولی تھے بنام اپنے صاحبزادہ حامد اور نبیرہ احمد بن محمد کے وصیت فرمائی کہ بعد میرے متوفی تمام جائد و مصارف درگاہ خانقاہ اور جملہ امور متعلقہ ریاست درگاہی میں شریک مساوی رہیں اور احمد بن نبیرہ میرا باتفاق اپنے عالم مکرم کے تصرفات تویلت عمل لائے۔ بعد انتقال بزرگ موصوف احمد و حامد دونوں نے اس کو قبول و معتبر رکھا لیکن بعد چند روز کے حامد نے تنہا اپنی تویلت چاہی اور احمد کے ساتھ اتفاق پسند نہ کیا ازانجا کہ احمد بن محمد کو حامد کے ساتھ اظہار منازعت منظور نہیں ہے اب نظر حفظ حقوق و رعایت مصالح احمد بن محمد کو حامد کے ساتھ کہ اپنی حیات میں تویلت اپنی کلایا بعض امام ایسے شخص راشد امین کے منتقل کرے کہ حامد کو استقلال بالتصرف سے مانع آئے اور اخراج حقوق شرعیہ کر سکے آیا یہ انتقال احمد کو جائز اور شرط اتفاق کہ وصیت میں مذکور اس کو مانع اور اس فعل میں غرض موصی و حکم وصیت سے عدول ہے یا نہیں۔

بیسو اتو جروا

الجواب متولی اوقاف کا اپنی حیات و عالم صحت میں نقل تویلت کرنا اور دوسرے کو بجائے اپنے نہ بطریق توکیل بلکہ علی وجہ الاستقلال قائم کر دینا صرف اس صورت میں روا کہ اس کے لئے تفویض عام و اختیار تم ثابت ہو ورنہ نہیں۔

تعمیر الابصار میں ہے: اراد المตولی اقامۃ غیرہ مقامہ فی حیاته ان کان التفویض له عاماً صح ولا لا
پس اگر احمد بن محمد کے لئے تفویض عام حاصل ہے تو بے شک اسے نقل تویلت پہنچتا ہے اور جسے وہ اپنی جگہ متولی کر دے گا تمام تصرفات قوامت میں مثل اس کے نفس کے ہو جائے گا اور اس پر بھی یہی واجب ہو گا کہ باتفاق حامد تصرفات کرے کہ جب وقف واحد پر دو متولی ہوں ان میں کسی کو تنہا تصرف کا اختیار نہیں ہوتا اور بیع و اجارہ و امثال ذلک جو تصرف ایک تنہا کرے گا دوسرے کی اجازت پر موقوف رہیں گے اگر اجازت نہ دے گا باطل ہو جائیں گے اور یہ حکم ایک کے ساتھ مختص نہیں دو ہوں تو دو تین ہوں تو تین جس قدر ہوں ہر واحد استقلال بالصرف سے شرعاً ممنوع اور اتفاق باہمی سب پر لازم ہتھی۔ والمسئلہ مصرح بہا فی عامة المتون والشروح والفتاوی۔ والفضل خیر الدین الرملی اکثر ایراد لہا فی فتاواہ۔ وقال العلامہ زین بن نجم

المصری فی وکالت الاشباء الشئی مفوض الی اثنین لا یملکه احدهما کالو کیلین والوصیین والنااظرین الخ
پس بزرگ موصوف نے کہ احمد بن محمد پر اپنے وصیت نامہ میں حامد کے ساتھ اتفاق شرط کیا ہے شرط جہت شرع سے خود لازم تھا اس شرط نے کسی امر زائد کا ایجاد نہ کیا اور اسی طرح شرع مطہر حامد پر فرض کرتی ہے کہ باتفاق احمد کام کرے اور ان میں کوئی مستقل بتولیت و منفرد بصرف نہ رہے کما ذکرنا لیکن اس لزوم شرطی و وجوب شرعی سے وہ اختیار کہ احمد بن محمد کو تفویض عام سے حاصل ہوا تھا زائل نہیں ہو سکتا۔ فان الشئی لا یتضمن الطال مالا ینافیہ۔ ہم کہتے ہیں حامد کو تویلت ثابت احمد کو ناروار کھنا اور اس کے

www.alahazrat.net ساتھ اتفاق کو کہ شرطانہ سبی شرعاً فرض تھا پسند نہ کرنا اور اسے تحصیل حقوق شرعیہ سے منع آنا کسی کی جانب سے تعدی ہے لا جرم ہے گا احمد بلا جرم ہے اب ہم پوچھتے ہیں پھر حامد کے ترک اتفاق سے احمد کی تولیت باطل ہو گئی لا جرم کے گا نہیں۔

ولقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لا یجتی جان الا علی نفسہ. وقال ربنا تبارک و تعالیٰ ولا تزروا زرہ وزر اخری اب ہم دریافت کرتے ہیں تولیت مسلم اگر تفویض عام کہ احمد کے لئے ثابت تھی اس نااتفاقی حامد سے زائل ہو گئی لا جرم کہے گا نہیں اور ہاں کہئے تو دلیل کہاں و مکن اوئی ہیں افعليہ البرہان پس جب کہ احمد بدمستور متولی صحیح و ماذون عام ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ اس تصرف سے مجوز اور نقل تولیت سے منوع رکھا جاتا ہے مگر تعدی غیر بھی اسباب مجرم سے شمار کی جائے گی علمتن و شرح فتاویٰ میں جہاں مسئلہ نقل تولیت لکھتے ہیں تفویض عام کے سوا دوسرا شرط ذکر نہیں کرتے پھر ہمیں اپنی جانب سے احادیث قید کب رو اگر یہ کہئے کہ متولی منقول الیہ حامد سے اتفاق نہ کرے گا اور شرط تولیت اتفاق ہے تو نقل صحیح نہ ہو گی قلنا اب بھی تو حامد و احمد متفق نہیں جب باوجود اس کے یہ دونوں بدمستور متولی ہیں تو اگر ان دونوں میں ایک کے عوض شخص ثالث آجائے تو سوا شخص کے اور بھی کچھ بدلا اس کی تولیت کیونکر صحیح نہ ہو گی ظاہر امنشاء اعتراض یہ ہے کہ بزرگ موصوف نے جوان دونوں کے نام و صیت تولیت کی اس نے انہیں دو کو پسند فرمایا اور اس کا مقصود یہی تھا کہ ازم تصرفات انہیں دو کے ہاتھ رہیں تیراماً خلت نہ کرے جب باوجود بقاء صلاحیت ہر دو ایک کے عوض شخص ثالث قائم کیا جاتا ہے تو یہ غرض موصی کے خلاف اور حکم و صیت سے سرتاہی ہے قلنا موصی مقیم شرع کو رعایت مصالح وقف رعایت و صین سے بالضرورت اہم اقدم ہو گی اور اس نے دو کے لئے وصیت نہ کی مگر اس لئے کہ اشتراک آراء کو وقف کے لئے اصلاح و انسحاق سمجھا اور ایک کی رائے پر راضی نہ ہو۔

اوی العقود الدریۃ مقصودہ اجتماع رائی شخصین فی تعاطی امور الوقف ولیس رائی الواحد کرای الاثین اب کہ حامد احمد بن محمد کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا غرض موصی و مقصود وصیت کے خلاف اس کی طرف منسوب ہو گا نہ کہ احمد کی جانب بلکہ احمد اس نقل تولیت سے تحصیل غرض اہم میں ساعی ہے کہ خود بمحاظ مصالح خاصہ حامد سے منازعہ نہیں چاہتا لہذا ایسے شخص کو متولی کرتا ہے کہ اس غرض اہم کو متروک و زائل اور حامد کو تصرف میں مستبد و مستقل نہ ہونے دے اور اخراج حقوق شرعیہ کر سکے یہ معنی یعنی تمثیل مقصود اعلیٰ و مرام اس نے ہے نہ اس کے نافی و منافی کم الایخفی با الجملہ بر تقدیر بثبوت تفویض عام حامد کا اتفاق سے دست کش ہونا احتیارات احمد کا ازالہ نہیں کر سکتا اور صرف اس وجہ بے اصل سے عدم جواز نقل پرقل و عقل سے کوئی دلیل قائم نہیں بلکہ دلیل اس کے خلاف پرناطق والله عالم بجمع الحقائق صلی اللہ علی النبی الصدق الصادق سیدنا محمد فضل الخلاق علی آلہ وصحبہ الذین جہم جدیدہ السلام وجہۃ البواق۔

مسئلہ ۵۷ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل ذیل میں:

- (۱) ایک مسلم جو نماز خلاف معمول بہت جلدی سے پڑھ لیتا ہے اس کو زجر ایک اور مسلم نے کہا تو نے نماز کو کوئی کھیل سمجھ رکھا ہے اس پر ایک دوسرے نے کہا اور کیا بظاہر اس نے بھی زجر اکہا اس کا کیا حکم ہے؟
- (۲) کافر مرتد مبتدع بد مذہب فاسق یا اس کو جس کا ان جیسا ہونا قائل کے نزدیک متعدد ہو کوئی رشتہ مثل باپ دادا نا، بیٹا بھائی وغیرہ خود لینا کہنا کسی اور مسلم کا کہنا حالانکہ ان کو کافر مرتد وغیرہ جیسے ہیں ویسا ہی مانے یہ کیا ہے یا ایسے لوگوں کا بتدا سلام کہنا یا ان سے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہنسنا بولنا ایسی دوستی رکھنا جیسے دنیا دار ہنسنے بولنے کے کئے رکھتے ہیں اور اسی سلسلہ میں انہیں تحائف روانہ کرنا یا ان کی ایسی تعظیم کرنا کہ وہ آئیں تو کھڑے ہو گئے یا تحریر اتفیر ای انہیں عنایت فرمایا کرم فرمایا مشق مہربان یا جناب صاحب لکھنا یا اسی طرح کے اور برتاؤ ان سے برتنا جیسے آج کل کثرت سے شائع ہیں خصوصاً ایسوں میں کے دنیاوی باش روگوں سے اگرچہ مذہبی نقطہ نظر سے انہیں ان کے لائق فتح ہی سمجھیں جائز ہیں یا ناجائز تو کس درجہ کے اور اگر یہ باتیں کسی دینی یا دنیاوی جائز غرض کے حصول کے لئے کریں تو کیا حکم ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ایسے لوگوں سے ایسا برتاؤ جس سے وہ خوش ہوں یا اس میں اپنی تعظیم جانیں اگرچہ فاعل کی نیت اس تعظیم یا خوش کرنے کی ہو یا نہ ہو کہاں تک اس حد تک نہیں پہنچا کہ فاعل پر بھی خود ان کی طرح حکم کفر یا بدعت وغیرہ کا عائد ہو۔
- (۳) بعض لوگ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العالی العظیم پورا نہیں پڑھتے بلکہ عبد الحاجۃ جب پڑھتے ہیں صرف لا حoul ولا قوۃ پر بے وجہ اقتصار کرتے ہیں یہ اگرچہ سخت فتح و شفیع ہے مگر اس میں کفر کسی طرح کا بھی نہیں یا کیا اس پورے جملہ کا علم صرف جرنا ول مدخول نہیں مقرر کرنا کہنا کیسا ہے۔
- (۴) نصاریٰ وغیرہ کی کچھ یوں اور ان احکام، آج کل کے زمانہ والوں کو عدالت یا عادل کہنا اگرچہ سخت حرام ہے اور فقہاء نے حکم کفر تک فرمایا اس سے احتراز ضرور ہے مگر دریافت طلب یا امر ہے کہ یہ حکم کفر مسئلہ مفتی بہا ہے کہ ایسے استعمال کرنے والے کافر ہو جائیں اور اگر ہے تو کیا قطعی کفر ان پر عائد ہے اور قطعی بھی ایسا کہ جو دوسرا نہیں کافرنہ سمجھے اس کے بھی ایمان میں خلل آجائے۔
- (۵) کاتب جو اجرت پر کتابت کرتے اور کتابت میں امر خلاف دین ہو اور اجرت پر چھاپنے شائع کرنے والے اس کو شائع کریں یا کوئی شخص بے اجرت مخفی مردوں سے ایسا کرے تو اس کا کیا حکم ہے یا کوئی شخص صفائی خط کے لئے کوئی قطعہ وغیرہ لکھے اور اس میں ایسے کلمات بھی نقل کر جائے یا ان سب صور میں زبان سے پڑھے تو کیا حکم ہے؟ بینوا تو جروا

جواب

- (۱) اور کیا کچھ کہنے والے پر بھی الزام نہیں جب کہ اسے بھی اس سارق نماز پر زجر مقصود ہو۔

www.alahazrat.net

(۲) ان لوگوں کو بے ضرورت و مجبوری ابتداء سلام حرام اور بلا وجہ شرعی ان سے مخالفت اور ظاہری ملاطفت بھی حرام قرآن تھیم میں قعود معمم سے نہیں صریح موجود اور حدیث میں ان سے بخندہ پیشانی ملنے پر قلب سے نور ایمان کل جانے کی وعید افعال تقطیعیں مثل قیام تو اور سخت تر ہیں یو ہیں کلمات مدح حدیث میں ہے۔ اذا مدح الفاسق غضب الرب و اهتز له عرش الرحمن

دوسری حدیث میں ہے: لاتقولو اللمنافق يا سید فانه ان يك سید کم فقد اسخطتم ربکم عزو جل باقی دنیوی مراسم جن میں تعظیم و احتلاط نہ ہوان میں فاسق کا حکم آسان ہے مصالح دینیہ پر نظر کی جائے گی اور مرتد و متبدع سے بالکل ممانعت اور ضرورات شرعیہ ہر جگہ مستثنی: فان الضرورات تبيح المخطورات

رشتہ بتانے میں مطلقاً حرج نہیں جیسے عمر بن الخطاب علی بن ابی طالب، مع ان الخطاب و اباظاب لم یسلمها ان کے ساتھ بر تاؤ قولًا و فعلًا منوع ہے بے ضرورت اس کا مرتكب عاصی ہے ان کا مثل نہیں جب تک ان کے کفر و بدعت و فتن کو اچھایا جائز نہ جانے۔

(۳) عند الحاجت صرف لاحول ولا قوة پر اقتدار قیمی ہے کفر سے کوئی علاقہ نہیں کہ اپنے حول و قوہ کی نفی کے لئے ہے علم صرف لاحول کہنا حرج نہیں رکھتا۔

(۴) عدالت بطور علم راجح ہے معنی وضعی مقصود نہیں ہوتے لہذا تکفیر نامکن البتہ عادل کہنا ضرور ہے۔ کلمہ کفر ہے مگر محض برائے خوشامد ہوتا ہے لہذا تجدید اسلام و نکاح کافی ہاں خلاف ما انزل کو اعتقاد اعدل جانیں تو قطعی وہی کفر ہے کہ من شک فی کفرہ فقد کفر۔

(۵) القلم احد اللسانین جوز بان سے کہنے پر احکام ہیں وہی قلم پر اور ایسی اجرت حرام اس کی اشاعت حرام اور ایسی مردوت فی النار ہاں جب اعتقاد نہ ہو تو کفر نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۵۸ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ داستان امیر حمزہ میں جو عمر و عیار کا ذکر ہے یہ عمر و کون ہیں اور ان کی نسبت اس لفظ کا اطلاق کیسا ہے؟ بینوا و توجروا

الجواب سیدنا عمرو بن امية ضمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السلام جمعیں سے ہیں فیض نے جب داستان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزہا اس میں جہاں صد ہا کارنا شاہستہ و اطوارنا بائستہ مثلاً مہر زگار دختر نو شیر و ان پر فریفۃ ہو کر راتوں کو اس کے محل پر کنڈڑاں کر جانا اور معاذ اللہ صحبتیں گرم رکھنا عم کرم حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسد اللہ و اسد رسولہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف نسبت کہنے یو ہیں ہزار ہا شہد پن اور مسخرگی کے بیہودہ جتنی ان صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کر دیئے اور انہیں معاذ اللہ عیار زور و طرار کے لقب دے کر بخیلہ داستان جاہل بے چارے تبرائی بنائے یہ اس مرد کی

نپاک بیبا کی اور خدا و رسول پر سخت جراءت تھی مسلمانوں کو ان شیطانی قصوں خصوصاً ان ناپاک لفظوں سے احتراز لازم ہے۔
واللہ سمجھنے و تعالیٰ اعلم۔

تمدیدیق بدایوں: اللہ درا الحبیب ما حسنة من ناطق بالحق مصیب و اعلم اللہ حررہ المفتر ای اللہ المد عو عبد المقدیر عفی عنہ۔

مسئلہ ۵۹ مولانا المعظم والمحترم دامت برکاتہم العالیہ۔ پس از آداب و تسلیمات معروض۔ اخبار محض جو شہادت میں نامقبول ہے۔ اسی کے معنی اردو میں کیا ہیں اور شہادت شرعیہ کے کہتے ہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب کسی بات کی خبر ان لفظوں سے دینی جو کسی ایسے لفظ سے خالی ہوں جس کا ہونا شریعت مطہرہ نے اس معاملہ کی شہادت میں ضروری رکھا ہے اخبار محض ہے مثلاً یہ کہنا فلاں جگہ چاند ہوا یا آج چاند لوگوں نے دیکھا اخبار محض ہے کہ رمضان مبارک میں بھی معتبر نہیں اور عیدین میں بے لفظ اشہد یہ کہنا بھی کہ میں نے چاند دیکھا اخبار محض ہے ہر امر میں جتنی شرطیں شریعت نے اس پر صحبت شہادت کے لئے رکھی ہیں جو شہادت ان کی جامعہ ہو شرعیہ ہے مثلاً زنا میں تین ثقہ عادل مردوں کی شہادت شہادت شرعیہ نہیں ہلال عیدین میں ایک ثقہ عادل کی شہادت شرعیہ نہیں، رمضان مبارک میں وسیں ہندو ہابیہ روان فض نیچریہ قادیانیہ و ام الشام کا ہزار حلقوں کے ساتھ شہادت دینا کہ آج ہم نے اس مہینہ کا ہلال دیکھا شہادت شرعیہ نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۰ شہادت کی دو صورتیں جن میں بلطف اشہد شہادت دینا ضرور ہے تو کیا خاص یہی لفظ ہو یا اس کا صرف اردو فارسی وغیرہ کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں شہادت دیتا ہوں یا گواہی دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ بینوا تو جروا

الجواب ترجمہ بھی کافی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۶۱ روزہ دار سے مجبوراً کراہ شرعی کر کے کسی نے جماع کیا یا کرایا تو روزہ صرف قضا کرے یا مُعْكَارَه یا کیا؟
بینوا تو جروا

الجواب صرف قضا ہے۔ اقول اور یہاں اکراہ شرعی کے صرف وہ معنی نہیں کہ قادر کی طرف سے مثلاً قتل یا قطع وغیرہ کی وعید و تحویف ہو جس کا ذکر کتاب الکراہ میں ہے بلکہ مجرد بے اختیاری بھی مسقط کفارہ ہے اسکی صورت عورت میں ظاہر کہ وہ کمزور ہے پکڑ کر زبردستی علاج کر دیا مرد میں اس کی شکل یہ ہے کہ مریض ہے جبکہ کی طاقت نہیں قرب زن سے اس کے آہ کو انتشار ہوا کہ وہ امر طبعی ہے اس کے دفع پر ہر انسان قادر نہیں عورت کو منع کرتا رہا وہ نہ مانی یہ دفع پر قادر نہ تھا اس نے زبردستی داخل کر لیا۔ اس صورت میں بھی مرد پر صرف قضا ہے۔

یدل علیہ قول الفتح مستدلاً علی وجوب الكفارۃ ذلک امارة الاختیار فعلم ان لا کفارۃ لولا اختیار۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کانوں میں پانی چلا جانا یا خود اس کا ذال لینا ناقص صوم نہیں ہے کیا یہی حکم ہے اگرچہ دماغ تک پانی پہنچ

جائے یا بکچھا اور۔ بینوا تو جروا

الجواب پانی اگر خود چلا جائے اگرچہ دماغ تک بالاتفاق روزہ نہ جائے گا اور اگر یہ ذالے اور کان کے اندر جوف تک پہنچائے تو اختلاف تصحیح ہے اور فقیر کے نزدیک راجح افظار۔

روالخمار میں ہدایہ و تبیین و محیط و داویجیہ سے عدم الفطر اور خانیہ و برازیہ و فتح و برہان سے فطر کی ترجیح لفظ کی اس پر حاشیہ فقیر میں ہے:

اعقوال معلوم ان تصحیح قاضی خان مقدم لانہ فقیہ النفس علی ما فی دلیل الفطر من القوۃ الاتری
ان من غیب حشفة فی دبره او هی فرجها افطر مع عدم صلاح البدن فی ذلک۔ والله تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی عفی عنہ

بمحمد بن المصطفیٰ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم